

# انوار انوری

تذکرہ

امام المفسرین، خاتمة الْمُحَمَّد شیخ فی الہند، آیۃ مِن آیات اللہ  
حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ  
از

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ  
(تمیز حضرت اقدس)

مقدمہ

شیخ الشفیر و الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زر ولی خان  
دامت برکاتہم

ناشر

شعبہ نشوہ اشاعت  
جامعہ عربیہ احسن العلوم  
 بلاک ۲، گلشنِ اقبال، کراچی

# النوار النوری

تذکرہ

امام المفسرین، خاتمة الحمد شیں فی الہند، آیتہ من آیات اللہ  
حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

از

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ  
(تلمیذ حضرت اقدس)

مقدمہ

شیخ الشفیر و الحدیث حضرت مولانا منتی محمد زر ولی خان  
دامت برکاتہم

ناشر

شعبۂ نشرو اشاعت

جامعہ عربیہ احسن العلوم

بلاک ۲، گلشنِ اقبال، کراچی

## الافتخار

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت القدس امام انصار مولانا انور شاہ صاحبؒ کی سوانح پر یہ دوسری کتاب "انوار انوری" مختصرہ شہود پر آری ہے اس سے قبل محترم عبدالرحمٰن سند و مقبولہ کشیری کتاب "الانور" جو تقدیس انور کے نام سے ہمارے ہاں سے شائع ہو چکی ہے حق تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جامعہ عرب یا احسن العلوم میں تقریباً ۱۸ سال سے بخاری و ترمذی کے اس باقی پڑھانے کی سعادت لفیض ہوئی شاہ صاحبؒ ہی کی برکت ہے کہ باذوق طلباء کی ایک کثیر تعداد متوجہ ہے۔ فی الحال ۳۰۰ طلباء، دوسرہ حدیث میں مشغول درس ہیں۔ "انوار انوری" جو حضرت شاہ صاحب کے قابل اور فناوار شاگرد حضرت مولانا محمد انوری لاکپوری کی شاہکار تصنیف ہے ان کے فرزند ارجمند کے توسط سے مجھ تک پہنچی میں نے اس نعمت کا اپنی بساط کے مطابق شکر بجالانے کی کوشش کی اور "انوار انوری" کافی حد تک مناسب کاغذ اور طباعت کے ساتھ مختصرہ شہود پر آری ہے خداوند تعالیٰ ہی کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے بزرگ دوست حاجی عمر فاروق جو احسن العلوم کے انتظام والضرام میں ایک فناوار عقیدت بزدار کی طرح اپنے خزانوں کے ساتھ پیش پیش ہیں، انہی کے اخلاص کی برکت ہے کہ جامعہ عرب یا احسن العلوم کی ایک مفتخر شاخ سیرگاہ روڈ ماری پور کی تعمیر و تعلیمات کا سلسلہ رواں دواں ہے برا درم عمر فاروق کے نوبت بال صاحبزادے حافظ احمد عمر اور حافظ حسن عمر مسلم حبہ اللہ کی معصومانہ دوالے اور جذبہ واشار کے شرپار نتیجے کے طور پر "انوار

نام کتاب: انوار انوری

تألیف: حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

موضوع: احوال و واقعات، تذکرہ امام المفسرین،

خاتمة الحمد شیش فی الهند، آییہ من آیات اللہ

حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ

طبع: سید محمد حسن طارق

سنه طباعت: ربیع الثاني، ۱۴۲۵ھ

تعداد: ۱۰۰۰

ناشر

شعبہ نشوہ اشاعت

جامعہ عربیہ احسن العلوم

بلاک ۲، گلشنِ اقبال، کراچی

فون: ۳۹۶۸۳۵۶، ۳۸۱۸۲۱۰

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## فہرست انوار انوری

(۱) مقدمہ۔۔۔۔۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمد زروی خان صاحب	.....
مدخلہ العالیٰ بانی و رئیس الجامعہ العربیہ احسن العلوم.....	۱۳۶۳
(۲) وجہ تایف.....	۳
(۳) امام اعصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا شجر و نسب.....	۴
(۴) اکابر علماء کے آراء گرامی بابت امام اعصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب.....	۱۰۵
(۵) بہاولپور میں حضرت شاہ صاحب کی تشریف آوری اور پر شوکت مجلس.....	۷
(۶) حضرت شیخ البندگی مجلس کا عجائب رنگ.....	۸
(۷) حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کا تذکرہ.....	۱۰۹
(۸) مولانا محمد انوری کے نام مولانا انظر شاہ صاحب کا ذکر.....	۱۱
(۹) حضرت شاہ صاحب کا فارسی کلام.....	۱۲، ۱۵، ۱۳
(۱۰) مولانا مفتی گایات اللہ صاحب کی کتاب روض المریاصین کا تذکرہ.....	۱۷
(۱۱) حضرت مفتی صاحب کا حضرت شاہ صاحب کے بارے میں مدحیہ کلام کے	۱۹، ۱۸، ۱۷
(۱۲) مدرسہ امینیہ دہلی کا اہتمامی حوال.....	۱۹
(۱۳) حضرت شاہ صاحب کی طریقت و ارشاد.....	۲۰
(۱۴) حضرت شاہ صاحب کا درس حدیث مدینہ مدنیہ رومیں.....	۲۱

انوری "انوار بنوری" کے قدر داؤں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ حق تعالیٰ یہ کہ وہیں قول فرمائے اور حضرت اقدس امام اعصر مولانا انور شاہ صاحب کے رفع درجات اور کتاب میں مذکور ہے۔ حق کے ایصال ثواب اور ہم تک کتاب پہنچانے والوں کے درجات عالیات اور خود ہمارے لئے سرمایہ، ہدایت و نیایا اور ذخیرہ مغفرت و نجات و دخول جنت الفردوس بنائے۔ حق تعالیٰ شانہ جزائے خیر دے برادرم پروفیسر مژن حسن صاحب کو جو حضرت اقدس شاہ صاحب کے عقیدت و احترام میں ایک مثالی مقام رکھتے ہیں کتاب کی تحریر و تصحیح میں شب و روز نہایت جانشناختی کے ساتھ مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسانی اور ایمانی جدوجہد کو خصوصی قبولیت سے شرف پریاری عطا فرمائے۔

و ما ذلک على الله بعزير

والسلام

الاحقر والافقر

محمد زروی خان عفان اللہ عن

خادم جامعہ عربیہ احسن العلوم

و خادم الحدیث والتفسیر والافتاء، بہا

(۳۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدنیہ کے درمیان معابدہ.....	۳۸
(۳۳) قتل مسلم کی سزا اور دارالاسلام اور غیر دارالاسلام کا فرق.....	۳۹
(۳۴) حضرت شاہ صاحبؒ کا حافظ ضرب انتہا.....	۴۰
(۳۵) صاحب نبراس حضرت شاہ صاحبؒ سے استفادہ فرماتے تھے.....	۴۱
(۳۶) حضرت شاہ صاحبؒ نے ۳۲ سال پہلے دیکھی ہوئی آتاب کا صفحہ اور سطر کی تید کے ساتھ بہاؤ پور کی عدالت میں قادیانی وکیل کی تلبیس پکڑتے ہوئے	
حوالہ پیش کیا (اس کتاب کا نام فواتح الرحموت شرح مسلم	
الثبوت لمولانا بحر العلوم ہے).....	۴۲
(۳۷) قادیانیوں نے عربی میں مناظرے کا جلیخ کی حضرت شاہ صاحبؒ مناظرے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مناظرہ با فعل شعر میں ہو گا جس کے بعد	
قادیانی کی ہائڈی چورا ہے پر پھوٹی.....	۴۳
(۳۸) حضرت شاہ صاحبؒ کاریں گاڑی کا ایک سفر.....	۴۴
(۳۹) حضرت شاہ صاحبؒ کا چار سال کی عمر میں ایک مناظرے کا ذکر کرنا.....	۴۵
(۴۰) حضرت شاہ صاحبؒ کے دریں حدیث میں حکیم الامت مولانا اشرف علی خانوئی کا تشریف فرمائونا.....	۴۶
(۴۱) حضرت شیخ الہندگی خدمت میں ایک مسئلہ کا سُنانا.....	۴۷
(۴۲) کشمیر تشریف یجاتے ہوئے ایک پادری سے گفتگو.....	۴۸

(۱۵) حضرت شاہ صاحبؒ کا دارالعلوم دیوبند میں استاذ کی حیثیت سے تقریر.....	۴۱
(۱۶) حضرت شاہ صاحبؒ کی سند بابت علامہ آلوی مفسر.....	۴۲
(۱۷) حضرت شاہ صاحبؒ کا جمیعہ علماء ہند کے اجلس پشاور میں صدارتی خطبہ ..	۴۳
(۱۸) علامہ جامی کا تحسیدہ.....	
(۱۹) بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ.....	۴۵
(۲۰) فریضہ تبلیغ، تو حمیہ و رسالت.....	۴۶
(۲۱) انصاری کے ہاں تبلیغ نہیں ہے.....	۴۷
(۲۲) ان جمل حضرت پیغمبرؐ کے بہت بعد کی تالیف ہیں.....	۴۸
(۲۳) روح اور مازوہ کا عجب تذکرہ.....	۴۹
(۲۴) اشیاء عالم اور مسئلہ ممکنات.....	۵۰
(۲۵) قدیم بالذات کا تذکرہ.....	۵۱
(۲۶) فاعل اور چارچیزیں.....	۵۲
(۲۷) زمان و مکان کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؒ کے اشعار.....	۵۳
(۲۸) کائنات کی کتاب ایک ورق ہے.....	۵۴
(۲۹) کون و مکان پر حضرت شاہ صاحبؒ کے اشعار.....	۵۵
(۳۰) خدمت دین کا فریضہ علماء حق کا منصب ہے.....	۵۶
(۳۱) تبلیغ اسلام کے زرین اصول.....	۵۷

(۵۸) قبر میں خاتم النبین کے بارے میں سوال ہوگا، تاریخ اُن عسکر کا جواہ ..	۲۶
(۵۹) امام ابو یوسفؓ کی کتاب الخراج کا تذکرہ ..	۲۷
(۶۰) شفیر روضہ میں اختلاف ہے، راجح تکفیر ہے ..	۲۸
(۶۱) معز لہ کارڈ ..	۲۹
(۶۲) کفار کے اعمال بھی دنیا میں مفید ہو سکتے ہیں ..	۳۰
(۶۳) "فصل الخطاب" کا تذکرہ اور جواب ..	۳۲
(۶۴) مولانا خیر محمد جالندھریؒ اور حضرت شاہ صاحب کا ذکر خیر ..	۳۳
(۶۵) مخفی اُن ثقة امہ مطبوع اور مخطوط میں فرق ہے ..	۳۵
(۶۶) فلپائن کے شیخ الاسلام کا حضرت سے متاثر ہونا بلکہ گروہ ہونا ..	۳۷
(۶۷) فصاحت و بلاغت کے نمونے ..	۳۹
(۶۸) اُن سینا اور مسئلہ روح ..	۴۰
(۶۹) حضرت شاہ صاحب کا درس ظرافتیں ..	۴۳
(۷۰) اُن جرج طبریؒ کا تذکرہ ..	۴۳
(۷۱) حدیث "انما الاعمال" کی عجیب و غریب تشریع ..	۸۵، ۸۳
(۷۲) عاشورہ کی تاریخ کی تحقیق ..	۸۷، ۸۲
(۷۳) عالم کی بقاہی والی پر منحصر ہے ..	۹۸
(۷۴) ختم نبوت پر ایک نادر تحقیق ..	۱۰۱

(۳۳) مولانا عبد اللہ بندھمیؒ کا حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم کا اعتراف ..	۳۹
(۳۴) بلاورب کے انور شاد شیخ زاد الکوثریؒ حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم کے معرفت تھے ..	۵۰
(۳۵) حضرت شاہ صاحبؒ کے علاالت بواہر و غیرہ ..	۵۱
(۳۶) سید سلیمان ندویؒ نے حضرت شاہ صاحبؒ کا تذکرہ فرمایا ہے ..	۵۲، ۵۱
(۳۷) حضرت شاہ صاحبؒ اور علامہ مزخریؒ ..	۵۳
(۳۸) حدیث القائل و المحتول فی النار اور حضرت شاہ صاحبؒ کی تشریع ..	۵۵
(۳۹) مقدمہ بہاولپور کے احوال ..	۵۷
(۴۰) عذاب قبر کا منکر کا فرق ہے ..	۵۸
(۴۱) مسلمہ کذاب کے دو قاصدؤں کا تذکرہ ..	۵۹
(۴۲) دین اسلام متواتر ہے اس کا مطابق ..	۶۰
(۴۳) حضرت عیین کا نزول احادیث متواترہ سے ثابت ہے ..	۶۱
(۴۴) تو اتر کی چار قسمیں ہیں ..	۶۳، ۶۲
(۴۵) مرزا غلام احمد قادریؒ نے اپنی کتاب الریعن میں انبیاء کی توہین کی ہے ...	۶۳
(۴۶) ضروریات دین کا منکر کا فرق ہے ..	۶۴
(۴۷) جامع الشصولین اُن حزم کی کتاب الفصل تقاضی عیاضؒ کی شرح شفاء اور حافظ اُن تیسی گی کتاب الصارم امسول کے حوالے ..	۶۵

(۹۰) مولوی محمد علی لاہوری قادری کی تفسیر دحل والخادی کے ..... ۱۵۳
(۹۱) حضرت شیخ البندگی وفات پر مجمع العلماء اور حضرت شاہ صاحبؒ کی تقریر اور وقایہ ..... ۱۵۲، ۱۵۵
(۹۲) مولا ناعطا اللہ شاہ بخاریؒ کا تذکرہ ..... ۱۵۷
(۹۳) حضرت شاہ صاحبؒ نے لاہور میں تقریر اور عافرمانی ..... ۱۶۳
(۹۴) "مبسوط" کا تذکرہ ..... ۱۶۶
(۹۵) بہادر لپور کے مقدمہ کا کچھ حال ..... ۱۶۸
(۹۶) عید مسلم اور علامہ جوہر طباطبائیؒ کا تذکرہ ..... ۱۷۰
(۹۷) مسئلہ استوا علی العرش ..... ۱۷۳
(۹۸) ایک حدیث میں نکتہ ..... ۱۷۷
(۹۹) یوم سبت کی تحقیق ..... ۱۷۵
(۱۰۰) انتخاب جمعہ کی حدیث میں توجیہات ..... ۱۷۷
(۱۰۱) بنی اسرائیل کی عید یوم عاشورہ ..... ۱۸۰
(۱۰۲) عاشورہ کی مزید تحقیق ..... ۱۸۱
(۱۰۳) عید رمضان ..... ۱۸۲
(۱۰۴) اتنا مقرر آن عزیز ..... ۱۸۳
(۱۰۵) سنت نبوی ﷺ اور سنت خانقاہ راشدین کا فرق ..... ۱۸۸

(۷۵) اعمال فی القبور کا تذکرہ ..... ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵
(۷۶) بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی عملی دھل ..... ۱۰۸
(۷۷) بندوق کا شکار ..... ۱۱۱
(۷۸) علم الفرائض پر ایک طویل نظم ..... ۱۱۲، ۱۱۱
(۷۹) حضرت شاہ صاحبؒ کا تجھر علی ..... ۱۱۳
(۸۰) خلاف شرح تعظیم پر گرفت ..... ۱۱۷
(۸۱) قرات خلف الامام منع ہے ..... ۱۲۳
(۸۲) توسل قولی فعلی ..... ۱۲۳
(۸۳) اعیاز قرآنی ..... ۱۲۷
(۸۴) ابتدائی دور کا حال ..... ۱۲۸
(۸۵) مولا ناظمیر الدین نیبویؒ اور تقویؒ کا معاملی، شاہ صاحب اور دیگر بزرگوں کے تعلقات ..... ۱۳۰
(۸۶) حضرت مولا ناصرین علی صاحبؒ نے حضرت شاہ صاحبؒ کو دعوت محکمہ دی ..... ۱۳۱
(۸۷) قرآن کریم میں تفسیح آیات ..... ۱۳۳
(۸۸) حضرت شاہ صاحبؒ کی فارسی میں پیش بہانم ..... ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷
(۸۹) بقیٰ کی کتاب "نظم الذرر" کا تذکرہ ..... ۱۵۲



الحمد لله رب العلمين و صلى الله وسلم على رسوله الکريم و نبیه  
الامین، وعلى الہ و اصحابہ افضل الخالق بعد النبیین، و من بهدیہم  
افتدى وبآثارهم افتھی، من المفسرین والمحاذین و فقهاء الدین، آمین  
يا رب العالمین. اما بعد!

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے "انما يخشى الله من عباده العلماء" ، اور  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے بحوالہ  
حضرت نعمان ابن بشیر العلما ورثة الانبیاء۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس امت کے  
اوائل و اوخر میں بلکہ ہر دور اور زمانہ میں ایسی گروں قدرستیاں پیدا فرمائیں جو ایک  
طرف خیشت و تقویٰ کے پکیج بھی تھے تو دوسری طرف علوم و کمالات میں انبیاء کے بعد  
سب سے بڑا اور آفاقی طبقہ امت کے لئے خیر و رشد کے فرع رسانی کے لئے رہا ہے،  
حضرات صحابہؓ تو اولنک هم المؤمنین حقاً کے مصدق اول تھے ہی جن میں<sup>۱</sup>  
قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والا ادنیٰ تردد بھی نہیں کر سکتا بلکہ ان کے بعد بخاری کی اصح  
ترین حدیث جو "كتاب اعلم" میں موجود ہے "مثل ما بعثني الله كمثل  
الغیث الکثیر" (الحدیث) بخاری ج ۱، صفحہ ۱۸۔ اس کے ایک حصہ میں

- (۱۰۶) صحابہؓ کرام اس امت کے سب سے قابل لوگ تھے ..... ۱۹۰
- (۱۰۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک تحقیق ..... ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴
- (۱۰۸) مقدمہ بہاولپور سے واپسی کا حال ..... ۲۰۰
- (۱۰۹) مولوی احسان خطیب ایہٹ آباد کا تذکرہ ..... ۲۰۳
- (۱۱۰) ڈاکٹر اقبال کا تذکرہ ..... ۲۰۴
- (۱۱۱) حضرت شاہ صاحبؒ کی بہاولپور تشریف آوری اور علماء کا اجتماع ..... ۲۰۸، ۲۰۹
- (۱۱۲) حافظ عراقی کے اشعار ..... ۲۱۰
- (۱۱۳) اہل جہش سے خط و کتابت کا تذکرہ ..... ۲۲۰، ۲۱۲
- (۱۱۴) احادیث و آیات کے بعض تطبیقات ..... ۲۲۵، ۲۲۶
- (۱۱۵) حضرت شاہ صاحبؒ کا ایک شہر اور مولانا عظاء اللہ شاہ بخاری کا  
خوش و خوب ہوتا ..... ۲۹۲

MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULoom KHADIM UL HAETH VALI TAI SELH WALE IFTA AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULoom GULSHANI ISLAM BLOCK D KARACHI PAKISTAN TEL 468210 496356



محمد زر ولی خان

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَنْتُ الْمُعْدُوم

وَالْمُهَاجِرُ وَالْمُنَذِّرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ

وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِرُ



الکوثری ”۔ سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے سابق شیخ الاسلام شیخ مصطفیٰ صبری نے اپنی کتاب ”موقف العقل والعلم والعلماء من رب العلمين“ کی چاروں جلدوں میں آپ کا ذکر المحدث الكبير فی الهند کے عنوان سے کیا ہے۔ انہی کے ہم عصر مشہور اور ظفار فقیر شیخ بختی ”وغیرہ نے آپ کو اپنے زمانے کا امام اور اسلامی علوم پر دستاویز کے درجہ میں تسلیم کیا ہے۔ الاہزر کے ائمہ پر شیخ رشید علی رضا مصری نے مجلہ ”المنار“ میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ بعض علوم میں سلف سے متقدم ہیں یعنی ان پر فوقيت رکھتے ہیں (جب کہ ان کی اس بات کا حضرت شاہ صاحب نے ان کی موجودگی میں دارالعلوم دیوبند کے خلق میں روفرمایا تھا اور یہ حضرت کا کمال تواضع اور کمال اعتدال فی الرجال تھا)۔ ان حقائق کے جانے کے لئے امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے علوم کے امین، ہمارے استاذ اور شیخ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے نفحۃ العبر جیسی عظیم کتابوں میں آشکار فرمایا ہے۔ حضرت کی یہ کتاب ”نفحۃ“ اپنے استاذ شاہ انور شاہ صاحب کے حالات پر انسائیکلو پیڈیا تو ہے ہی مگر عربی ادب کے اعتبار سے بھی ابوالعباس مبرد کی الكامل اور الجاظی کی تبیین اور جاراللہ زخیری کی اساس البلاغہ اور ابن شہاب نوری کی نہایت العرب کے پائے کی کتاب بن چکی ہے، چنانچہ ایک عرب نے ”نفحۃ العبر“ دیکھ کر حضرت

بغتوائے حدیث حضرات محدثین نے فقهاء اور مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا اخراج بھی کیا ہے، اس کی تائید میں نصوص قطعیہ یقینیہ موجود ہیں۔ چنانچہ قرون اولیٰ میں الامام الاعظم امام ابو حنیفہ جن کو تابعی یا تبع تابعی کا شرف حاصل رہا ہے اور ”راس الاجتہاد والفقہ“ تسلیم کئے گئے ہیں، ملاحظہ ہو ”فص الختام فی مسئلۃ الفاتحة خلف الامام“، لمولانا وشیخنا محمد یوسف البیوری۔ اسی طرح ائمہ حدیث میں حضرت امام بخاریؓ اور ان سے پہلے اور ان کے بعد بے شمار محدثین کرام ہوئے ہیں جن پر امت محمدیہ کو فخر حاصل ہے۔

ہندوستان کے دور آخر میں امام العصر، محدث بکیر، فقیہ علی الاطلاق حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب ” بھی ان نامور ہستیوں میں سے ہیں جن پر اسلام اور الہمیان اسلام دیریک شکر و فخر کریں گے، آپ کی علمی عظمت، وسعت اطلاع، مدارک مجتہدین کی شناسائی اور اسلامی علوم کے طول و عرض کے وادی سربراہ اور اس سلسلے کے علل اور حکم و اسرار سے جو موہوبہ ملکات آپ کو حاصل تھے ان کا اعتراف خود آپ کے دور کے محدثین مفسرین فقهاء کرام، جن میں آپ کے اساتذہ اور مشائخ بھی شامل ہیں، کرچکے ہیں۔ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ محمد زاہد الکوثری جیسے تابعہ روزگار اور عبقری محدث و فقیر نے آپ کی صلاحیتوں کو اپنی تصانیف میں جا بجا رہا ہے، ملاحظہ ہو ”مقالات

محمد زر ولی خان سندھی  
دینِ الحنفیہ الفرمیہ الحسن الشافعی  
دینِ الحنفیہ الحسن الشافعی دینِ الحنفیہ الحسن الشافعی  
دینِ الحنفیہ الحسن الشافعی دینِ الحنفیہ الحسن الشافعی



MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom KHADIM UL HADITH VALI DAIRY  
VALI ITA AJJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom QADESHANI QIBAL BLOCK 3 KARACHI  
PAKISTAN TEL 466210 466211

۶

بنوری گوکھا: قرات کتابک النفحۃ فسجدة لبيانک، میں نے آپ کی  
نفحۃ العنبر دیکھی اور اس کی فصاحت و بلاحت کے سامنے احترام کا سرجھایا۔ خود  
حضرت بنوری مرحوم سے میں نے سنا تھا کہ نفحۃ العنبر لکھنے سے میری عربیت کو  
بہت فائدہ ہوا اور اس کے بعد مجھے مزید عربی تحریر یا تقریر میں کبھی گرانی پیش نہیں آئی۔  
یہی وجہ تھی کہ مصر کے شیخ الازہر ذکر تور عبدالحیم محمود نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ  
حضرت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی آپ بہترین شاعر بھی ہیں اور زبردست ناشر بھی،  
آپ کبھی اندازے اور تجھیس سے بات نہیں کرتے، آپ کی ہربات تحقیق اور بہان کی  
اساس پر قائم ہوتی ہے، دیکھنے خصوصی نمبر حضرت بنوری پر۔ غالباً ذاکر عبدالرازاق  
اسکندر کے مقابلے پر شیخ الازہر کا اظہار رائے موجود ہے، اور حضرت بنوری مرحوم  
فرماتے تھے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدرا الدین عینی شارحان بخاری کے بعد  
ڈکٹور عبدالحیم محمود دوسرا حقیق عالم پیدا ہوا ہے جو سلف صالحین کے مثیل پر قائم ہے۔ کسی  
نے کہا ہے،

قدر زر زرگ شاہد قدر جوهر جوهری  
قدر گل بلبل شاہد قدر دلدل را علی  
اور فارسیان نے کہا ہے: ولی راوی می شاہد۔

MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom KHADIM UL HADITH VALI DAIRY  
VALI ITA AJJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom QADESHANI QIBAL BLOCK 3 KARACHI  
PAKISTAN TEL 466210 466211



محمد زر ولی خان سندھی

دانشگاہ مسجد الحنفیہ الحسن الشافعی  
دانشگاہ مسجد الحنفیہ الحسن الشافعی دینِ الحنفیہ  
دانشگاہ مسجد الحنفیہ الحسن الشافعی دینِ الحنفیہ

بہر حال نفحۃ العنبر کے بعد بھی حضرت شاہ صاحب پر بے شمار مقائلے لکھے  
گئے اور مختلف ملکوں کے قدر شناسوں نے آپ پر گراں قدر تحقیقات کر کے ڈاکٹریٹ  
کے درجات حاصل کئے۔ بلا و عرب کے آخری محقق اور اہل سنت کے ترجمان جنہیں  
حق تعالیٰ نے عرب و عجم میں یکساں قبولیت عطا فرمائی تھی۔ شیخ عبدالفتاح ابو عذہ نے  
تقریباً اپنی اکثر تصانیف میں تعلیقات و تحقیقات میں بالخصوص ”التصیریح فی  
ما تو اتر من الاحدادیت فی نزول المسیح“ کے مقدمہ اور تعلیق میں گویا حضرت  
شاہ صاحب پر سیر حاصل کلام فرمایا ہے اور یہ شعر لکھا ہے،

بِحَرِ الْعُلُومِ فَمَا بَحْرِ يَاكِلَهُ  
لَوْنَقْبَوْا الْأَرْضَ لَمْ يَوْجَدْ لَهُ شَبَهَ  
مَقْبُوضَهُ كَثِيرَهُ میں حضرت شاہ صاحب کے قرب و جوار کے ایک قدر داں عبدالرحمٰن  
گندو صاحب نے ”الأنور“ کو کبھی جو کافی حد تک اردو میں لکھی جانے والی حضرت شاہ  
صاحب کی سوانح میں سب سے جامع ہے۔ ہمارے بزرگ محسن محمد میاں کاندھلوی  
صدیقی دامت برکاتہم کے توسط سے ایک نہذاس عاجز کو پہنچا جئے تھے میرے سے اپنے  
محترم قدموں کے ساتھ ”لقدس الأنور“ کے نام سے شائع کیا جو احسن العلوم کی جلیل القدر  
خدمات میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت کے



MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom KHADIM UL HADITH WAL TA'SEEH  
WAL IFTA ALJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULoom GULSHANE QIBA BLOCK 7 KARACHI  
PAKISTAN TEL 446210 446256



محمد زر ولی خان

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ احمد بن حنبل  
وہ مکتبہ دین و اسلام کا اعلیٰ انتظامیہ موسیٰ مسند تحریک احمد بن حنبل  
سیفیہ پھٹکنیں انسار رائے فرمودیہ احمد بن حنبل سیفیہ

۹

ہیں وہ اس کتاب ”انوار انوری“ میں موجود ہیں۔ کتابت اور طباعت کمزور رہی ہے جس کی وجہ سے بعض دقيق علمی اشارات سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تاہم ہماری کوشش رہی کہ جہاں تک ہو سکے یہ کتاب پہلے ایڈیشنوں کے مقابلے میں زیادہ صاف اور قابل دید بین کر سامنے آئے۔

اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کو حضرت اقدس شاہ صاحبؒ اور ان کے علوم و کمالات سے گھری مناسبت نصیب فرمائی جس پر میں ہر لمحت تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں اور اسکی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اوائل تعلم میں حضرت الاستاذ مولانا الطف اللہ صاحب جہانگیر وی کی صحبت اور ان سے خوشہ چینی کی سعادت نصیب ہوئی جو حضرت شاہ صاحب کے اوپرین اور لاکن شاگردوں میں سے تھے اور انھیں حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں ہر کتاب میں اول آنے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت مولانا الطف اللہ صاحب جب اپنے استاذ مولانا انور شاہ صاحب کا تذکرہ فرماتے تو مشک و غیر مشک جاتی اور مجلس کشت زعفران بن جاتی۔ بعد میں دیکھا کہ شیخ طاہر پنھی نے اپنی کتاب مجمع البحار میں یہ آداب لکھے ہیں کہ اپنے استاذ کا ذکر بڑے آداب والقاب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مدریب وغیرہ میں بھی یہ آداب موجود ہیں۔

دوسری وہ جامعہ اسلامیہ بنوری ناؤں میں علوم انور شاہ کے امین حضرت مولانا محمد

صاحب از ہر شاہ قیصر نے بھی حیات انور لکھی تھی جو علماء کے ہاں پسندیدہ کتاب سمجھی گئی ہے۔ نیز حضرت شاہ صاحب کے فرزید اصغر اور علوم و فنون کے جلد اکابر دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث ہمارے بزرگ اور محسن حضرت مولانا انظر شاہ صاحب نے نقش دوام کے نام سے ایک جامع و مانع سیرت اپنے ابا جان کی پر قلم فرمائی، موصوف چوتھکہ دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں اور علوم و فنون کے کامیاب استادر ہے ہیں نیز تاریخ دانی اور انشاء پردازی کا ملکہ بھی کافی حد تک رکھتے ہیں اس لئے ”نقش دوام“ عجیب الشان اور عظیم المرتب تصنیف بن کر مقصد رہبود پرآچکی ہے۔ اگر مخلوق کی لکھی ہوئی کوئی کتاب کسی علم و فن سے مستغنی کر سکتی ہے تو بزرگوارم کی یہ کتاب اور تصنیفات سے اس موضوع پر بے نیاز کر دیتی ہے مگر ایسا نہیں ہے ولنعم ماقبل: کم تر ک الاول لآخر.

چنانچہ امام اعصر حضرت شاہ صاحبؒ کے قدیم شاگرد جو اپنے آپ کو حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے ”محمد انوری“ کہلاتے تھے ان کی ایک مختصر اور جامع تصنیف ”انوار انوری“ لکھی ہے جو کافی حد تک حضرت شاہ صاحب کے علوم اور ان کی مبارک زندگی کے اطراف کو ظاہر کرنے والی ہے، یہ کتاب کافی حد تک علماء کے کام کی ہے اور حضرت شاہ صاحب کے بعض ایسے علوم اور تحقیقات جو اکثر تذکرہ نگاروں سے رہ گئے

### MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULOOM KHADIM UL HADITH WAL TAJSIH  
WAL ITTA ALJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL  
ULOOM GULSHAN E KHALQ BLOCK 2 KARACHI  
PAKISTAN TEL: 92310 496354



محمد زرولی خان  
کاظمیہ مدرسہ تحریرہ احمدیہ  
وادی الحدیث پور و اکادمیہ حفظ و تعلیم، دہلی، احمدیہ  
ستھان: ڈیکھنے والی، ریشم، کارچئی، پاکستان

۱۱

الخطاب ”اور ”خاتمة الكتاب“ وغیرہ کتب بھی وقت کے محققین کے ہاں اسانید علم بھی جاتی ہیں۔ مگر فتنہ آخر زمان قادیانیت و مرزایت کے خلاف آپ کے بے شمار مقالے اور اپنے تمام قابل شاگردوں کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا اور خود ”اکفار الملحدین“ اور ”عقيدة الاسلام في حياة عيسى“ جیسی کتب جن کے بارے میں وقت کے محققین نے کہا ہے کہ اس کی نظری ادائی کتب میں موجود نہیں۔ عقيدة الاسلام کے بارے میں حضرت شاہ صاحب ”کے قرین محدث اور متكلم اور مفسر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قرآن کریم کی آیت ”انی متوافق“ کے ذیل میں حیات عیسیٰ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اس موضوع پر مستقل رسائلے اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں، مگر میں اہل علم کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مخدوم علامہ فقیہہ انظر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ شمسیری اطال اللہ بقائی نے رسالہ ”عقيدة الاسلام“ میں جو علمی لعل و جواہر و دیعات کے ہیں ان سے متعلق ہونے کی بہت کریں، میری نظر میں اس موضوع پر ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی“۔ تفسیر شیخ الہند ”المعروف“ پڑھنے والی حوالہ پارہ نمبر ۳ سورہ آل عمران حاشیہ نمبرے، تفسیر ذیل آیت نمبر ۵۵)۔ پاکستان کے شعلہ بیان مقرر، عوام و خواص کے محبوب خطیب، حق کے داعی اور مسلک دیوبند کے ترجمان شورش

یوسف بنوری ”کی صحبت اور تلمذ ہے کہ آپ اپنے شیخ کے احوال جیسے راوی روایت کر رہے ہوں بیان فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کا ابو ہریرہ ہوں، حضرت کے اس حسین انداز کا ہمارے استاذ مولانا اور اسی صاحب میرٹھی جو خود بھی حضرت شاہ صاحب ”کے شاگرد تھے حضرت بنوری ”کے احوال میں کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بینات خصوصی نمبر۔

تمیری وجہ جس کا اثر تقریباً تمام اکابر و اصحاب علماء دیوبند پر ہے وہ حضرت شاہ صاحب ”کے عجیق علوم دقيق نظر اور فقہ و حدیث میں قابل قدر تطبیقات ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ سے بخاری کی شرح فیض الباری اور ترمذی کی شرح عرف شذی اور معارف اسنن اور ابو داؤد کی شرح انوار الحمود میں وہ کام لیا ہے جو حافظ ابن حجر سے فتح الباری میں اور بدر الدین حنفی سے عمدہ القاری میں اور احمد قسطلانی سے ارشاد الاساری میں نہیں لیا گیا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جن مقامات پر وہاں کلام نہیں ہے یا منتشر ہے وہاں حضرت شاہ صاحب بحرزادہ خار کی طرح موجود موجیں مارتا ہوا لعل و جواہرات و دیعات فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ”کی دیگر تصنیفات جیسے کشف الستر عن ابواب الوتر اور نیل الغرقدین اور بسط الیدین وغیرہ کتب بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ”فصل

### MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULOOM KHADIM UL HADITH WAL TA'SEER WAL IFTA AJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULOOM GULSHAN E ORIAL BLOCK 2 KARACHI PAKISTAN TEL 468210 496854



۱۳

### محمد زرولی خان

دینِ الحدیث احمد بن مسلم  
و محدث و شیعہ امام اور حضرت مسیح امیر الامم  
محلہ مکتبت فضل رقم ۷ اسلامیہ مدنگاری  
۰۲۱ ۴۹۶۸۵۴ ۰۲۱ ۴۶۸۲۱۰

سلمان گیلانی دام اقبالہ جب محمد انور شاہ کی ولادت پر مبارک باد دینے آئے جب کہ پورے ملک اور بیرون ملک کے احباب اور قدرشاہ ساؤں نے اس موقع پر تہنیت و مبارک باد کے تاریخی ہیں جو خود حضرت شاہ صاحب کی کرامات کا مظہر ہے۔ چنانچہ سلمان گیلانی مدظلہ جب مبارک باد دینے آئے تو اپنی ما درزادہ ملکہ شعر گوئی کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا۔

انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی گرچہ وہ کاشیری ہے اور یہ پٹھان ہے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر یہ نام ان کے واسطے تکمین جان ہے چنانچہ حضرت شاہ صاحب سے عقیدت و محبت کے مظہر نوہاں محمد انور شاہ نے بھر گیا رہ سال چند دن پہلے حفظ قرآن کریم مکمل فرمایا ہے جس کی تقریب سعید میں شہر بھر بلکہ ملک بھر کے علماء اور اولیاء کی خوشنودی اور حوصلہ افزائی دیدنی ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم سے امام اعصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب پر یہ دوسری کتاب حضرت کی مبارک سوانح پر مشتمل شائع ہو رہی ہے۔ امید

### MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULOOM KHADIM UL HADITH WAL TA'SEER WAL IFTA AJAMIA TUL ARABIA AHASAN UL ULOOM GULSHAN E ORIAL BLOCK 2 KARACHI PAKISTAN TEL 468210 496854



۱۴

### محمد زرولی خان

دانش الجماعة العربية جنس المفتوم  
و محدث و شیعہ امام اور حضرت مسیح امیر الامم  
محلہ مکتبت فضل رقم ۷ اسلامیہ مدنگاری  
۰۲۱ ۴۹۶۸۵۴ ۰۲۱ ۴۶۸۲۱۰

کاشیری نے خوب کہا ہے۔

یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لاقانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ہانی نہیں حضرت اقدس شاہ صاحب سے گھری وابستگی اور حضرت کے ساتھ نبتوں کی برکات کے نتیجہ میں جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہوا۔ اور چند ہی سال سے علماء و طلباء کا بلکہ علماء اولیاء کا مرکز و معدن بن گیا جس میں بوقت تحریر دورہ حدیث شریف میں ۳۰۰ تین سو کے قریب مسافر طلباء موجود ہیں، یہ سب کچھ حضرت شاہ صاحب سے نسبت کی برکت ہے۔

گرچہ خور دیم ولے نبنت بزرگ داریم چنانچہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے اوپر مرکزی گیٹ پر ”بیاد امام اعصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب“ کے مبارک کلمات درج ہیں۔ یہ اس عاجز و فقیر اور اس کی کمزور و عاجز مخت و کاوش کا ایک عنوان ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت شاہ صاحب سے تعلق و محبت کے نتیجہ میں پانچ بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا اس کا نام بھی بہافت غبی اور نسبت علمی و تعلق قدیمی و شکر و فخر احسان ”محمد انور شاہ“ تجویز ہوا، چنانچہ عزیز القدر

MUHAMMAD ZAR VALI KHAN

KHADIM AL JAMIA TU ARABIA AHASAN UL ULOOM KHADIM UL HAERI WAL TAISIR WAJ-IFTA AL JAMIA TU ARABIA AHASAN UL ULOOM GULSHANE IORAL BLOCK 7 KAHAK PAKISTAN TEL 456210 456214



ہے شکر و پاس کے قدر داں، علم کے جو ہرشاں علماء و طلباء بلکہ دین اسلام کے دروسوز  
رکھنے والے محسین و مخلصین اس بہترین اور جامع اور مبارک کتاب "انوار انوری" کو  
آئینہ سینے سے لگائیں گے اور لکھنے والے اور نشر و اشاعت کرنے والے اور ان تک  
پہنچانے والے حضرات خیر کو اپنی مبارک دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔

غرض نقشیت کرنا یاد ماند  
کر ہستی رانی یعنی بتائے  
ولے صاحب دلے روزے برحمت  
کند درکار درویشان دعائے

والسلام

وَإِنَّا لَأَخْتَرُ وَالْأَفْتَرُ

محمدزروی خان عفان اللہ عنہ،

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ ایک قطرہ ہے بحرِ محيطِ کمالاتِ انوری میں  
سے، اس لئے کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے پورے علوم کا احاطہ کرنا بڑا مشکل  
کام ہے، ہمارے جیسے ہمچند انوں کی کہاں وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔  
خود فرمایا کرتے تھے ہمیں مدت العمر کوئی صحیح مخاطب نہیں ملا، اس  
کتاب کو آپ حضرات بغور مطالعہ کر کے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علوم انوری  
انتنے بے بہاتھے آپ کی کتاب "ایناس" کا جو مطالعہ کرے حالانکہ وہ مختصر  
ہے تو پتہ چلے گا کہ گویا ساری عمر دیسی سایت میں لگائی ہے اسی طریقے سے کبھی  
کتابیں ہیں۔

۔ قیاس کن ز گلستان من بحال مرا

## بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة  
والسلام على رسوله محمد وآلـه واصحـابـه واهـل بـيـتـهـ اـجـمـعـينـ .  
حضرـشـاـحـ صـاحـبـ نـإـ اـپـنـیـ بـعـضـ اـصـانـیـفـ مـیـںـ اـپـنـاـنـبـ نـامـہـ یـوـںـ تـحرـیرـ  
فـرـمـایـہـ: مـحـمـدـ اـنـورـ شـاـھـ بـنـ (۱) مـحـمـدـ مـعـظـمـ شـاـھـ بـنـ (۲) عـبـدـ الـکـبـیرـ بـنـ (۳) اـشـاـھـ  
عـبـدـ الـخـالـقـ بـنـ (۴) اـشـاـھـ مـحـمـدـ اـکـبـرـ بـنـ (۵) اـشـاـھـ حـیدـرـ بـنـ (۶) شـاـھـ مـحـمـدـ عـارـفـ  
بـنـ (۷) اـشـاـھـ عـلـیـ بـنـ (۸) اـشـنـیـ عـبـدـ اللـہـ بـنـ (۹) اـشـنـیـ مـسـوـدـ الزـوـرـیـ  
اـکـشـیـرـیـ .

حضرـشـاـحـ صـاحـبـ کـےـ والـدـ مـاجـدـ بـڑـےـ ہـیـ فـقـیـہـ اـوـ عـالـمـ دـینـ تـھـےـ ،  
اوـرـوقـتـ کـےـ شـیـخـ تـھـےـ اـفـسـوـسـ کـہـ مـیـںـ نـےـ مـلـکـ تقـیـمـ ہـونـےـ سـےـ قـبـلـ بـھـیـ حـضـرـتـ  
شـاـھـ صـاحـبـ کـیـ سـیرـتـ پـاـکـ لـکـھـیـ تـھـیـ تـیـنـ سـوـ صـفـحـاتـ سـےـ اوـپـرـ ہـیـ تـھـیـ ، بـڑـیـ محـنـتـ  
کـیـ تـھـیـ ، کـشـیـرـ خـطـوـطـ لـکـھـ کـرـ دـرـیـافتـ کـرـتاـ رـہـاـ ، حـضـرـتـ کـےـ چـھـوـٹـ بـھـائـیـ حـضـرـتـ  
مـوـلـاـ نـسـیـمـانـ شـاـھـ صـاحـبـ کـےـ بـہـتـ سـےـ خـطـوـطـ آـئـےـ تـھـےـ ، جـوـ بـہـتـ طـوـیـلـ  
تـھـےـ ، انـ مـیـںـ حـضـرـتـ کـاـ اـرـدوـ کـلامـ بـھـیـ تـھـاـ اـوـ بـہـتـ سـےـ عـجـیـبـ وـغـرـیـبـ وـاقـعـاتـ  
حـضـرـتـ کـےـ کـشـفـ وـکـرـامـاتـ کـےـ مـتـعـلـقـ تـھـےـ ، اـیـکـ یـہـ تـھـاـ کـہـ اـیـکـ کـشـیـرـیـ جـوـ کـہـ  
پـاـؤـلـاـ تـھـاـ حـضـرـتـ شـاـھـ صـاحـبـ کـاـ اـیـکـ جـگـ کـشـیـرـیـ مـیـںـ وـعـظـ ہـوـرـ ہـاـ تـھـاـ توـہـ گـڑـ بـڑـ کـرـتاـ  
ہـوـ اـوـوـڑـ کـرـ حـضـرـتـ کـیـ طـرفـ آـیـاـ ، حـضـرـتـ شـاـھـ صـاحـبـ نـےـ اـیـکـ تـھـپـٹـ مـارـ اـسـ کـیـ

حالـتـ درـستـ ہـوـگـیـ ، بـڑـاـ ہـیـ صـحتـ یـاـبـ ہـوـگـیـ . پـھـرـ کـبـھـیـ اـیـسـیـ حـرـکـتـ دـیـوـاـنوـںـ  
وـالـیـ نـہـیـںـ کـیـ . اـفـسـوـسـ کـہـ وـہـ کـاـغـذـاـتـ مـلـکـ تـبـدـیـلـ ہـوـنـےـ کـےـ وقتـ وـہـیـںـ  
راـئـیـکـوـٹـ ضـلـعـ لـدـھـیـانـہـ مـیـںـ رـہـ گـئـےـ ، مـسـودـ بـھـیـ وـہـیـںـ رـہـ گـیـاـ . اـوـ اـیـکـ رسـالـہـ  
رـدـقـادـیـانـیـتـ مـیـںـ جـوـکـہـ اـحـقـرـ نـےـ لـکـھـاـ تـھـاـ اـوـ حـضـرـتـ شـاـھـ صـاحـبـ نـےـ سـفـرـ بـہـاـوـلـ  
پـورـ مـیـںـ دـیـکـھـاـ تـھـاـ اـوـ پـسـنـدـ فـرـمـاـ کـرـ بـہـتـ سـےـ عـلـاءـ کـےـ پـاـسـ اـسـ کـاـ ذـکـرـ فـرـمـاـتـےـ  
رـہـتـےـ تـھـےـ . مـوـلـاـ نـاـمـرـ تـھـےـ حـنـ صـاحـبـ اـوـرـ خـودـ حـضـرـتـ مـوـلـاـ نـاـ غـلامـ مـحـمـدـ صـاحـبـ  
شـیـخـ الجـامـعـہـ کـےـ پـاـسـ بـھـیـ ذـکـرـ فـرـمـاـیـاـ کـہـ اـسـ نـےـ رسـالـہـ لـکـھـاـ ہـےـ اـوـرـ کـفـرـیـاتـ  
قادـیـانـیـ بـہـ نـبـتـ دـوـرسـوـںـ کـےـ مـزـیدـ جـمـعـ کـےـ ہـیـںـ اـسـیـ ہـاـ پـرـ اـحـقـرـ سـےـ بـہـتـ  
شـفـقـتـ فـرـمـاـتـےـ تـھـےـ ، وـہـ بـھـیـ وـہـیـںـ رـہـ گـیـاـ . عـلـامـہـ ڈـاـکـٹـرـ اـقبالـ نـےـ حـضـرـتـ کـےـ  
وصـالـ پـرـ تـقـرـیرـ کـرـتـےـ ہـوـئـےـ یـہـ شـعـرـ پـڑـھـاـتـھـاـ :

ہـزارـوـںـ سـالـ زـگـسـ اـپـنـیـ بـنـوـرـیـ پـرـ روـتـیـ ہـےـ

بـڑـیـ مشـکـلـ سـےـ ہـوتـاـ ہـےـ چـمنـ مـیـںـ دـیدـہـ دـوـرـ پـیدـاـ

فـرـمـاـتـھـاـ کـہـ صـدـ یـوـںـ ہـمـیـںـ حـضـرـتـ شـاـھـ صـاحـبـ کـاـ نـظـیـرـ نـظرـ نـہـیـںـ آـتاـ ، خـودـ  
مـیـںـ نـےـ حـضـرـتـ شـاـھـ صـاحـبـ سـےـ اـسـتـقـادـہـ کـیـاـ ہـےـ اـوـ دـیـوـبـندـ مـیـںـ جـبـ تـعـزـیـتـ  
جلـسـ ہـواـ ، یـہـ ۱۹۳۳ءـ کـاـ ذـکـرـ ہـےـ حـضـرـتـ مـوـلـاـ نـاـ حـسـینـ اـخـمـ صـاحـبـ نـےـ تـقـرـیرـ  
فـرـمـاـتـےـ ہـوـئـےـ یـہـ فـرـمـاـتـھـاـ کـہـ مجـھـےـ اـیـسـےـ لوـگـ یـادـ ہـیـںـ جـنـ کـوـ صحـیـحـینـ زـبـانـیـ یـادـ ہـیـںـ ،  
اوـرـ اـیـسـےـ بـھـیـ مـیـںـ جـانـتـاـ ہـوـںـ کـہـ جـنـ کـوـ اـیـکـ لـاـکـھـ حدـیـثـیـںـ حـفـظـ ہـیـںـ مـگـرـ جـسـ کـوـ کـتبـ  
خـانـہـ کـےـ کـتبـ خـانـہـ ہـیـ حـفـظـ ہـوـںـ ، وـہـ مـوـلـاـ نـاـ مـحـمـدـ اـنـورـ شـاـھـ صـاحـبـ کـےـ سـوـاـ کـوـئـیـ  
نـہـیـںـ ہـےـ ، عـوـمـاـ دـیـوـبـندـ مـیـںـ مشـہـورـ تـھـاـ کـہـ حـضـرـتـ چـلتـاـ پـھـرـتاـ کـتبـ خـانـہـ ہـیـںـ ، اـوـرـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة  
والسلام على رسوله محمد وآلـه واصحـابـه واهـلـبيـتـهـ اـجـمـعـينـ .  
حضرـشـاـهـ صـاحـبـ نـےـ اـپـنـیـ بـعـضـ تـصـانـیـفـ مـیـںـ اـپـنـاـنـبـ نـامـہـ یـوـںـ تـحرـیرـ  
فـرـمـایـاـ ہـےـ: مـحـمـدـ انـورـ شـاـهـ بنـ (۱) مـحـمـدـ مـعـظـمـ شـاـهـ بنـ (۲) عـبـدـ الـکـبـیرـ بنـ (۳) اـشـاـهـ  
عـبـدـ الـخـالـقـ بنـ (۴) اـشـاـهـ مـحـمـدـ اـکـبـرـ بنـ (۵) اـشـاـهـ حـیدـرـ بنـ (۶) شـاـهـ مـحـمـدـ عـارـفـ  
بنـ (۷) اـشـاـهـ عـلـیـ بنـ (۸) اـشـیـخـ عـبـدـ اللـہـ بنـ (۹) اـشـیـخـ مـسـوـدـ الزـوـرـیـ  
اـکـشـیـرـیـ .

حضرـشـاـهـ صـاحـبـ کـےـ والـدـ مـاـچـدـ بـڑـےـ ہـیـ فـقـیـہـ اـوـ رـعـالـمـ دـینـ تـھـےـ ،  
اوـرـوقـتـ کـےـ شـیـخـ تـھـےـ اـفـسـوـسـ کـہـ مـیـںـ نـےـ مـلـکـ تقـیـمـ ہـونـےـ سـےـ قـبـلـ بـھـیـ حـضـرـتـ  
شـاـهـ صـاحـبـ کـیـ سـیرـتـ پـاـکـ لـکـھـیـ تـھـیـ تـینـ سـوـ صـفـحـاتـ سـےـ اوـپـرـ ہـیـ تـھـیـ ، بـڑـیـ محـنـتـ  
کـیـ تـھـیـ ، کـشـیـرـ خـطـوـطـ لـکـھـ کـرـ دـرـیـافتـ کـرـ تـارـہـ ، حـضـرـتـ کـےـ چـھـوـٹـ بـھـائـیـ حـضـرـتـ  
مـوـلـاـ نـاسـیـمـانـ شـاـهـ صـاحـبـ کـےـ بـہـتـ سـےـ خـطـوـطـ آـئـےـ تـھـےـ ، جـوـ بـہـتـ طـوـیـلـ  
تـھـےـ ، انـ مـیـںـ حـضـرـتـ کـاـ اـرـدـوـ کـلامـ بـھـیـ تـھـاـ اـوـ بـہـتـ سـےـ عـجـیـبـ وـغـرـیـبـ وـاقـعـاتـ  
حـضـرـتـ کـےـ کـشـفـ وـکـرـامـاتـ کـےـ مـتـعـلـقـ تـھـےـ ، اـیـکـ یـہـ تـھـاـ کـہـ اـیـکـ کـشـیـرـیـ جـوـ کـہـ  
بـاـؤـلـاـ تـھـاـ حـضـرـتـ شـاـهـ صـاحـبـ کـاـ اـیـکـ جـگـہـ کـشـیـرـیـ مـیـںـ وـعظـ ہـوـرـ ہـاـ تـھـاـ توـ وـہـ گـڑـ بـڑـ کـرـتاـ  
ہـوـ اـوـ وـرـکـرـ حـضـرـتـ کـیـ طـرفـ آـیـاـ ، حـضـرـتـ شـاـهـ صـاحـبـ نـےـ اـیـکـ تـھـپـرـ مـارـ اـسـ کـیـ

حالـتـ درـستـ ہـوـ گـئـیـ ، بـڑـاـ ہـیـ صـحتـ یـابـ ہـوـ گـیـاـ . پـھـرـ کـبـھـیـ اـیـسـیـ حـرـکـتـ دـیـوـانـوـںـ  
وـاـلـیـ نـیـسـ کـیـ . اـفـسـوـسـ کـہـ وـہـ کـاغـذـاتـ مـلـکـ تـبـدـیـلـ ہـوـنـےـ کـےـ وقتـ وـہـیـ  
راـنـکـوـٹـ ضـلـعـ لـدـھـیـانـہـ مـیـںـ رـہـ گـئـیـ ، مـسـودـ بـھـیـ وـہـیـ رـہـ گـیـاـ . اـوـ رـاـیـکـ رسـالـہـ  
رـدـقـادـیـانـیـتـ مـیـںـ جـوـ کـہـ اـحـقـرـ نـےـ لـکـھـاـ تـھـاـ اـوـ حـضـرـتـ شـاـهـ صـاحـبـ نـےـ سـفـرـ بـہـاـوـلـ  
پـورـ مـیـںـ دـیـکـھـاـ تـھـاـ اـوـ پـسـنـدـ فـرـمـاـ کـرـ بـہـتـ سـےـ عـلـاءـ کـےـ پـاـسـ اـسـ کـاـ ذـکـرـ فـرمـاتـےـ  
رـہـتـےـ تـھـےـ . مـوـلـاـ نـاـ مرـتـفـیـ حـسـنـ صـاحـبـ اـوـ خـودـ حـضـرـتـ مـوـلـاـ نـاـ غـلامـ مـحـمـدـ صـاحـبـ  
شـیـخـ الجـامـعـہـ کـےـ پـاـسـ بـھـیـ ذـکـرـ فـرمـاـیـاـ کـہـ اـسـ نـےـ رـسـالـہـ لـکـھـاـ ہـےـ اـوـ کـفـرـیـاتـ  
قـادـیـانـیـ بـہـ نـبـتـ دـوـسـرـوـںـ کـےـ مـزـیدـ جـمـعـ کـےـ ہـیـ اـسـیـ بـاـنـاـ پـرـ اـحـقـرـ سـےـ بـہـتـ  
شـفـقـتـ فـرمـاتـےـ تـھـےـ ، وـہـ بـھـیـ وـہـیـ رـہـ گـیـاـ . عـلـامـہـ ڈـاـکـٹـرـ اـقبالـ نـےـ حـضـرـتـ کـےـ  
وـصـالـ پـرـ تـقـرـیرـ کـرـتـےـ ہـوـئـےـ یـہـ شـعـرـ پـڑـھـاـتـھـاـ :

ہـزارـوـںـ سـالـ زـگـسـ اـپـنـیـ بـےـ نـورـیـ پـرـ روـتـیـ ہـےـ  
بـڑـیـ مشـکـلـ سـےـ ہـوتـاـ ہـےـ چـمـنـ مـیـںـ دـیدـہـ دـورـ پـیدـاـ  
فـرـمـایـاـ تـھـاـ کـہـ صـدـ یـوـںـ ہـمـیـںـ حـضـرـتـ شـاـهـ صـاحـبـ کـاـ نـظـیرـ نـظرـ نـیـسـ آـتاـ ، خـودـ  
مـیـںـ نـےـ حـضـرـتـ شـاـهـ صـاحـبـ سـےـ اـسـتـفـادـہـ کـیـاـ ہـےـ اـوـ دـیـوـ بـنـدـ مـیـںـ جـبـ تعـزـیـتـ  
جـلـسـ ہـواـ ، یـہـ ۱۹۳۳ءـ کـاـ ذـکـرـ ہـےـ حـضـرـتـ مـوـلـاـ نـاـ حـسـینـ اـحـمـدـ صـاحـبـ نـےـ تـقـرـیرـ  
فـرمـاتـےـ ہـوـئـےـ یـہـ فـرـمـایـاـ تـھـاـ کـہـ مجـھـےـ اـیـسـےـ لوـگـ یـادـ ہـیـںـ جـنـ کـوـ حـسـیـجـیـنـ زـبـانـیـ یـادـ ہـیـںـ ،  
اوـرـ اـیـسـےـ بـھـیـ مـیـںـ جـانـتـاـ ہـوـںـ کـہـ جـنـ کـوـ اـیـکـ لـاـکـھـ حدـشـیـںـ حـفـظـ ہـیـںـ مـگـرـ جـسـ کـوـ کـتبـ  
خـانـہـ کـےـ کـتبـ خـانـہـ ہـیـ حـفـظـ ہـوـںـ ، وـہـ مـوـلـاـ نـاـ مـحـمـدـ انـورـ شـاـهـ صـاحـبـ کـےـ سـوـاـ کـوـئـیـ  
نـیـسـ ہـےـ ، عـمـوـاـدـ یـوـ بـنـدـ مـیـںـ مـشـہـورـ تـھـاـ کـہـ حـضـرـتـ چـلـتاـ پـھـرـتاـ کـتبـ خـانـہـ ہـیـںـ ، اوـرـ

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی زبان پر یہ آکثر آتا رہتا تھا۔ ہائے افسوس کہ وہ بھی مجلسیں تھیں کہ جب حضرت شیخ الہند مالا سے شریف لائے تو بعد عصر سہ درمی کے پاس صحن میں چار پائی بچھائی جاتی تھی، اس پر گائے کا سالم چڑا بچھایا جاتا تھا، اس پر حضرت شیخ الہند شریف فرماتھو تھے اور چار پائی کے ارد گرد کر سیاں بچھائی جاتی تھیں جن پر حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارپوری اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا تاج محمود صاحب امرؤٹی سندھی اور خود حضرت شاہ صاحب مولانا محمد انور شاہ صاحب شریف فرماتھو تھے۔ پھر کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا کہ حضرت مہتمم صاحبان شریف لارہے ہیں، یعنی حضرت مولانا محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند، پھر آواز آتی کہ حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی بھی تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بھی میرٹ سے تشریف لائے ہیں۔ ان سب کے لئے بھی کر سیاں بچھائی جاتی تھیں، اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدھی برادر خدمت میں کھڑے رہتے تھے، حضرت کے ارد گرد علماء و صلحاء کا مجمع اتنا کشیر رہتا تھا کہ تل دھرنے کو جگد نہ ہوتی تھی اور خود اپنا مقدمہ القرآن سنایا کرتے تھے اور لوگ ہمہ تن گوش ہو کر سنتے تھے۔

☆☆☆

پھر حضرت شاہ صاحب بہاول پور تشریف لائے، تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ بھی جو اس وقت بہاول پور میں تھے تشریف لائے، حضرت مولانا محمد صادق صاحب دوم مدرس جامعہ عباسیہ بھی ویں تشریف رکھتے تھے۔ خود حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب بھی اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب بھی دیوبند سے تشریف لائے اور سہارپور سے حضرت ناظم صاحب عبداللطیف صاحب، سعیج مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لائے اور بہاولپور کے بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تھے، سب ہمہ تن گوش ہو رہے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا۔ جس کوئی میں حضرت شاہ صاحب قیام فرماتے وہ کوئی بڑی وسیع تھی۔ اور صحن بڑا فراخ تھا، مگر بعد عصر اس میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی تھی۔ کیسی کیسی صحبتیں آنکھوں کے آگے سے گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا یک بارگی؟ حضرت مجدد ب صاحب فرماتے ہیں:

بس اتنی سی حقیقت ہے فریبِ خواب ہستی کی  
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے  
حال دنیا را بہ پرسیدم من از فرزانہ  
گفت یا خوابست یا باداست یا افسانہ  
باز پرسیدم بحال آنکہ دروے دل بہ بست  
گفت یا غول است یا دیو یہ است یا دیوانہ

وہ صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں  
کہ جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں

☆☆☆

حضرت شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے: اذا الناس ناس والزمان  
زمان۔

☆☆☆

اس زمانے کے لوگ کیا عجیب لوگ تھے اور زمانہ کیسا ہی با برکت  
تھا۔ اور خود یہ بھی فرمایا کرتے تھے جیسے عوام ہوتے ہیں انہیں میں سے خواص  
ہوتے ہیں، اس زرین مقولے سے اندازہ فرمائیے کہ کیا عوام کیسے خواص۔  
دیوبند میں جب حضرت شیخ الہند تشریف لائے تو ہمارے حضرت شاہ عبد  
ال قادر صاحب اور حضرت مشی رحمت علی صاحب اور حضرت مولانا اللہ بنخش  
بہاول گیری بھی تشریف لائے اور پسلع جالندھر سے حضرت مولانا حافظ محمد  
صالح صاحب بھی تشریف لائے اور گوجرانوالہ سے حضرت مولانا عبد العزیز  
صاحب بھی تشریف لائے اور حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب بھی تشریف  
لائے اور حضرت مولانا فضل احمد صاحب بھی تشریف لائے، غرض علماء و مصلحاء  
حضرت شیخ الہند کی زیارت کے لئے پرواں وار آ رہے تھے۔ اس متبرک مجمع  
کو شام کو کھانا کھلانا اور حضرت مدینی کے ساتھ خدمت کرنا ہمیں بھی نصیب

ہوتا تھا، آہ وہ مجلسیں اب خواب و خیال ہو گئیں۔

اور حضرت مولانا تاج محمود صاحب امرؤ الٹی جو کہ مولانا عبید اللہ  
سندھی کے اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے پہلے پیر و مرشد ہیں،  
جب تشریف لائے تو ابو داؤد کے سبق میں حضرت شاہ صاحب کے درس میں  
جو کہ بعد عصر ہوتا تھا اسکیں بیٹھے تھے، بڑے لمبے جوان تھے، بڑے جوشیلے اور  
بڑے ہی عالم، چونکہ حضرت شیخ الہند سے بڑی ہی عقیدت تھی اور حضرت شاہ  
صاحب سے بھی محبت تھی، اس لئے دور دراز کا سفر طے کر کے تشریف لائے  
حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں شاہ عبد الرحیم  
صاحب تاکید فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند مالٹا سے ضرور تشریف  
لا کیں گے آپ حضرات ضرور ان کی خدمت میں جایا کرنا۔ اس لئے حضرت  
کئی بار تشریف لائے۔

(ف) حضرت کی سوانح حیات مفصل مولانا سید محمد یوسف بنوری  
کراچی نیو ٹاؤن کے مدرسہ کے مہتمم صاحب جب ڈا بھیل پڑھاتے تھے تو  
انہوں نے لکھی تھی۔ اور بھی مختصر کئی ایک کتابیں لکھی گئیں جو کہ حضرت کی  
سیرتیں ہیں۔ مولاوی عقیل احمد صاحب مدرس دیوبند کی بھی ایک تالیف ہے  
جس کا نام تذکرہ انور ہے، مولانا کریم بخش صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کا  
بھی ایک رسالہ ہے اس کو جزا الاحسان کہتے ہیں۔ اور حیات انور بھی کئی سو  
صفحہ کی کتاب ہے، اس میں کئی ایک علماء کی تحریریں ہیں اور بھی بہت سی ہیں،  
ہمارا تو اس کتاب میں کمالات انوری بیان کرنا مقصود ہے، اس کا نام ”انوار

انوری، رکھا جاتا ہے۔ غرض حضرت کی سیرت پاک کی مفصل سرگزشت بیان کرنا مقصود نہیں اس کے لئے تو بڑا طویل دفتر درکار ہے، مولانا محمد یوسف بنوری کی ایک تحریر اور بھی ہے، جو عقیدۃ الاسلام کے جدید ایڈیشن کے شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور تحریر ہے جو مشکلات القرآن میں بھی ہے، اس میں حضرت کے قرآنی کمالات بیان فرمائے گئے ہیں، سیرت کا کچھ حصہ فیض الباری کے شروع میں لگا ہوا ہے اور مولانا احمد رضا صاحب بنوری کی بھی ایک کتاب انوار الباری شرح بخاری بڑی کمال کی کتاب ہے اس میں بھی حضرت کے حالات مبارکہ بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ خدا کرے وہ کتاب پوری ہو جائے تو علماء کو ایک خزانہ علم کامل جائے۔ مولانا حاجی محمد صاحب، جہانبرگ جو جنوبی افریقہ میں ہے اور ان کا قدیم وطن ہندوستان میں ڈا بھیل سملک ہے ضلع سورت، وہ بڑے ہی عاشق زارتھے کہ حضرت کے علوم کی خدمت کی جائے، انہوں نے بہت سارو پیغم خرچ کر کے حضرت کی آثار اسنن پر یادداشتوں کا عکس بھی شائع کیا ہے اور میرے پاس بھی بھیجا تھا، ان کی خواہش تھی کہ حضرت کی مفصل سوانح حیات لکھی جائے اور آپ کے علوم کا تذکرہ بھی شائع ہو، افسوس کہ وہ اس دارفانی سے رخصت ہو گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون۔ ان کو حضرت سے بڑی عقیدت تھی اور حضرت کے تلمیذ رشید بھی تھے۔ بڑے ذکی عالم بڑے فیاض اور صاحب خیر کیش تھے مجھ سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ میں نے "مکتبات بزرگاں" میں ان کے بھیجے ہوئے کچھ حضرت کے خطوط بھی شائع کئے ہیں۔

جب اختر نے مکتبات بزرگاں جس میں اور مکتبوں کے علاوہ حضرت شاہ صاحب کے بھی مکتبات کچھ تھے شائع کیا۔ اور اس کا ایک ایک نسخہ دیوبند مولوی محمد ازہر شاہ صاحب اور مولانا مولوی محمد انظر شاہ کشمیری کی خدمت میں بھی بھیجا تو بعد مطالعہ مولانا ازہر شاہ صاحب نے تحریر فرمایا کہ مکتبات کا مطالعہ کیا پہلے تو میں حضرت والد صاحب کے مکتبات پڑھ کر خود رویا اور پھر میں نے جا کر والدہ صاحب کو بھی وہ خطوط سنائے والدہ صاحب تو پہلے ہی علیل تھیں وہ خطوط سن کر اور بھی بے چین ہو گئیں بہت روئیں۔ والدہ کی بیماری کا اسی طرح حال ہے سلام لکھواتی ہیں اور دعا کا فرماتی ہیں۔

اور مولانا محمد انظر شاہ مدرس دارالعلوم دیوبند اپنے والا نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:

مخدوم و محترم!

سلام مسنون، آپ کا ہدیہ سنبھی "مکتبات بزرگاں" وصول ہوا، اول سے آخر تک پڑھا آپ نے بڑے کارآمد اور معلومات افزام کتاب کا مجموعہ مرتب کر دیا ہے۔ فجز اکم اللہ احسن الجزاء۔

اس سے انشاء اللہ لوگوں کو بے حد فائدہ پہنچنے گا اور یہ مجموعہ تاریخی اہمیت کا حامل ہو گا۔ دو چیزیں جناب کو توجہ دلانے کے لئے عرض ہیں۔

اول یہ کہ مولانا بشیر احمد سکردوڑوی جو مولانا اور لیں سکردوڑوی کے بھائی تھے وہ مرا دنیس ہیں بلکہ مولانا بشیر احمد بھٹہ مراد ہیں۔

دوسرے یہ کہ حاجی ابراہیم میاں صاحب حاجی محمد بن موسی کے پچا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

### مربعہ نعمتیہ فارسی

دوش چوں از بے نوائی ہم نوائے دل شدم  
عہد ماضی یاد کرده سوئے مستقبل شدم  
از سفر و اماندہ آخر طالب منزل شدم  
کز تگا پو سو بسو شام غریباں در رسید  
دشت و گلگشت و بھارتستان و خارستاں بھم  
فکر و ہم ہدم نفس اندر قفس زاد رہم  
پیش و پس با گنگ جرس از کارواں در ہر قدم  
دید عبرت کشوم مخلصے نامد پدید  
تا سروش غیب از الطاف قدسم یاد کرد  
زحمت حق ہچھو من در ماندہ را امداد کرد  
ما من خیر الوری بہرنجات ارشاد کرد  
مقصد ہر طالب حق آں مراد ہر مرید  
قبلہ ارض و ما مرأت تور کبریا  
سید و صدر علی شخصی بدروی  
شافع روز جزا و انگہ خطیب انبياء  
صاحب حوض و لواطل خدا روز عتید

ہیں، ابھی بقید حیات ہیں اور سملک میں ہیں۔

جناب کی خرابی صحت سے تشویش ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے آپ کا وجود قوم و مذہب کے لئے اس دور میں بہت ضروری ہے، اماں جی کی طبیعت بدستور ہے علاج شروع کرایا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عنایت فرمائے۔

والسلام

انظر شاہ

صاحب خلق عظیم مظہر جود عیم  
آیت رحمت کہشان اور وفست و رحیم  
رحمۃ للعالیین خواندش خداوند کریم  
خلق و خلق و قول و فعل و بدی و سمت او تھید  
دست او بیضا ضیا اجود ترا ز باد صبا  
حبذا وقت عطا ابر سخا آب بقا  
وقف امر عاملے بر حنگ آں رحمت لقا  
عام اشہب از جمال طلعتش عید سعید  
 DAG مهر او چراغ سینہ اہل کمال  
شور عشقش در سر عمار وسلمان و بلال  
ثبت برایمانے و نعمان و مالک بے خیال  
والله آثار وے معروف شلی با یزید  
از حدیث وے سر در حیله اہل اثر  
مسلم و مثل بخاری وقف بر وصل سیر  
سنن بیضاء وے نور دل هر با پسر  
اتقیا را اسوہ اقدام وے تقیید جید  
سید عالم رسول و عبد رب العالمین  
آں زماں بوده نبی کا دم بد اندر ماء و طین  
صادق و مصدق و حی غیب و مامون و امین

در هر آں چیزے کے آوردست از وعد و عید  
منبر او سدره و معراج او سیع قباب  
در مقام قرب حق بر مقدم او فتح باب  
کاندر انجا نور حق بود و نبند دیگر حباب  
دید و بشنید آنچہ جزوے کس بشنید و ندید  
مدح حاش رفع ذکر و شرح و صفحش شرح صدر  
او امام انبیاء صاحب شفاعت روز حشر  
همکنای زیر لوائش یوم عرض و نیست فخر  
سید خلوق و عبد خاص خلاق مجید  
آخر و خیر الوری خیر الرسل خیر العباد  
قدوة اہل ہدایت اسوہ اہل رشاد  
نگہ از همت او خلق را زاد معاو  
عالم از رشحات انفاس کریمیش مستفید  
انتخاب دفتر تکوین عالم ذات او  
برتر از آیات جملہ انبیاء آیات او  
شرق صح وجود ما سوا مشکوہ او  
مستنیر از طلعت او هر قریب و هر بعید  
دین او دین خدا تعالیٰن او اصل ہدی  
نطق او وحی سما حقا نجوم اہتما

خاصہ آں احقر کہ افقر ہست از جملہ انام  
مستغیث ست الغیاث اے سرور عالم مقام  
در صلہ از بارگاہت در نشید این قصیدہ



بسم اللہ الرحمن الرحيم

حامدا و مصلیا

روض الریاضین مصنفہ مولانا کفایت اللہ صاحب مرحوم مشقی مدرسہ  
امینیہ دہلی جس کے چار شعر نقل کے جاتے ہیں، مولانا کفایت اللہ صاحب کا  
نہایت بلیغ قصیدہ ہے جس میں مدرسہ امینیہ دہلی کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور  
حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی تعریف بیان کی گئی ہے اور سولہ صفحے پر ختم  
ہوا، پہلا شعر ہے:

عرفت الله ربی من بعيد  
فکم بین الاله والعبد

اصل میں یہ قصیدہ مدرسہ امینیہ ۱۳۶۶ھ کی روئیداد میں چھپا تھا، پھر  
اس کو علیحدہ رسالہ کی شکل میں چھپوا یا گیا۔

ونختم ذا الكلام بذکر حبر  
فقید المثل علام فرید  
”اب ہم ایک بڑے عالم کی ذکر پر یہ کلام ختم کرتے ہیں وہ بے نظیر

صاحب اسرار او ناموس اکبر بر ملا  
علم او از اولین و آخرین اندر مزید  
مولدش ام القری ملکش بشام آمد قریب  
خاک راہ طیبہ از آثار وے بہتر ز طیب  
شرق و غرب از تشریف متناظرا بش مستطیب  
امتش خیر الامم بر امتأس بوده شہید

خاص کردش حق باعیاز کتاب مستظاب  
جحت و فرقان و مجرز محکم و فصل خطاب  
ششم بخش در براعت ہست بر ترزا آفتا  
حرف حرفاً او شفا ہست و بدی بہر شید  
الغرض از جملہ عالم مصطفیٰ مجتبی  
خاتم دور نبوت تا قیامت بے مرا  
اصل واکمل ز جملہ انبیاء نزو خدا  
نعمت اوصاف کمال او فزوں تراز عدید  
تا صبا گلگشت گیہاں کرده بیا شد دام  
بوے گل بردوش وے گردو بعالم صح و شام  
باد بروے از خدائے وے درود و ہم سلام  
نیز بر اصحاب وآل و جملہ اخیار عبید  
وز جناب وے رضا بر احقران مستہام

علامہ یکتائے زمانہ ہیں۔

مریخ العلم مقتنيص الفنون

لہ کل المزایا کالمصید

”علم کو ڈھونڈنا لئے والے فون کو وکار کرنے والے تمام فضیلیتیں  
ان کے فرماں کا شکار ہیں۔“

نبیہ فائق الاقران یدعی

بانور شاہ مومنوق الحسود

”بزرگ مرتبہ ہمسروں پر فائق جن کو انور شاہ کہہ کر پکارا جاتا ہے  
حاسدوں کے محبوب (۱)۔“

فہذا الحبر غارس ذا التخييل

(۱) علامہ فہیامہ جناب مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ساکن کشمیر بے تھیر شخص ہیں وہیں  
وزک، ورن تقویٰ میں فرد کامل، مدرسہ بہاء میں مدرس اول تھے بلکہ جیسا آئندہ شعروں میں بیان  
کیا گیا ہے اس شعر علم کے لگانے والے آپ ہیں، کیونکہ مولوی محمد امین الدین صاحب جب دہلی  
تشریف لائے تو مدرس قائم کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کے پاس نہ سامان تھا جو روپیہ  
آپ نے بھنس متکمال علی اللہ سبھی مسجد میں پڑھانا شروع کیا۔ اور مولانا مولوی محمد انور شاہ  
صاحب آپ کے شریک تھے۔ وہ توں صاحبوں نے طرح طرح کی تکفیل اٹھائیں، وہ آپ کے  
گھر استقبال کو با تحریک تھا جو روز آہست آہست اہل دہلی کو خبر ہوئی، اور لوگ متوجہ ہوتے گئے۔  
یہاں تک کہ مدرس امینہ اس حد تک پہنچا جو آپ کی لظر کے سامنے ہے غرض کے ابتدائی زمانہ کی  
کشمیری کی حالت میں مولوی محمد انور شاہ صاحب اس مدرس کے اعلیٰ اول محسن ہیں ان کا شکریہ  
ادا کرنا اور بیشہ ان کو یاد رکھنا اہل مدرسہ کا فرض ہے مولانا نے ایک عرصہ تک مدرسہ بہاء میں درس  
دیا اور طلباء کو مستفید فرمایا۔ پھر والدین سلمانہ اللہ تعالیٰ کے قشیے اور اصرار سے وطن تشریف لے  
گئے۔ ۱۳۵۵ھ میں حج کو تشریف لے گئے۔ (باقیہ ص ۱۹ پ)

## واول موقعۃ القوم الرقدود

”کیونکہ یہ علامہ اس درخت کے لگانے والے ہیں اور سوتی قوم کو  
اوی اول جگانے والے ہیں۔“  
یہاں تک تو حضرت مولانا کفایت اللہ کا کلام تھا آگے حضرت شاہ  
صاحب خود فرماتے ہیں۔

خود فرماتے تھے کہ جب میں نے شروع شروع میں مدرسہ امینہ میں  
پڑھانا شروع کیا ۱۳۱۵ھ تھا۔ شروع شروع میں مدرسہ میں کوئی آمدی نہ تھی  
محض تو کل پر گزارہ تھا، پھر دو سال کے بعد اہل دہلی کو توجہ ہوئی اور مدرسہ میں  
روپیہ آئے لگا، تو مفتیم صاحب نے میری تھنواہ پائی رہ پے کر دی۔ میں وہی  
پائی رہ پے مدرسے میں ماہوار چندہ دے دیتا تھا۔ پھر آئندہ سال میری تھنواہ  
دک روپے ہو گئی۔ پائی رہ پے تو میں چندہ ماہوار دک روپے کو دے دیتا اور پائی  
روپے مفتیم صاحب کی ملک کر دیتا گا۔ آپ مجھے اللہ کے واسطے کھانا دے دیا  
کرو۔ رمضان گزارنے کے لئے گنگوہ تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی  
دیوبند آ جاتے تھے۔

حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں  
جب دہلی پڑھتا تھا تو میں نے سنا کہ مولانا کریم بخش صاحب گواہی ضلع بلند

(باقیہ حاشیہ ص ۱۸) واپسی پر دہلی میں دو ماہ تی مفرما یا اور اب بھی ہٹن میں تشریف رکھتے ہیں  
خدا تعالیٰ مولانا کو تاذیر سلامت رکھے اور ان کے پہنچنے میں کمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے،  
آئین، منہماں۔

شہر سے حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کرنے تشریف لائے ہیں، میرے چونکہ مولانا کریم بخش صاحب استاد تھے میں بھی گیا یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، مولانا کریم بخش صاحب تو ملے نہیں حضرت شاہ صاحب کو دیکھا کہ مدرسہ امینیہ کے اندر بیٹھے ہیں اور ذکر جہری سے اللہ اللہ کر رہے ہیں تب میں سمجھا کہ حضرت صوفی بھی ہیں۔ یہ تو حضرت شاہ صاحب نے خود فرمایا تھا بہاول پور کے مقدمہ میں احقر نے ریل گاڑی میں جب امترسے لا ہور کو چلے سوال کیا کہ آپ کو اجازت کن بزرگوں سے ہے؟ تو فرمایا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ سے، ۱۳۱۹ھ میں حضرت نے مجھے حدیث کی سند بھی دی اور بیعت کرنے کی اجازت بھی دی، ویسے تو ہمارا سلسلہ دس پشت سے سہروردی ہے۔ اور مجھے حضرت مولانا معظم شاہ والد صاحب سے اجازت ہے۔

(ف) حضرت شاہ صاحب عموماً سہروردی سلسلہ میں اور چشتیہ سلسلہ میں بیعت کرتے تھے دونوں حضرات کے ذکر تلقین کرتے تھے۔

۱۳۱۵ھ سے پانچ سال تک دہلی میں رہے۔ پھر والد صاحب کے اصرار پر کشمیر تشریف لے گئے اور بارہ مولا میں مدرسہ فیض عام جاری کیا، غالباً پھر جج کو تشریف لے گئے، خود فرماتے تھے کہ میں مدریسہ منورہ پہنچا تو مولانا ظہیر احسن شوق نیوی رحمہ اللہ علیہ کے لئے دعائے مغفرت ہو رہی تھی۔ مدریسہ منورہ مسجد نبوی میں تب معلوم ہوا کہ حضرت نیوی کا وصال ہو گیا، یہ بہت بڑے محدث ہو گز رے ہیں صاحب تصانیف ہیں۔ آثار السنن ان ہی کی ہے۔ اور جامع الآثار لامع الانوار وغیرہ ان کے مصنفات ہیں یہ


بزرگ بہت اللہ سے ڈرنے والے صاحب ورع اور صاحب اتقا تھے، اپنی کتاب آثار السنن جب تصنیف کر چکے تو ایک ایک جز مجھے کشمیر میں بھیجا کرتے تھے۔ (یہ بات مجھے مفتی فقیر اللہ صاحب نے بھی سنائی تھی)  
مدینہ منورہ میں روپہ پاک کے پاس مسجد نبوی میں بھی آپ نے (شاہ صاحب نے) درس حدیث دیا ہے اہل مدینہ خصوصاً علماء بہت متوجہ ہوئے اکثر مسائل کا جواب آپ نے ان کو رسالوں کی شکل میں دیا جو علماء دیوبند ان دونوں میں وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کوششیں کیں کہ شب باشی آپ کی مسجد نبوی میں ہو۔

پھر جج سے واپسی پر دیوبند تشریف لائے<sup>(۱)</sup>، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے اور دیگر علماء سے ملے پھر شیخ الہند مولانا حبیب الرحمن مولانا حافظ محمد احمد مولانا احمد حسن امروہی کے باہمی مشورے سے ملے پایا کہ حضرت شاہ صاحب کو تاریخاً جائے کہ کشمیر سے دیوبند استاد ہو کر تشریف لائیں۔ جب سے ڈابھیل تشریف لے جانے تک دیوبند ہی رہے۔

(ف) یہ واقعہ حضرت مولانا حبیب الرحمن نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ۱۳۳۹ء سنایا تھا جبکہ حضرت شیخ الہند کے وصال پر نو درہ میں جلسہ ہورا تھا، حضرت کے استاد حدیث مولانا محمد حدیث محمد اسحاق بھی ہیں۔ جو مولانا خیر الدین آلوی بغدادی کے تلمذ ہیں۔ وہ اپنے والد صاحب مولانا سید محمد آلوی صاحب روح المعانی کے شاگرد ہیں ایک استاد مولانا حسین جر طرابلس ہیں جو کہ اپنے والد کے شاگرد ہیں ان کا سلسلہ علامہ شامی اور

(۱) یہ واقعہ تھا رے استاد مولانا فقیر اللہ صاحب نے ذکر کیا جوان دونوں دیوبند میں پڑھتے تھے۔

علامہ طھاوی تک پہنچا ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب کے حدیث کے استاد ہیں۔



اب آگے حضرت کے کچھ علمی مصائب کے اقتباسات درج کئے جاتے ہیں:

۳۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء کے جمیعۃ العلماء ہند کے اجلاس پشاور میں صدارت کے خطبہ میں فرماتے ہیں:

”محترم حاضرین! خدائے قدوس کی قدرت کاملہ نے اگرچہ نظام کی بنیاد تغیر و تبدل پر رکھی ہے اور اس کی تمام تر فضا انقلابات وحوادث سے معمور ہے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے۔

کہ آئین جہاں گا ہے چنیں گا ہے چنان باشد  
تاہم اس کے نظام کو مصالح کلیے کے مناسب ایک منظم لڑی میں  
مشکل کر دیا ہے اور جملہ مسیبات عالم کو سلسلہ اساب کی واپسی سے خالی نہیں  
چھوڑا۔ قدرت کاملہ نے یہ لوٹ پھیراں لئے مقرر کیا ہے کہ اگر عالم میں گونا  
گوں تغیرات و انقلابات نہ ہوتے اور روز روشن شب تاریک کے ساتھ  
میدان مسابقت میں اس طرح نیرد آزمائنا ہوتا تو کوئی شخص یہ قدر رکا جو بالا  
و پست تمام موجودات پر حاکم اور اس میں کارفرما ہے قائل نہ ہوتا اور عالم کی  
یکساں حالت کو دیکھ کر اس کی طبیعت اصلیہ کا نتیجہ سمجھتا اور کبھی نہ جانتا کہ اس

بہترین نظام میں کوئی اور وقت کا رفرما ہے۔  
خیال فرمائیے کہ اگر آفتاب عالم تاب میں طلوع و صعود، زوال  
وغروب اور اس کی شعاعوں میں ترقی و تنزل نہ ہوتا اور تاریکی کے بعد نور کا  
ظہور اور جلوہ گری نہ ہوتی اور نور کے بعد تاریکی نہ آتی اور فضائے عالم ہر  
وقت نورانی رہتی تو کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ عالم کی یہ نورانیت چشمہ  
خورشید کی مر ہوں منت ہے بلکہ وہ اس یقین کرنے پر مجبور ہوتا کہ طبیعت عالم  
ہمیشہ سے اسی طریق پر قائم ہے اور اس کی نورانیت کی مقتضی ہے، بقول قائل:  
تابود زمانہ ایں چنیں بود  
عارف جامی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:-  
ظہور جملہ اشیاء بخند است  
وے حق را نہ ضد است و نہ نداست  
اگر خورشید بر یک حال بودے  
شاعر او بیک منوال بودے  
ندانتے کے کیں پرتو اوست  
نہ بودے پیچ فرق از مغرب تا پوست  
الحاصل، فطرت الہیہ نے اس لئے عالم کو تغیر و تبدل کے چکر میں  
ڈال رکھا ہے تاکہ یہ انقلاب و تحوال اہل بصیرت کے لئے اس بات کی دلیل  
ہو جائے کہ اس کے تمام تر مظاہر و شیوں میں دست قدرت کا رفرما ہے۔ اور  
اسطح عالم اس بات پر شاہد ہے کہ اس کا وجود خود بخوبی نہیں ہے بلکہ کسی دوسری

قوت کا دست نگرا اور کسی قوت قاہرہ کا تابع فرمان ہے، عقلاءِ حکماء نے عالم کی اس منقادانہ حیثیت کو بہت سے دل پسند طریقوں سے بیان کیا ہے۔ خاکسار نے بھی اس کو ایک قطعہ میں ظاہر کر دیا ہے:-

جہاں چونقش ونگارے است ازید قدرت  
کہ بہرخویش چونبود نمود بے بود است  
سات عجز و تغیر ہر یکے پیدا  
باقید سخت دریں قید خانہ مسدود است  
نہ خود بخویش کہ برآمدہ ز دست دگر  
چنانکہ نقش کہ جیران و دیدہ بکشودہ است

یعنی ہستی عالم جو بہم خوبی قدرت کے کرشمہ ساز ہاتھوں کا بہترین نقش ونگار ہے جب کہ خود اپنے لئے نہیں ہے تو پھر وہ ایک نمائش اور دکھاوٹ ہے اس لئے کہ کارخانہ عالم کی تمام اشیاء قدرت میں مسخر اور اس قید خانہ کی قید سخت میں گرفتار اور عاجز ہیں، اس کا وجود اور اس کی ہستی اپنے ہاتھوں نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ایک دوسرے ہاتھ سے کتم عدم سے نکل کر منصہ شہود پر اس طرح جلوہ نما ہوا ہے جس طرح کہ تصویر آنکھیں پھاڑے ہوئی بھلک جیران اپنے مصور و نقاش کا پتہ دیتی ہے لیکن عالم کی نیرنگیوں اور بولقوںیوں کے باوجود اس نظام و ترتیب کا ہونا اس لئے ضروری تھا کہ اگر یہ جہاں بہترین نظام کے ساتھ منظم نہ ہوتا اور اشیاء عالم کے درمیان ارتباط و رشتہ اتحاد قائم نہ کیا جاتا تو عالم کی تمام اشیاء میں تجاوز و تصادم کا ایک طوفان برپا ہو جاتا،

اور زمین و آسمان اور تمام اجسام ایک دوسرے سے گلرا کرتباہ وبر باد ہو جاتے اور عالم کی پیدائش اور وجود میں آنے پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہو سکتا۔

حضرات!

مجموعہ عالم جس کو عالم بکیر یا شخص اکبر سے تعبیر کرتے ہیں اس کی ترتیب و تنظیم کو عالم صغیر یا شخص اصغر یعنی انسان پر قیاس کرنا چاہیے، پس جس طرح شخص اصغر یعنی وجود انسان کا نظام قلب و دماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ کہ تمام ملکات و اخلاق کا حامل وسیع قلب ہے اور معارف و علوم کا حامل دماغ اور تمام اعمال و افعال کے مظاہر ترک و اختیار کی تمام حرکات پہلے قلب سے اسی طرح صادر ہوتی ہیں جس طرح کہ بادشاہ کی جانب سے اوامر و فرائیں صادر ہوتے ہیں پھر قلب کی اس جنبش کا دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغ اس کی صحیح تصویر اور موزوں نقشہ کھینچتا ہے، اس کے بعد اعضاء و جوارح انسانی اس کے انتقال میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، گویا یوں کہنا چاہیے کہ قلب ایک بادشاہ ہے دماغ اس کا وزیر اور اعضاء اس کے خدم و حشم ہیں اس لئے تمام امور انسانیہ اصلاح و فساد کا مدار تھا قلب پر ہے۔

اسی طرف اشارہ ہے:

إِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْعَفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلْحَةُ الْجَسَدِ كُلِّهِ  
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلِّهُ.

یعنی جسم انسانی میں ایک گوشت کا نکڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے تمام جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو کل جسم فاسد

ہو جاتا ہے۔

اور دماغ بجائے مشیر خیر یا شر کے ہے اور اعضاء و جوارح رفیق نیک یا رفیق بد، صحیک اسی طرح شخص اکبر (مجموعہ عالم) کے لئے بھی قلب اور دماغ اور اعضاء و جوارح ہیں۔ اس شخص اکبر کا قلب تو وہی ہے جس کو اصطلاح شریعت میں اولی الامر یا اصحاب حل و عقد سے تعمیر کیا جاتا ہے اور اس کا دماغ حکماء علماء شریعت غراء ہیں اور اس کے اعضاء و جوارح عامہ افراد خلق۔

### فریضہ تبلیغ

سائل ضروریہ میں سے ایک اہم مسئلہ فریضہ تبلیغ اسلام اور پیغام تو حیدور سالت کا ہے جس کے بغیر بقاء دین متنین کسی طرح متصور نہیں، اسلامی فقط نظر سے تبلیغ اور پیغام رسانی کے حق کا یہ اہم فرض صرف اسلام ہی کا حصہ ہونا چاہیے اس لئے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں حق اور صحیح راہ کی تعلیم ایک ہی مذہب دے سکتا ہے۔ اور جو مذہب اپنے اندر خود سچائی اور راستی رکھتا ہو اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا میں تبلیغ اور پیغام حق کا کام انجام دے۔ لہذا اس اصل پر نظر رکھتے ہوئے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ہادی اور پیغمبر نے ہر حرکت و سکون کے وقت خدا کی یاد کی تعلیم دی ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیم جو آج دنیا میں شرق سے غرب تک پھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھنے سے ہر ذی ہوش سمجھ سکتا ہے کہ اس ہادی برحق نے اپنی امت کے لئے ایک

وقت بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں بندہ کو خدا کی یاد سے غافل رہنے دیا ہو، آپ نے ہر مسلمان کو تعلیم فرمائی ہے کہ کھانے اور پینے کے شروع میں اور اس کے ختم پر اور سوتے وقت اور سونے سے جانے اٹھنے پر صحیح و شام اور گھر میں داخل ہوتے اور گھر سے نکلتے وقت اور مسجد میں داخل ہونے اور پھر اس سے باہر آنے کے وقت اور بیت الحلاء میں داخل ہونے اور اس سے خارج ہونے کے اوقات میں اور بازاروں کے جانے کے لئے اور شیلوں پر چڑھنے اور اترنے کے لئے اور اس کے علاوہ تمام اوقات میں جوانسان پر گذرتے ہیں، خدا نے قدوس کا ذکر کرو اور اس کا نام ہر وقت اور اپنی ہر حالت نشاط و اندوہ میں خدا کو کبھی نہ بھولو۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس امر و قیع کو خدا کا نام لئے بغیر شروع کیا جائے وہ نا تمام اور بے کار ہے۔

راہ تو باہر روش کہ پویند بگوہت

ذکر تو بہر زبان کہ گویند خوش است

اب آپ ہی فرمائی کہ نصاریٰ کس چیز کی تبلیغ عالم کے سامنے کریں گے؟ مسئلہ شیعیت کی؟! جس کا یہ حال ہے کہ آج تک وہ اس کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھ سکے۔

او خویشتن گم است کارہ بہری کند

میرا خیال تو یہ ہے کہ دنیا یا ان فرنگ نے جو بالطبع نفع عاجل اور فوری نتیجہ کے طالب اور خواہشمند ہیں جب یہ دیکھا کہ بغیر داموں مفت تین خدا ملتے ہیں تو ان کو اس کی خریداری میں کچھ تامل نہ ہوا، اور بغیر کسی پس و پیش سے ہر ذی ہوش سمجھ سکتا ہے کہ اس ہادی برحق نے اپنی امت کے لئے ایک

کے بمصداق ”داشتہ آید بکار“ اس کے خریدار بن گئے، ورنہ انہوں نے جو تفنن طبع اور جولانی اس مسئلہ کی تعبیر میں دکھلائی ہے اور سٹیٹ کو حل کرنا چاہا ہے اور اس کی تنقیح میں وقت صرف کیا ہے اس سے بغیر نقصان کے کوئی نفع اس کے حل کرنے میں ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اور بے مغزا اور غیر وقیع باقاعدے کے سوائے اور کچھ نتیجہ نہیں لکلا۔

### شد پر یشاں خواب من از کثرت تعبیرہ

اور اگر کسی نے کتاب ”العقائد الوثنية في الديانة النصرانية“ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کہ عقائد نصرانیت کے اکثر اصول و شیوه اور بت پرستوں سے مستفاد ہیں، بلکہ ان مسائل کی تعبیر اور محاورات تک میں یہ امر براہت کے درجہ میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ مروجہ انجیلوں سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زمانہ بعد کی تالیف ہیں بلکہ حسب تحقیق آج تک ان کے مؤلفین کا بھی حال معلوم نہیں کیا کوئی مستفید ہو سکتا ہے؟ اور کیا ان سے مذہب وملت کے اصول معلوم ہو سکتے ہیں جن میں بجز اس کے تم کچھ اور نہ پاؤ گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں گروہ کے درمیان سے اس طرح اور لوگوں کی بھیڑان کے درپے اس طرح ہوتی اور اس طرح کیا! ان چنان اور چنیں کی طفل تسلیوں سے کسی عاقل اور محقق کا کوئی کام نکلن سکتا ہے یا اس کا کوئی صحیح راست مل سکتا ہے؟

نیز اگر آپ ان کلمات پر غور فرمائیں گے جو کہ ان کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں اور جن کو مقالات

طیبات شمار کیا گیا ہے تو آپ خود بخود کہہ انھیں گے کہ ان میں وہ نورانیت جو وحی الہی اور حدیث نبوی میں ہونی چاہیے قطعاً موجود نہیں ہے۔ اور ہرگز کسی طرح یہ ملفوظات مشکوٰۃ نبوت سے نکلے ہوئے نہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے بجز ”کوہ کندن و کاہ برآ وردن“ کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور باقی رہا وہ فرق جو مادہ اور روح کو قدیم بالذات مانتا ہے اور اس کو مذہب و ملت سے تو کجا خداۓ قدوس کی ذات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس مذہب کے اصول مذکورہ کے ماتحت اگر ہم تحقیق و تدقیق سے کام لیں تو ہستی باری تعالیٰ کا وجود بھی پایہ شوت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لئے کہ ہستی باری تعالیٰ پر اگر کوئی دلیل قائم کی جاتی وہ بھی ہے کہ سارے کائنات اعظم جو ممکن الوجود ہے غیر کے ہاتھوں قائم ہوا ہے، اور جس کا قیام دوسری قوت کا محتاج نہ ہو۔ اور جب اس گروہ نے مادہ اور روح کو بھی قدیم بالذات مان لیا تو اب کسی قوم کی کیا حاجت رہی جس کو ہم اور تم خدا کہتے ہیں اور اس ناخواندہ مہمان کو کہاں جگہ دیں گے۔

ممکن ہے کہ اس جگہ پر یہ خدشہ پیدا ہو کہ روح اور مادہ اگر چہ قدیم بالذات ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی قیوم بالذات کے اس لئے محتاج ہیں کہ یہ دونوں ناقص ہیں۔ اور ضرورت نظام عالم اس کو مقتضی ہے کہ ان کے لئے ایک ایسا واجب الوجود جو قدیم بالذات کے ساتھ ساتھ تمام صفات میں کامل ہوتا کہ وہ ان سے کام لے۔ تو یہ خدشہ کم علمی اور نقصان فہم پر ہی ہے اس لئے کہ یہ کسی طرح عقل میں نہیں آ سکتا کہ جو شے قدیم بالذات ہو وہ ناقص بھی

ہو، کیا آپ خیال فرماسکتے ہیں کہ کوئی شے وجود میں جو کہ تمام صفات میں اعلیٰ اور عظم صفت ہے تو کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ خود ہی اپنی ذات سے موجود ہو سکے ممکن ہے کہ وہ اپنی دوسری صفات میں ناقص رہ جائے اور ان میں کامل نہ ہو سکے اور کسی دوسری قدیم بالذات کی محتاج رہے، کیا دنیا میں کوئی شے بھی اپنے کو بحالت خود مختاری ناقص رکھنا گوارا کر سکتی ہے؟ اور اگر وہ ان صفات کے ناقص رکھنے میں مجبور ہے تو سب سے اعلیٰ واکمل صفت وجود میں وہ کس طرح دوسرے کی احتیاج سے مستحق ہوگی؟ واقعہ یہ ہے کہ روح اور مادہ کو ان کی صفات میں ناقص مان کر کبھی ان کو قدیم بالذات نہیں مانا جاسکتا، اور اگر ان کو ذات و صفات میں مکمل مانا جائے تو پھر واجب الوجود عز و اسد کے مانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور اگر یہ کہا جائے کہ قدیم بالذات اور قدیم بالغیر دونوں امکانی ترجیح ترجیح تو ضرورت تھی کہ بمحاذ استینفے کے اقسام یہ دونوں قوئی پیدا ہوں، اس لئے دونوں احتمال کو مان لیتا اور ان پر ایمان رکھنا استینفے کو مختبر ہو گا تو یہ نہ کوئی دلیل ہے نہ برہمان، بلکہ ایک خوش کن خطابت ہے اس کی کیا دلیس کا احتمال است ممکن سے متحقق ہو جائیں۔

اکنہ اس سخن دیکھتے ہیں کہ عالم کی اکثر اشیاء میں تمام احتمالات ممکن کا استینفہ، اور تحقیق نہیں ہوتا، پھر عالم غیر کی باقی پر انگل کے چیز کیا کہاں تک درست ہے، حالوہ اذیں مادہ میں جو فناکش ہیں کہ تمام اشیاء سے زیادہ اونچیں اور سے شعور شمار ہوتا ہے، تجزیہ پر جو آرام و ہموم کے بیش از بیش حادث گذرتے ہیں جن کو دیکھ کر سکتیں کہا جاتا ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی خصیب

نہ کرے، ان کو دیکھتے ہوئے کون عقل مند کہے گا کہ یہ قدیم بالذات ہیں۔  
غور تو فرمائیے کہ قدیم بالذات کو ان ذلیل ترین سے کیا سروکار؟  
سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی تمام اشیاء مختلف صورتوں اور  
نو عیتوں پر قائم ہیں جس کو علمی اصطلاح میں صورنو عیہ کہا جاتا ہے، پس اگر ان  
سب میں ذرات مادہ تباہہ الوجود اور یہاں ہیں تو یہ صورتوں کا اختلاف جو  
رنگارنگی عالم میں موجود ہے کس طرح پیدا ہو گیا۔ کہ دنیا میں آپ کوئی ایسی نظیر  
دکھا سکتے ہیں جو تباہہ الوجود اور ایک رنگ ہونے کے باوجود مختلف الوجود اور  
مختلف الانواع کا موجب ہو، لہذا اماننا پڑے گا کہ صور کا یہ تنوع اور اختلاف  
بھی قدیم بالذات ہے، تو پھر تھوڑی سی سخاوت اور بھی فرمائیے اور صاف کہہ  
دیجئے کہ یہ نظام عالم اور اس کی ہر شے بھی جو تغیرات وحوادث پر ہے قدیم  
بالذات ہے تاکہ ہستی باری تعالیٰ واجب الوجود کے انکار میں کوئی شے حائل  
نہ ہو اور اس اہم ترین بارے سبکدوشی حاصل ہو جائے، تعالیٰ اللہ عن  
ذلک۔

ابتدہ آپ شبہ کر سکتے ہیں کہ اگر مادہ موجود نہ تھا تو پھر عدم سے وجود  
کیسے ہنا؟ لیکن یہ مغالطہ دشوار اور امر لا ٹیکل نہیں اس لئے کہ ہر شخص اس بات  
کو جانتا ہے کہ کوئی فاعل اپنے فعل میں مادہ کا محتاج نہیں ہوتا۔  
انسان و حیوان کو دیکھتے ہے کہ وہ کبھی حرکت کرتے اور کبھی ساکن رہتے  
ہیں اور یہ حرکت و سکون ان کا فعل ہے جس میں وہ کسی مادے کے جو کہ ان کی  
اس حرکت یا سکون کا محل بن سکے محتاج نہیں۔

ایک انسان کبھی اپنے ہاتھ کو اپر اٹھاتا اور نیچے کر لیتا ہے۔ اور کبھی خاموش کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ان تمام افعال میں کسی مادہ یعنی لکڑی پتھر لو ہے کامیاب نہیں ہے۔ کہ جب تک وہ نہ ہو یہ شخص ان حرکات کو نہ کر سکے، ہاں کوئی فاعل مادہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کا فعل کسی دوسرے فاعل کے مفعول پر واقع ہو۔ اس کو اس طرح سمجھتے کہ ایک بڑھتی تخت کو بنانا چاہتا ہے تو اس وقت جب کہ وہ تخت کو بنائے گا چار چیزوں موجود ہوں گی، ایک بڑھتی، دوسری نجارت، یعنی اس کا عمل یا فعل جو اس کے ہاتھ کی حرکت ہے۔ تیسرا لکڑی، چوتھی تخت کی وہ صورت وہیست جو بننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، تو بڑھتی اپنے اس فعل و عمل میں جس کو ہم اس موقع پر ”نجڑ“ یا گھڑنے سے تعبیر کرتے ہیں کسی مادہ کامیاب نہیں، بلکہ اس کی فاعلیت کے لئے صرف ہاتھ کی حرث کافی ہے، لکڑی ہو یا نہ ہو، البتہ جبکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لکڑی کا تخت بنادے تو اس وقت وہ مادہ یعنی لکڑی کامیاب ہے، اور ظاہر ہے کہ خود لکڑی اس کا مفعول نہیں ہے، اور نجارت اس کا فاعل، بلکہ اس کا فاعل دوسری ہستی ہے، اس کا مفعول جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں صرف اس کی حرکت ہے۔ الیاصل کوئی فاعل جب ان چار چیزوں میں سے دوسری چیز کو پیدا کرے یعنی اپنے فعل کو تو وہ کسی اور چیز کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فاعل حقيقی اور اس کے مفعول کے درمیان کوئی تیسرا چیز حائل نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ فاعل حقيقی نہیں ہو سکتا، ہاں اگر وہ چوتھی چیز بنانا چاہے تو وہ بغیر کسی تیسرا چیز کے چوتھی چیزوں نہیں بن سکتا، اس لئے چوتھی چیز سے تیسرا کا ہونا ضروری ہے

جب آپ اس اہم مقدمہ کو سمجھ گئے اور یہ امر آپ کے ذہن نشین ہو گیا تو آپ خود بخود سمجھ لیں گے کہ یہ سارے کاسار اعالم خواہ جواہر ہوں یا اعراض فاعل حقیقی یعنی خداۓ قدوس کا فعل ہے اور جس طرح انسان اپنی حرکت و سکون بغیر مادہ کے پیدا کر لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم کو تم عدم سے نکال کر موجود کر دیا، اور چونکہ حق تعالیٰ یعنی فاعل حقیقی کے لئے عالم دوسری چیز تھا نہ کہ چوتھی چیز اس لئے وہ تیسرا چیز سے قطعاً مستغفی رہا اور اس کو کسی اور شے کی کوئی احتیاج نہ پڑی۔

نیز جب کہ ہر مذہب و ملت اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بارگاہ صدیت حدود و زمانہ سے منزہ اور برتر ہے یعنی زمانہ کی حدود میں محدود و محصور نہیں اور اس جناب میں زمانہ معدوم ہے تو پھر اس میں ہی کیا حرج ہے کہ اس طرح یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ کبھی سرے سے معدوم تھا اور اس کا وجود عالم کے وجود کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ احقر نے اسی کے متعلق لکھا ہے۔

آنکس کہ بادباع زمان رفت نہ فہمید  
کز عمر حق ایں حصہ بخلوق پہ بخشید  
چوں واحد حق است بہر مرتبہ باید  
نے مرتبہ ذہن کہ یک گفت بعد یہ

وہ شخص کچھ بھی نہ سمجھا جس نے زمانہ کو قدیم سمجھ لیا اس لئے کہ اس نے اپنے عقیدہ کے ماتحت خداۓ قدوس کی صنعت قدم کا حصہ زمانہ کے حوالہ کر دیا، جبکہ خداۓ قدوس کو واحد مانتے ہو تو پھر اس کی وحدت صحیح معنی

میں جب ہوگی کہ ہر مرتبہ میں اس کو واحد مانا جائے، ورنہ ذہنی مرتبہ میں اس کو واحد کہنا اور پھر زمانہ کو اس کی صفات میں شریک بتانا لگتی میں ایک کہنا ہے نہ کہ حقیقت میں، اور شمار میں تو ہر چیز اسی چیز کے مقابلہ میں اول کہلائی جا سکتی ہے، قدم تو صفات کمالیہ میں سب سے اوپری اور اعلیٰ صفت ہے، اس میں کسی کو ماننا عقل و انصاف دونوں سے بعید ہے۔ اور اگر شبہ کیا جائے کہ اگر عالم کو قدیم نہ مانے تو خداۓ قدوس کا غیر متناہی وقت میں معطل ہو جانا لازم آتا ہے تو یہ بھی سوء فہم اور عقل کی نارسانی ہے، وہ وقت صفات ربانیہ میں وحدت مطلقہ کا ظہور حق تعالیٰ کو تعطیل سے منزہ اور برتر ثابت کرتا ہے، اور یہ بجائے خود ایک عظیم الشان امر ہے عدم تعطیل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تمام صفات کے مظاہر موجود ہوں۔

علمائے محققین نے اسی ربط حادث بالقدیم کے مسئلہ میں بہت کچھ لکھا ہے، چنانچہ عارف جامی جو صوفیائے وجود میں سے بہت جلیل القدر مرتبہ پر ہیں فرماتے ہیں:

مجموعہ کون را بقا نون سبق  
کردیم تھغ ورقا بعد ورق  
حقا کہ ندیدیم و خواندیم و و  
ز ذات حق و خون ذاتیہ حق

مجموعہ کون بود در کتم عدم  
از حرکن آورد بایں دیر قدم  
 فعلے است کہ بے مادہ یققدر اتوکرد  
کز ضرب وجودی بعدم نیست قدم  
یہ سارے کا سارا عالم پہلے پردة عدم میں تھا، اس کے بعد ”کن“  
کے اشارے سے یہ وجود موجود ہوا، یہ خدائے قدوس کا ایک فعل ہے جو اس  
کے دست قدرت سے بغیر مادہ کے ظاہر ہوا ہے، اس لئے کہ اگر وجود کو عدم

منظارے کے سوانہ کچھ اس میں دیکھا نہ پڑھا۔  
اور مجده سر ہندی کہ صوفیائے شہود یہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں:

در عرصہ کائنات با وقت فہم  
بسیار گزشتمیں برعت چوں سہم  
کشتیم ہمہ چشم وندیدم درد  
جز ظل صفات آمدہ ثابت در وہم

میدان کائنات میں ہم عقل و فہم اور وقت نظری کے ساتھ بہت  
دوڑے، اور تیر کی طرح اس میں اس طرح گزرے کہ سرتاپا چشم حقیقت بن  
گئے، لیکن بھر صفات کے پرتو اور اس کی پر چھائیں کے اور کچھ بھی نہ حاصل  
کر سکے اور وہ بھی ہمیں پوری طرح حاصل نہ ہو سکی۔

اس خاکسار نے بھی اپنی پیغمدالی کے باوجود بقدر ہمت اس پر کچھ  
لکھا ہے۔

مجموعہ کون بود در کتم عدم  
از حرکن آورد بایں دیر قدم  
فعلے است کہ بے مادہ یققدر اتوکرد  
کز ضرب وجودی بعدم نیست قدم

میں ضرب دیں تو حاصل ضرب قدم نہیں ہو سکتا، بلکہ حادث ہی نکلے گا یا یوں کہیے کہ جب عدم ذاتی ممکن کو وجود واچب ذاتی میں ضرب دیں یعنی اول کا ثانی سے تعلق اور ربط پیدا کریں تو حاصل ضرب یا نتیجہ تعلق حدوث زمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، خیر یہ ایک طویل بحث ہے اس جگہ تو صرف اس قدر گذارش کرنا ہے کہ جن مذاہب و ملل کا یہ حال ہو کہ نہ ان میں تو حید کا پتہ اور نہ ان کے مذہبی اصول کے مطابق خدا کے وجود کا ثبوت ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا تبلیغ اور پیغام الہی پہنچا سکتے ہیں؟ یہ حق اگر ہے تو فقط مذہب اسلام ہی کو ہے، خدا یے قدوس مسلمانوں کو توفیق نیک عطا فرمائے کہ وہ اس اہم فریضہ کی طرف پوری قوت سے متوجہ ہوں۔ اور اپنی عام سی کو اس کام کے لئے وقف کریں۔

### حضرات!

حقیقتاً اس اہم فریضہ کی اوپرین خدمت علماء کرام کا حق ہے اور یہ کام انہیں کے پردہ ہونا چاہیے تھا۔ اور قوم کا یہ فرض تھا کہ وہ علماء کا ہاتھ بٹاتے اور اس عظیم الشان مقصد کے لئے بدنه یا درمے یا قدمے یا قلنے ہر طرح امداد کرتے اور اپنے اطمینان کے لئے ان سے برابر حساب لیتے رہتے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا اور تقسیم کار کو ترک کر کے ہر شخص اور جماعت ہر ایک کام میں دخیل ہو جاتی ہے اور نتیجہ بجز انتشار اور پر اگندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

## اصول تبلیغ

### حضرات!

جو لوگ اسلام کے اس اہم فریضہ کے لئے تیار ہوں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیغام دین متنین اور نشر و ابلاغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ اور ملکات فاضلہ اور خلوص نیت اور فراخ حوصلگی اور حسن مقال اور راست بازی، شیریں کلامی، وسعت صدر، ایثار، جاں فشانی اور جفا کشی کے اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں اور ایک الحمد کے لئے ان کے دل میں حرص و طمع غرض نفسانی ریا کاری شوق حصول دنیا نہ آنے پائے، ورنہ جو شخص ان امور کا لاحاظ نہیں رکھتا اس کی آواز کسی طرح کا رگر نہیں ہوتی اور اس کے کام کا سامعین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

الحاصل! مبلغ کو چاہیے کہ جو کچھ دوسروں کو نصحت کرتا ہے خود بھی اس پر کار بند ہو، اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کی ہر ایک بات لوگوں کی ذہنوں میں دروغ بانی اور ہرزہ سرائی سے زیادہ وقیع نہ ہوگی، خدا یے قدوس پیغمبر برحق حضرت شیعیب علیہ السلام کی دعوت کے سلسلہ میں ان کا مقول نقل فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخْالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ﴾

”میں نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے تم کو منع کرتا ہوں وہ خود کرنے

لگوں، میرا ارادہ تو سوائے اصلاح اور کچھ نہیں، جہاں تک میرے امکان میں ہوگا (اصلاح کروں گا) اور صرف خدا کی طرف سے ہی مجھے توفیق ہوگی اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

اور دوسری جگہ اس طرح ارشاد ہے:

﴿أَتَأْمِرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الظَّالِمُونَ هُوَ الَّذِينَ لَا يَحْشُونَ مَا فَعَلُوا إِنَّمَا يَعْصِي اللَّهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون

ایمان والو! ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، خدا کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے کہ جو باتیں نہیں کرتے وہ کہو۔

### مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ

ہمارے علماء احთاف رحمہم اللہ نے اس معاہدہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر دارالحرب اور دارالامان کے بہت سے احکام و مسائل اخذ کئے ہیں۔

فچھائے احთاف رحمہم اللہ نے دارالحرب میں عقود فاسدہ کے جواز کا حکم دے کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے احکام میں بہت فرق ہے، عقود فاسدہ کے جواز کی اصل ان کے نزدیک یہ آیت کریمہ ہے:

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تُحَرِّرُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً﴾

یعنی اگر کسی مسلمان مہاجر کے ہاتھ کوئی ایسا مسلمان مقتول ہو جائے جو کہ دارالحرب میں رہتا تھا اور اس نے بھرت نہ کی تھی تو اس قاتل پر کفارہ واجب ہو گا نہ دیت، اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ اسلام سے اسلام لانے والے کی جان محفوظ و معصوم ہو جاتی ہے، مگر عصمت کی دو فرمیں ہیں۔ ایک عصمت موٹہ لیتی ایسی عصمت جس کے توڑنے والے پر گناہ تو ہوتا ہے مگر کوئی بدل واجب نہیں ہوتا۔ دوسری عصمت مقومہ یعنی اس کے توڑنے والے پر اس نفس مخصوصہ کا بدل بھی واجب ہوتا ہے ہر مسلمان کی جان اسلام لاتے ہیں مخصوصہ اور واجب الحفظ ہو جاتی ہے اور مسلمان کے قتل کرنے والے کے لئے حضرت حق تعالیٰ نے نہایت صاف و صريح حکم نازل فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعْمِدًا فَجزاءُهُ جَهَنَّمُ﴾ یعنی جو شخص کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے۔ اس آیت کریمہ میں جزاۓ اخروی مراد ہے جو عصمت موٹہ کے توڑنے پر واجب ہوتی ہے، اور اسی قاتل پر اس مقتول کی جان کا بدلہ یعنی قصاص یادیت بھی واجب ہوتی ہے اور اس قاتل پر اس مقتول کی جان کا بدلہ یعنی قصاص یادیت بھی واجب ہوتا ہے، ہوتا ہے جو مقتول کی جان کی عصمت مقومہ توڑنے کی وجہ سے عائد ہوتا ہے، پس اگر مقتول مسلمان دارالاسلام کا رہنے والا تھا تو اس کو عصمت موٹہ اور عصمت مقومہ دونوں حاصل تھیں اس لئے اس کا اخروی بدلہ جہنم ہے اور دنیوی جزاۓ قصاص یادیت ہے، لیکن اگر یہی مقتول مسلمان دارالحرب کا رہنے والا تھا تو شریعت مطہرہ نے اس کے قاتل پر قصاص یادیت واجب نہیں

کی بلکہ صرف کفارہ واجب کیا، جس سے معلوم ہوا کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کی جانبی عصمت مقومہ نہیں رکھتیں۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عصمت موثرہ تو صرف اسلام لانے سے حاصل ہو جاتی ہے مگر عصمت مقومہ کے لئے دارالاسلام اور حکومت و شوکت اسلامیہ کا ہونا شرط ہے۔ اور میراثقصوداں بحث کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے احکام کا فرق واضح ہو جائے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے ہم وطن غیر مسلموں اور ہسایہ قوموں سے کس طرح اور کتنی مذہبی رواداری اور تہذیف و معاشرتی شرائط پر صلح و معاهدہ کر سکتے ہیں،<sup>(۱)</sup>

آپ کا حافظہ (یعنی حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا حافظہ) ضرب المثل تھا، درس حدیث کے وقت کتاب سے حوالہ نکال کر عبارت بلند آواز سے پڑھ کر سنادیتے تھے، عموماً یہ دیکھا گیا کہ حسین اللہ فرمایا اور کتاب کھوئی وہی صفحہ نکل آتا تھا، اور شہادت کی انگلی اس عبارت پر ہی پڑتی تھی، جہاں سے حضرت کو حوالہ کی عبارت سنانا ہوتی ناظرین ہی رہا جاتے تھے، بہاول پور کے بیانات میں جب حوالہ نکالتے تو عموماً یہی ہوتا تھا۔

۱۔ ایک دفعہ بہاول پور ہی میں ابی کی شرح مسلم سے حوالہ نکالنا تھا کتاب ہمارے پاس نہ تھی، قادیانی مختار مقدمہ کے پاس یہ کتاب تھی، حضرت نے فرمایا جس صاحب لکھیے ان صاحب نے حوالہ دینے میں دھوکہ دیا

۲۱

ہے یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے اس کو کہو عبارت پڑھے، جب اس نے عبارت نہ پڑھی تو آپ نے خود کتاب اس سے لے کر حسین اللہ فرمایا اور فوراً حوالہ نکال لیا، وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ابی کی عبارت یہ ہے:

”وفى العتبية قال مالك: بين الناس قيام يستمعون لإقامة الصلاة فتشاهم غمامه فإذا عيسى قد نزل“ (ص: ۲۶۶، ج: ۱،  
شرح مسلم للإمام مصرى إكمال أكمال العلم)

۲۔ مولانا عبد الواحد صاحب خطیب جامع مسجد گوجرانوالہ (پنجاب) احقر کو ناتے تھے کہ جب میں ڈا بھیل میں دورہ حدیث میں شامل تھا، میرے پچھا صاحب حضرت مولانا عبدالعزیز محدث گوجرانوالہ صاحب ”نبراس الساری فی اطراف البخاری“ کا خط میرے نام آیا کہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ حضرت ہمیں ایک حدیث کی ضرورت ہے۔ الاحکام الی تفارق المرأة الرجل، فرمایا کل کو آنا، اس وقت میں مصروف ہوں میں دوسرے دن حاضر ہوا تو مرائل ابو داؤد سے حدیث نکال کر میرے حوالے فرمائی۔

”إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أمرأتين تصليان فقلًا إذا سجدت ماماً فضمماً بعض اللحم الأرض“  
اور سن کبریٰ تیہی کی کتاب سے بھی حوالہ نکال کر عنایت فرمایا:  
”إذا سجنت المرأة لصقت بطنه بفخذها كامست ما

(۱) یہ طویل اقتباس م: ۲۲ سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوا ہے، مسیح۔

یکون لہا"

۳۲

پہلے حفظ پڑھ کر سنائی تھی، نج خوشی سے اچھل پڑا۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری بھی اس مجتمع میں تھے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب کا چہرہ مبارک مرست سے کھل گیا۔ (یہ حضرت، حضرت مولانا عبد اللہ صاحب کے مربی تھے اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے بھی پیر تھے)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نج صاحب یہ صاحب ہمیں مفہوم کرنا چاہتے ہیں میں چونکہ طالب علم ہوں میں نے دوچار کرتا میں دیکھ رکھی ہیں میں انشاء اللہ مفہوم نہیں ہونے کا۔

۳۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مولگیری نے ایک اجتماع کیا تھا وہاں حضرت مولانا شیخ الہند اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اکابر دیوبند سہارنپور مدعو تھے۔ ہزار اس ہزار علماء مجتمع تھے۔ قادیانیوں نے کہا کہ ہر دو مناظر عربی زبان میں تقریر کریں گے، حضرت شاہ صاحب بھی مدعو تھے۔ حضرات نے حضرت شاہ صاحب کو تیار کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ دونوں مناظرین عربی اشعار میں اپنا مانی الصیر ظاہر کریں گے، فی البدیہ یہاں ہو گا، اور نہ کاغذ کوئی کتاب اپنے پاس رکھیں گے، وہ لوگ تیار نہ ہوئے۔

یہ قصہ حضرت رائے پوری کو لاہور میں مولانا ابراہیم صاحب میاں چنوں والوں نے بھی سنایا تھا۔ مولانا ابراہیم صاحب اس وقت بھاگل پور میں مدرس تھے۔ مولانا فرماتے تھے کہ حضرت مفتی عزیز الرحمن بھی تھے، اور حضرت شاہ صاحب نے خود بھی درس ترمذی میں ہمیں سنایا تھا پھر فرمایا

۳۔ وہیں بہاول پوری کا قصہ ہے کہ قادیانی شاہد نے حضرت سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا دین متواتر ہے اور تواتر کے اقسام میں سے کسی ایک قسم کا منکر کافر ہے، آپ کو چاہیے کہ امام رازی پر کفر کا فتوی دیں، کیونکہ فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے متواتر معنوی کا انکار کیا ہے۔

ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب بھی نہ تھی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نج صاحب لکھیے کہ میں نے بتیں سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی، اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے، امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے: "لا تجتمع أمتی على الضلاله"، یہ حدیث تواتر معنوی کے رتبے کو نہیں پہنچی، اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فرمایا ہے نہ کہ تواتر معنوی کے جدت ہونے کے منکر ہیں۔

مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہارن پور اور مولانا مرتضیٰ حسن صاحب جو اس مجلس میں موجود تھے جیران تھے کہ کیا جواب زیں گے سن کر حیرت میں رہ گئے۔

ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے اس کو کہو کہ عبارت پڑھئے ورنہ میں اس سے کتاب لے کر عبارت پڑھتا ہوں، چنانچہ قادیانی شاہد نے عبارت پڑھی، بعینہ وہی عبارت نکلی جو حضرت نے

۳۳

جاہلین تم نے کیا سمجھا، میں انشاء اللہ اس پر قادر ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے یہ بھی سنایا کہ پھر حضرت شاہ صاحب نے عربی زبان میں تقریر فرمائی۔

۵۔ احقر نے ریل گاڑی میں عرض کیا کہ جب امرتر سے لا ہور کو تشریف لے جا رہے تھے، یہ سفر بہاول پوری ۱۹۳۲ء کا واقعہ ہے۔ کہ شجرہ چشتیہ میں آپ کے نام کے بعد کن بزرگوں کا نام پڑھنا چاہیئے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا۔ اور مجھے اپنے والد (مولانا معظم شاہ) سے بھی سہروردی خاندان میں بیعت لینے کی اجازت ہے۔

۶۔ جب ۱۳۳۸ھ / ۱۹۳۹ھ میں ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حدیث پڑھتے تھے ایک مولانا جو کہ معمر تھے حضرت کی ملاقات کے لئے آئے، فوراً فرمایا: ”ہیر بدھی ہوئی تاں راجھا آیا“، پنجابی میں فرمایا اور مسکرائے، پھر نشانیاں فرمادیے کہ اس قسم کا مکان تھا جہاں آپ دہلی میں قیام پذیر تھے، سیرہ میں سے چل کر جانا ہوتا تھا، وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ مدت کی بات ہے مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔

۷۔ مالیر کوٹلہ میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، مولانا بدرعالم مہاجر مدینی بھی ساتھ تھے۔ پنجاب کے مولانا خیر الدین صاحب

مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ التحصیل مولانا محمد غوث جو مولانا عبدالعلی صاحب کی خدمت میں دہلی رہے تھے مولانا عبدالجبار ابو ہری مرحوم اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب و مولانا محمد صدیق صاحب حصاروی وغیرہم تھے، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف ”شہباز“ کی باتیں ہونے لگیں، حضرت نے فرمایا کہ مولانا نور محمد صاحب کے وصال کو آج اسی سال ہو گئے، مولانا محمد صدیق صاحب نے حساب لگایا تو اسی سال ہوئے تھے نہ کم نہ زیادہ، مولانا نور محمد صاحب کی باتیں خوب یاد تھیں۔

۸۔ فرمایا کہ میں دو سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ مسجد میں جایا کرتا تھا، ایک دن دیکھا کہ دو ان پڑھنمازیوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، ایک کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہو گا، دوسرا منکر تھا کہ عذاب روح ہی کو ہو گا جو کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن کو ہو گا اس نے مثال دی کہ ایک باغ میں ایک ناپینا دوسرا لکڑا اچوری کے خیال سے گئے لکڑا کہنے لگا کہ میں ناٹنگ سے چل نہیں سکتا ناپینا کہتا ہے کہ میں چلوں کو دیکھ نہیں سکتا، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ناپینا لکڑے کو اپنے کندھے پر اٹھا لے اور لکڑا چل توڑے، اتنے میں اگر با غبان آگیا تو وہ دونوں ہی کو گرفتار کرے گا اور سزا کا مقتق قرار دے گا، میں نے یہ بات سن لی پھر ایک زمانہ دراز گذرائیں ”تذكرة القرطبي“ دیکھ رہا تھا، اس میں یہی مثال حضرت عبد اللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما سے مذکور تھی، میں اس کو پڑھ کر اس ان پڑھ کی فطرت سلیمہ پر حیران رہ گیا کہ کیسا صحیح جواب دیا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ لدھیانہ میں مارچ ۱۹۲۷ء کو بستان الاسلام کے جلسہ میں فرمایا تھا، لوگ حضرت شاہ صاحب کے حافظہ پر حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں عالم آخرت کی ایسی باریک بات یاد رکھی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

۹۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب فرماتے ہیں کہ ۱۳۳۲ھ میں مولانا احمد اللہ پانی پتی بھی حاضر تھے اور بھی بہت مہمان تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے نہایت ادب سے بیٹھ کر مسئلہ سنایا حضرت شیخ الہند کا چہرہ مبارک خوشی اور سرت سے کھل گیا، احتقر مع والد صاحب بھی حاضر تھے۔ درس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جان بازی جو حضرت شیخ الہند نے دکھائی ہے وہ تو کوئی کیا دکھائے گا ہاں حق ضرور واضح کر دینا چاہیے۔

مولانا ادریس سیکر وڈوی مرخوم کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے ان ایام میں ضلع مراد آباد کا دورہ فرمایا تھا مولانا محمد اور ادیس فرماتے تھے کہ شاہ صاحب اکثر یہ جملہ فرماتے تھے کہ اب مسئلہ واشگاف ہو گیا ہے اب حق میں جواب نہیں چاہیے اور یہ شعر فرمایا کرتے تھے:

اٹھ پاندھ کمر کیوں ڈرتا ہے  
پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے

حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب حضرت تھانوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جناب کا درس سننا چاہتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے پھر کتاب کھول لی۔ ڈیڑھ گھنٹہ درس دیا، اگلی حدیث پر بیان فرماتے رہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا شاہ صاحب یہ علوم وہی ہیں کہ جیسے نہیں یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔

۱۱۔ ان ہی ایام میں قاری محمد طیب صاحب مدظلہ کے چھوٹے بھائی قاری محمد طاہر صاحب مرحوم کائنکاٹھ تھا، حوالی دیوان صاحب (مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے سامنے ایک عمارت بوسیدہ) کے چھوٹے ہزاروں علماء اور صلحاء کا مجمع تھا کائنکاٹھ کی مجلس تھی۔ حضرت شیخ الہند تشریف فرماتھے میرے والد صاحب بار بار حضرت شاہ صاحب کی طرف دیکھتے تھے کہ سب سے پہلے خاموش بیٹھے ہیں حالانکہ آپ کے سینکڑوں شاگرد آگے ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ شیخ الہند کے قریب ہو جائیں۔ حضرت والد صاحب مرحوم حضرت شاہ صاحب کا غایت تادب دیکھ کر حیران رہ گئے۔

۱۲۔ ایک دفعہ کشمیر کو تشریف لے جا رہے تھے بس کے انتظار میں سیالکوٹ کے اڈے پر تشریف فرماتھے، ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم دین ہیں؟ فرمایا نہیں میں ایک طالب علم ہوں اس نے کہا کہ آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ فرمایا کچھ کچھ۔ پھر ان کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو اس کی یہ شکل نہیں ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چالیس دلائل دئے۔ دس قرآن سے دس تورات سے دس انجیل سے دس عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریسن کر کہنے لگا اگر مجھے تنخواہ کا لائق نہ ہوتا تو میں آپ کی تقریب آپ کا علوم میں اس قدر استحضار دیکھ کر مسلمان ہو جاتا، نیز یہ کہ مجھے بہت سی باتیں اپنے ذہب کے متعلق آپ سے معلوم ہوئیں۔ فرمایا جب آپ کو حق معلوم کر کے

بھی توفیق نہ ہوئی کہ ایمان لے آئے تو معلوم ہوا کہ ایمان کی کوئی قدر و قیمت آپ کے ہاں نہیں محض تنخواہ کا لائق ہے، إِنَّا لِهُ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ پادری نہایت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔

۱۳۔ مولانا عبدالعزیز محدث گوجرانوالہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبد اللہ سندي رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں جو اس امر پر کھاتی جائے کہ مولانا انور شاہ صاحب اس زمانہ میں بینظیر عالم ہیں، مولانا غلام رسول اتنی والے استاد رحمہ اللہ نے جب پہلی بار قادیاں میں حضرت شاہ صاحب کی تقریبی تو فرمایا علم ہو تو انور شاہ والا ہو ورنہ ہمارے علم سے تو جاہل ہی اچھے۔

مولانا ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی نے اس وقت فرمایا تھا یعنی قادیاں ہی میں کہ مجسم علم دیکھنا ہو تو شاہ صاحب کو دیکھ لو۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدینی رحمہ اللہ نے وفات پر دیوبند میں تعزیتی جلسے میں فرمایا تھا کہ میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کے ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کو صحیح حفظ یاد تھیں لیکن ایسا عالم دین کے کتب خانے کا کتب خانہ ہی سینہ میں محفوظ ہو سوائے حضرت مولانا انور شاہ کے اور کوئی نہیں دیکھا۔

۱۳۔ علامہ کوثری حضرت شاہ صاحب کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے، عقیدۃ الاسلام کا جدید ایڈیشن مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کا مقدمہ دیکھنا چاہیے علامہ زاہد کوثری کی عبارتوں پر عبارتیں نقل کرتے چلے گئے ہیں حضرت شاہ صاحب کی ”عقیدۃ الاسلام“ اور ”التصریح بما تواتر فی نزول المسبیح“ یہ دونوں کتابیں علامہ محمد زاہد توعید کی طرح اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ حضرت بڑے صاحب کمال حافظ حدیث والفقہ قسطنطینیہ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، پھر مصطفیٰ کمال پاشا سے اختلاف کے باعث مصر تشریف لے آئے بڑی نادر تحقیقی کتب کے مصنف ہیں۔

تائب الخطیب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیل الفرقان کی بڑی تعریف کی ہے آپ کو ”العلامة البحر الاحمر“ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر بکی سے سلسلہ طریقت ملتا تھا۔

### علامہ سید سلیمان ندوی صاحب ندوی کا تاثر

۱۵۔ دین و دانش کا مہر انور ۳ صفر ۱۳۵۲ھ مطابق ۲۹ مئی ۱۹۳۳ء کو دیوبند کی خاک میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا، یعنی مولانا محمد انور شاہ صاحب جانشین حضرت شیخ الہند صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔

دو برس کی علاالت بواسیر اور ضعف و نقاہت کے ۵۹ برس کی عمر میں وفات پائی، مرحوم کاظم کشمیر تھا مگر تعلیم سے فراغت کے بعد ایک مدت تک مدینہ منورہ میں اقامت کی پھر واپس آ کر استاد کی خواہش اور اصرار سے دارالعلوم دیوبند کی صدارت کی ذمہ داری قبول فرمائی، جس کو شیخ الہند کے زمانہ جنگ میں بھرت کے بعد سے ۱۹۲۷ء تک اس طرح انجام دیا کہ جیسے لے کر روم تک ان کے فیضان کا سیلا بوجیس مارتارہا۔ ہند اور بیرون ہند کے سینکڑوں تشنگاہ علم نے اس سے اپنی پیاس بجھائی۔

مرحوم کم خن لیکن وسیع النظر عالم تھے۔ ان کی مثال اس سمندر کی سی ہے جس کی اوپر کی سطح ساکن ہو گیں اندر کی سطح موتیوں کے گراں قدر خزانوں سے معمور ہوتی ہے، وہ وسعت نظر، قوت حافظہ اور کثرت حفظ میں اس عہد میں بے مثال تھے۔ علوم حدیث کے حافظہ اور نکتہ شناس، علوم ادب میں بلند پایہ معقولات میں ماہر، شعر و خن میں بہرہ مند، زہر و تقویٰ میں کامل تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نوازوں کی جنت میں ان کا مقام اعلیٰ کرے کر مرتے دم تک علم و معرفت کے اس شہید نے قال اللہ و قال الرسول کاغرہ بلند کیا۔

مرحوم کو سب سے پہلے ۱۹۰۶ء یا ۱۹۰۷ء میں دیکھا جب کہ وہ اور مولانا حسین احمد مدینی سرز میں عرب سے تازہ وارد ہند ہوئے تھے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں میری حاضری کی تقریب پر طلبہ اور مدرسین کا جلسہ ترتیب پایا۔ جس میں انہوں نے میری عربی تقریر کے جواب میں تقریر فرمائی تھی۔ پھر جب حاضری ہوتی رہی یا خلافت اور جمعیت کے جلسوں میں ملاقاتیں

ہوتی رہیں۔

۷۱۹۲۷ء میں جب وہ پشاور کے اجلاس جمیعۃ العلماء کے صدر تھے میں بھی حاضر تھا، حضرت مرحوم سے ملاقاتوں میں علمی استفادہ کے موقع ملتے رہے۔ ہر سوال کے وقت ان کی خندہ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوال سے خوش ہوئے، اہل کمال کی یہ بڑی پہچان ہے کیونکہ وہ مشکلات سے عبور کر سکتا ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو شاید کی اصل منشاء کو سمجھ جاتا ہے اور جواب دے کر خوش ہوتا ہے۔ مرحوم معلومات کے دریاء، حافظ کے بادشاہ اور وسعت علمی کی نادر مثال تھے۔

ان کو زندہ کتب خانہ کہنا بجا ہے۔ شاید کوئی کتاب مطبوعہ یا قلمی ان کے مطالعہ سے پچی ہو، میری تصنیفات میں سے ارض القرآن ان تک پہنچی تھی، اس پر اپنی رضامندی ظاہر فرمائی، مرحوم آخری ملاقاتوں میں زیادہ عربی نصاب کی اصلاح پر مجھ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

(معارف ربیع الاول ۱۳۵۲ھ اعظم گزہ)

۱۶۔ فرمایا قبہ محمودیہ کا کتب خانہ میں نے تمام دیکھا بعض نایاب کتب سے حوالے بھی لکھے، بہت یاد داشتیں مکہ مکرمہ کے کتب خانہ سے جمع کیں، مخفی ابن قدامہ کا صحیح قلمی نسخہ مکہ مکرمہ میں دستیاب ہوا، اس سے کئی ورق یاد داشت کے لکھے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیباںی کی "السیر الکبیر" مدینہ طیبہ میں دیکھی قلمی نسخہ تھا، نہایت عمدہ کتابت، اس کا مطالعہ کیا، یاد

داشتیں لیں، پھر جب ترکی حکومت کو زوال آیا اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات اس کتاب کو ساتھ لے گئے اب بعض شوقین اور علم دوست علماء نے نسخہ تلاش کیا نہ پایا، یہ کتاب قبہ محمودیہ میں تھی۔

۱۷۔ حضرت شاہ صاحب کا قیام جب دارالعلوم دیوبند ہی تھا مظفر گزہ پنجاب کے عظیم الشان جلسہ پر تشریف لے گئے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان اور دیگر زعماء قوم بھی مدعا تھے غالباً ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم بھی تھے، حضرت کی زیارت کے لئے ہزار اس ہزار خلق اللہ جمع تھی، علماء اور زعماء کی تقاریر ہوئیں، حضرت اقدس شاہ صاحب قدس سرہ نے نام حق کا ایک شعر پڑھا:

غم دین خور کہ غم غم دین است  
ہمہ غمہ فروتہ از این است  
اور اس پر بڑی رقت آمیزو پرتاشیر تقریر فرمائی، خود روئے اور

حاضرین کو رلایا:

غم دنیا محور کہ بے ہود است  
ہیچ کس درجه اس نیا سود است  
علامہ سید سلیمان ندوی پر اس صحبت کا بڑا اثر پڑا، کئی علمی سوالات کئے، اور جوابات سن کر بہت متاثر ہوئے، فرمایا کرتے تھے مولانا محمد انور شاہ صاحب علم کا بحر مواج ہیں، حافظہ کے بادشاہ ہیں۔

ظفر علی خان تو حضرت کے چہرے کے عاشق تھے، کہا کرتے تھے جی  
چاہتا ہے کہ شاہ صاحب کے چہرہ کو دیکھتا ہوں۔  
اگست ۱۹۳۲ء میں زمیندار کے ایک شمارہ میں ایک طویل مقالہ  
حضرت شاہ صاحب کے مناقب و کمالات پر لکھا، لکھتے ہیں کہ:  
”حضرت مولانا انور شاہ صاحب مدظلہ کی نظیر علوم میں خصوصاً علم  
حدیث میں پیش کرنے سے تمام ایشیا عاجز ہے۔“

منظر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ملکان چھاؤنی کے  
ائیشن پر فیر کی نماز سے قبل گاڑی کے انتظار میں حضرت تشریف فرماتھے خدام  
کا ارد گرد مجھ تھا، ریلوے کے ایک ہندو بابو صاحب یمپ ہاتھ میں لئے  
ہوئے آرہے تھے، حضرت شاہ صاحب کا منور چہرہ دیکھ کر سامنے کھڑے  
ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے اور ایمان لے آئے، حضرت کے دست  
مبارک پر بیعت کر لی، کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر مجھے یقین  
ہو گیا کہ اسلام سجادیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ﴿وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
يَشَاء﴾ یہ آیت اہل سنت والجماعت کے مسلم کے حق ہونے میں صریح  
دلیل ہے۔ علامہ زمخشیری کوتاولیں کرنا پڑی۔

فرمایا شرک کے معنی کفر مع عبادت غیر اللہ ہیں لہذا وہ تمام انواع کفر  
سے ایقچہ ہے، اور کفر اس سے عام ہے لیکن آیت مذکورہ بالا میں شرک سے مراد  
ہے ایقچہ ہے، اور کفر اس سے عام ہے لیکن آیت مذکورہ بالا میں شرک سے مراد

کفر ہی ہے، کیوں کہ اگر ایک شخص عبادت غیر اللہ کی نہیں کرتا مگر نبی صلی اللہ  
علیہ وسلم کی تبوت سے منکر ہے یا آپ کو خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی نہیں مانتا  
وہ بلا شک و بلا خلاف کافر ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ گو وہ مشرک نہ  
ہو، لہذا اس آیت مبارکہ میں شرک کا ذکر اس لئے ہوا کہ وہ لوگ شرک فی  
العبادة بھی کرتے تھے۔

کسی نے پوچھا کہ حدیث بخاری: ”إِذَا تَقْتَلَ الْمُسْلِمُانَ  
بِسِيفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا  
الْقَاتِلُ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ  
صَاحِبِهِ۔“

اس حدیث میں جو آیا قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں یہ اس حدیث  
کے خلاف ہے جس میں ارشاد ہے: ”السیف محاۓ الذنوب“ یہ  
حدیث بھی صحیح ہے اور قوی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے وہ مقتول مراد ہے جو قاتل کے قتل کا  
ارادہ نہ رکھتا تھا، لہذا وہ ہر طرح مظلوم اور شہید ہے۔ یہی صورت ہائیل اور  
قائیل کے قصہ میں پیش آئی۔ اور ہائیل نے قائیل کو سنایا: ﴿إِنِّي أَرِيدُ أَنْ  
تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِنِّمَّا فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾۔ اس کی تفسیر بھی  
اس شرح سے حل ہو جاتی ہے یعنی میں اس پر راضی ہوں کہ تو اپنے گناہ  
(قتل) کی وجہ سے جہنمی بنے، اور میرے گناہ تیری تکوار کی وجہ سے محظوظ

ہو جائیں، کیونکہ تکوار مخاء الذنوب ہے، کیونکہ جب اس کے گناہ قاتل کی تکوار سے محو ہوئے تو وہی اس کے گناہ لے جانے والا ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ باتیل کے گناہ قاتل پر ڈال دیئے گئے کیونکہ ﴿لا تزد وا زرۃ و زد اخیری﴾ کے خلاف ہے، پھر اس عنوان کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ظلم قتل کرنے کی غیر معمولی قباحت خوب واضح کر دی جائے تاکہ جو اس کی برائی کو سمجھ لے گا وہ بچنے کی سعی کرے گا۔

☆☆☆

بیان مقدمہ بہاولپور پانچ دن پانچ گھنٹہ فی یوم  
ایمان کے معنی ہیں گرویدن باور کردن، اور شریعت میں انبیاء علیہم السلام جو کچھ باری تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس بات کو ان کے اعتقاد پر باور کر لینا، اب جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہے، اس طرح کہ آپ سے متواتر ثابت ہو جائے اور خواص سے عوام تک پہنچ جائے، جیسے وحدانیت باری تعالیٰ کی اور رسولوں کی رسالت اور ختم ہونا رسالت کا خاتم الانبیاء پر اور منتقطع ہو جانا آپ کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قرب قیامت میں تشریف لانا آپ کے اعتقاد پر باور کر لینا ایمان کھلاتا ہے۔  
کفر کے معنی ہیں حق ناشاسی یعنی منکر ہو جانا اور مکر جانا کفر کبھی اشارے سے بھی ہوتا ہے، جیسے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوْرَا رُؤْسَهُمْ﴾ یا بات توهہ مانتا ہے کہ جو کچھ دین میں آیا ہے حق ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ جس امت نے ہمیں الفاظ پہنچائے اسی نے ہمیں معانی بھی پہنچائے۔ مثلاً نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے میں کسی کا بھی سلف میں سے اختلاف نہیں تھا۔ اب جو کوئی معنی یہ کرے کہ اس کے معنی اجزاء نبوت ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مثالیں آئے گا یہ بھی کفر ہے، ضروریات دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کرنا جو ارج سے ضروری ہو، بلکہ کبھی کوئی شے مستحب اور مباح ہی ہوتی ہے اس کا منکر بھی کافر قرار پاتا ہے۔

الحاصل ضرورة کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ثبوت شارع علیہ السلام سے قطعی ہو، خواہ وہ حکم جس پر وہ مشتمل ہے نظری ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ عذاب قبر اس کا ثبوت شارع علیہ السلام سے مستفیض ہے، اور کیفیت عذاب ہم سے مستور ہے، لہذا عذاب قبر کا منکر کافر قرار پائے گا۔

**فتح الباری** میں ہے: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يتلزم أحکام الإسلام” (فتح الباری ص: ۷۳، ج: ۸)

وعند مسلم ص: ۸۶ ج: ۱: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذى نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.

اور متدرک ص: ۳۲۲، ج: ۲ میں ہے: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهمما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول أين تصدقها في كتاب الله حتى وجدت في هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال: الأحزاب الملل كلها.

یہ بات تھی جو شیخین (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق عظیم رضی اللہ عنہ) کے درمیان دائر ہوئی۔ فقال أبو بکر: من فرق

بين الصلاة والزكاة، ي يريد أنه ليس مؤمناً من لم يؤمن بالكل، فشرح الله له صدر عمر أيضاً فرأى ما رأى أبو بكر. فعند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويعْمَن بي وبِمَا جئت به، وإذا فعلوا ذلك عصمو مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں دو قاصد مسلیمہ کذاب کے آئے، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تمہارا بھی وہی عقیدہ ہے جو کچھ مسلیمہ کا ہے؟ ایک نے کہا کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے حالانکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہلاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصد قتل نہیں کئے جاتے تو میں تم کو ضرر قتل کرتا۔ یہ قصہ ہو چکا پھر ان میں سے ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مسعود کو ملا آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا اب بھی وہی عقیدہ ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے اسی وقت تکوار سے اس کا سر قلم کر دیا، کہ اب تم قاصد نہیں رہے۔ یہ قصہ ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے اس پر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج پر عمل کیا، یہ غلط ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا یہ خود ایک قانون ہے۔

وقصة دباء أى القتل عندها ابو یوسف القاضی ولات

او ان یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا ایک آدمی نے اٹھ کر کہا مجھے تو یہ پسند نہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تکوارنکالی اور ساکے قتل کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے توبہ کی۔ کدو کھانا کوئی ضروری نہیں لیکن اس نے عین حدیث بیان کرتے وقت کہ حضور کو یہ مرغوب تھا اس وقت یہ کلمہ کہا تھا مثلا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور امت کھاتی چلی آئی یوں اگر کوئی نہ کھائے تو کچھ گناہ نہیں لیکن یہ بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور امت کھاتی چلی آئی اس وقت اگر انکار کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔

پھر یہ سمجھو کر ہمارا دین متواتر ہے، اور دنیا میں کوئی دین متواتر نہیں، تو اتر کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا ثبوت ہم تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار ہوتا آیا اس کو تو اتر کہتے ہیں۔ تو اتر کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک تو اتر اساد جیسے کہ حدیث: ”من کذب على متعتمدا فليتبوا مقعده من النار“ فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن اور تمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی حدیثیں میرے ایک رفیق نے جمع کیں، وہ کوئی ذریثہ سے زیادہ ہوتی ہیں جن میں سے تمیں صحاج ستہ کی حدیثیں ہیں۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے متعلق میرا ایک رسالہ ہے ”التصريح بما تواتر في نزول المسيح“ اس میں ستر سے زائد حدیثیں صحیح ہیں، اور میری کتاب ”عقیدۃ الاسلام“ ہے اس کا حاشیہ تجھیہ

الاسلام ہے۔

تفیر ابن کثیر ص: ۳۵۶ مطبوعہ مصر جدید میں ہے: قال الحسن: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إن عیسیٰ لم یمُتْ، وإنَّهُ راجعٌ إِلَيْکُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

إِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلْسَّاعَةِ كَوْنَهُ عِلْمًا لَهَا هُوَ الَّذِي اشْتَهَرَ فِي الْحَدِيثِ بِالَاشْرَاطِ، فَذَكْرُهُ الْقُرْآنُ بِكَوْنَهُ عِلْمًا صَارَ عِرْفًا الْحَدِيثُ كَوْنَهُ مِنَ الْأَشْرَاطِ، وَكَانَهُ أَخْذَ مِنْ هَذَا الْفَظْوَنَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ وَإِذْنَ فِي الْآيَةِ بِيَانِ الْإِمْكَانِ أَوْ لَا ثُمَّ بِيَانِ الْوَقْعَةِ ثَانِيَا، وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنَ حَمِيدٍ وَابْنَ جَرِيرٍ أَنَّ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلْسَّاعَةِ قَالَ: نَزْوَلُ عِیسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

تابعین اور صحابہ آیت کی تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کرتے ہیں اور متواتر حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے خبر دی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی قیامت سے پہلے اماماً عادلاً حکماً مقسطاً۔

اور ابن کثیر نے دعویٰ کیا ہے احادیث متواتر ہونے کا۔ اور حافظ ابن حجر نے تخلیص الحجیر میں اور فتح الباری میں دعویٰ کیا ہے اور جامع ترمذی میں حوالہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے پندرہ صحابیوں کی حدیثیں پر، اور علامہ شوکانی کا ایک رسالہ ہے جس انہیں حدیثیں پر اور

لیلۃ الاسراء کی حدیث میں ہے جیسا کہ درمنشور میں ہے اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مند احمد، ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، ابن جریر اور حاکم، اور اس کی صحیح کی ہے ذہبی نے اور ابن مردویہ اور بنیہنی نے بعث اور نشور میں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقیت لیلۃ اسری بی! ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ! الخ۔ ایسے ہی اجماع منعقد ہو گیا ہے۔ اور نقل کیا ابی نے شرح مسلم میں امام مالک سے جو اجماع کے موافق ہے اور جوابن حزم کی طرف منسوب ہے وہ بھی غلط ہے، ابن حزم اندرسی فرماتے ہیں: فبانہ لا یختلف اثنان فی تکفیره لصحۃ قیام الحجۃ بکل هذا علیٰ کل أحد۔ اس کو کافر کہنے میں دو کافر کی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان سب امور کا اثبات سب پر ہو چکا ہے۔

(۲) تو اتر کی ایک قسم تو اتر معنوی بھی ہے۔ تو اتر کی کسی ایک قسم کا منکر کافر ہے۔

مرزا غلام احمد نے تو اتر کی تمام اقسام کا انکار کیا ہے اس پر مرزا نیوں کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ تو اتر تو مولویوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے پھر اس کا منکر کیسے کافر ہو گیا۔ حضرت نے جواباً فرمایا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ہم تک اسی حالت حفاظت میں چلا آیا، اس حالت حفاظت کا نام تمہارے ہاں کیا ہے؟

پہلے تو مرزا نیوی بہت چکرا یا پھر کہنے لگا ہم اس کو تو اتر کہتے ہیں، فرمایا یہی تو میں کہہ رہا تھا (مرزا غلام احمد نے تو کفار کے تو اتر کو بھی تسلیم کیا ہے)

(۳) تو اتر کی ایک قسم ہے تو اتر تعامل تو اتر توارث جیسے مساوک اور کلی اور استنشاق کا تو اتر۔

(۴) ایک قسم تو اتر کی ہے تو اتر قدر مشترک جیسا کہ مجرمات کا تو اتر اگر چہ ایک ایک مجرمہ خبر واحد ہی سے ثابت ہو، مگر ان کا مجموعہ قدر مشترک متواتر ہو گیا ہے یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرمات کا صدور ہوا، یہ متواتر ہے۔ بعض لوگ تو اتر کو گمان کرتے ہیں کہ وہ قلیل ہے حالانکہ ہماری شریعت میں انسان اس کا حصر نہیں کر سکتا، پس جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی مساوک کرنا سنت ہے اعتقاد اس کی سنت کا فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا ترک کرنا عتاب ہے یا عقاب۔

(۵) تو اتر کی ایک قسم تو اتر معنوی بھی ہے۔ تو اتر کی کسی ایک قسم کا منکر کافر ہے۔

مرزا غلام احمد نے تو اتر کی تمام اقسام کا انکار کیا ہے اس پر مرزا نیوں کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ تو اتر تو مولویوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے پھر اس کا منکر کیسے کافر ہو گیا۔ حضرت نے جواباً فرمایا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ہم تک اسی حالت حفاظت میں چلا آیا، اس حالت حفاظت کا نام تمہارے ہاں کیا ہے؟

پہلے تو مرزا نیوی بہت چکرا یا پھر کہنے لگا ہم اس کو تو اتر کہتے ہیں، فرمایا یہی تو میں کہہ رہا تھا (مرزا غلام احمد نے تو کفار کے تو اتر کو بھی تسلیم کیا ہے)

پھر جو چیزیں تو اتر سے ثابت ہوں جیسے ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام چنانچہ پہلے گزر اہم انکار کرنے والے شخص کو بالاجماع کافر کہیں گے۔ اربعین میں غلام احمد نے تمام انبیاء علیہم السلام کے ناموں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے حتیٰ کہ یوں کہا ہے کہ میں محمد بھی ہوں، پس ان کے کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ سے غلام احمد کی مراد اپنی ذات ہے، مرزا صاحب نے بہت سے اسماء کا مسمی بدلتا ہے اور بہت سے مسکی کے مصادیق کے بدلتے غرض اسلامی لشیق بر بدلتا ہے۔

امت کا اجماع ہے کہ اس آدمی کی تکفیر کی جائے گی جو آدمی اس حکم کا وجود دین میں بالضرور معلوم ہے انکار کرے، اور اس کی روٹ کا حکم کیا جائے پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین قیم تام لائے ہیں کسی کو کوئی حق نہیں کہ آپ پر استدرآک کرے، اور آپ کے دین کو آپ کے بعد کامل کرے۔ پس اسلام اور ایمان نبی نام نہیں کہ اس کے ساتھ چھٹا رہے بلکہ تصدیق اور عمل کا نام ہے۔

(ایثار الحق علی الخلق للحق الشیر حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر الیمنی ص: ۳۱۵)

یہ جان لو کہ اصل میں کفر جان بوجہ کر تکذیب کرنا ہے کسی چیز کی اللہ کی کتابوں سے یا کسی کی اللہ کے رسولوں سے۔ حاصل یہ ہے کہ جو کوئی کلمہ کفر کہے ہازلا یا لاعباً اس کی تکفیر کی جائے گی۔ (رد المحتار عن البحر) جیسا کہ خانیہ

میں ہے اگر انبیاء کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ نبوت کے وقت اور اس سے قبل انبیاء کو معصوم نہیں جانتا اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ یہ دونصوص ہے۔

جامع الفصول میں میں ہے اگر کسی نے کلمہ شہادت علی وجہ العادت کہا تو اسے کچھ نفع نہ دے گا جب تک کہ جو کہا تھا اس سے نہ لوٹے کیونکہ کلمہ شہادت سے اس کا کفر رفع نہیں ہوتا۔

ابن حزم کی کتاب الفصل میں ہے جو چیز بالاجماع ثابت ہو کہ رسول اللہ نے یہ چیز کی تھی پھر کوئی اس کا انکار کرے بالاتفاق اسے کافر کہا جائے گا اور جو آدمی استہزا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا کسی فرشتے سے یا اس کے انبیاء میں سے کسی نبی سے یا قرآن پاک کی کسی آیت سے پس وہ کافر ہے۔

قاضی عیاض کی شفا کی شرح صفحہ ۳۹۳ جلد ۲ میں ملا علی قاری نے فرمایا ہے: أجمع عوام أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، قال محمد بن سحنون. أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المستقص له كافر، ومن شك في كفره كفر.

اگر کسی شخص نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ بشر ہیں یا فرشتہ، یا جنات میں سے ہیں یا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عربی ہیں یا عجمی تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن پاک کو اس نے جھٹالا یا۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الصارم المسول ص: ۵۱۹ پر لکھا ہے:

کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ یعنیس فرمایا کہ تم: ﴿إِنَّمَا كَنَا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ﴾ کہنے میں جھوٹے ہو بلکہ ان کے خوض اور لعب پر ان کی تکفیر کی وہ وہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔

تاریخ ابن عساکر میں ہے تمیم داری کے ترجمے میں کہ قبر میں سوال ہو گا خاتم الانبیاء کے متعلق۔

قرآن پاک نے ان کا نام رکھا محدثین، اور حدیث پاک میں اس کو باطیل سے پکارا اور علماء نے ان کو زنداق کہا۔

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْهَدوْنَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں: و كذلك الزنادقة الظالمة يلحدون وقد كانوا يظهرون الإسلام.

ابن عباس نے فرمایا: يضعون الكلام في غير موضعه.

مرزا غلام احمد نے انبیاء کی توہین اس قدر کی ہے کہ جس کو سن کر جگر شق ہوتا ہے۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس سے جو کسی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مثلاً مرزا غلام احمد قادری نے کئی جگہ کسی اور کا نام لکھ دیا ہے۔ میرا ایک قصیدہ ہے اس میں شعر ہے:

تفکه في عرض النبيين كافر  
عقل زنيم كان حق مهان

يَلْذَلْهُ بَسْطَ الْمَطَاعِنَ فِيهِمْ  
وَيَجْعَلْ نَقْلَاهُنَّ لِسَانَ فَلَانَ  
فَشَانِيْ شَانِ الْأَنْبِيَاءِ مُكْفَرٌ  
وَمِنْ شَكْ قَلْ هَذَا الْأُولِيَّ ثَانٍ

جیسا کہ بہار دانش میں حکایت ہے وہ حکایت بازاری ہے جب اس کو معلوم ہوا جب پتہ چلا وہ تینیں بیٹھاں رہا ہے تو اس سارے قسم کو خواب بنادیا۔

وَهَذَا كَمْنَ وَافِي عَدُوا يَسْبِهِ  
يَجْمَعُ اشَدَ السُّبْ منْ شَنَانَ  
فَصَيْرَهُ رَؤْيَا وَقَالَ بَآخِرِ  
إِذَا نَفَّثْتَ عَيْنِيْ مِنْ الْخَفْقَانَ

حضرت شاہ صاحب کا بیان قادریانیوں کے خلاف ہو رہا تھا تو آپ نے دوران تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ مرزა صاحب نے انبیاء علیہم السلام کی توہین کی ہے جو صراحت کفر ہے۔ واللیاذ بالله

اس پر قادریانیوں کے نمائندے نے کہا کہ آپ کے شیخ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے مرشد کی وفات پر کہا تھا کہ: مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

اس شعر میں مولانا محمود الحسن صاحب نے صریح توہین حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی کی ہے، پھر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے۔ یہ سن کر مولانا مرتضیٰ حسن نے فرمایا کہ یہ حضرت کا شعر نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ شعر تو حضرت مولانا کا ہے نجح صاحب لکھو میں جواب دیتا ہوں، حضرت مولانا اس شعر میں اپنے شیخ کے لئے داد مانگ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں اور میرے شیخ کے کارنا مے کو ملاحظہ فرمائیں اور داد دیں جیسے چھوٹے بڑوں سے داد مانگا کرتے ہیں۔ چونکہ آپ تشریف لانے والے ہیں، اسی واسطے آپ ہی سے داد بھی لینا ہے۔

ضروریات دین میں فقط استنباط ہے، فتح الباری میں ہے کہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا: أَيْمَأْ رَجُلٌ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ وَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عَنْقَهِ۔

روافض کے اکفار میں اختلاف ہے علامہ ابن عابدین شامی عدم تکفیر کی طرف ہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اکفار کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی یہی صحیح ہے۔ اصل میں جواہراء حضرت عبدالعزیز کو پیش آیا وہ علامہ شامی کو پیش نہیں آیا، مسئلہ کا اختلاف نہیں ابتلاء کا ہے۔ ویسے ہمارے نزدیک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علامہ شامی سے فقیہہ ہیں اور حضرت گنگوہی کو بھی ہم نے شامی سے فقیہہ نفس پایا۔

ایک دفعہ فرمایا یہ جو حدیث میں آیا ہے: من قام ليلة القدر

ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ (بخاری) اس کی شرح کے وقت مند احمد کی یہ روایت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے: من هم بحسنہ کتب له عشر حسنات إذا اشعر به قلبہ و حرص به۔ یہ اشعار قلب اور حرص ثواب ہی میرے نزدیک احتساب ہے جو نفس نیت پر ایک امر زائد ہے، نیت پر بھی ثواب ملتا ہے اور احتساب پر ثواب مضاعف ہو جاتا ہے گویا احتساب نیت کا استحضار ہے، فرمایا: او کسبت فی إيمانها خيراً۔ میں او بمعنی واو ہے، چنانچہ علامہ قسطلانی نے ارشاد اساری میں بھی لکھا ہے اور ابو داؤد کی روایت میں تو وہی آیا ہے۔

معتزہ نے تقدیر عبارت اس طرح نکالی ہے: لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آمنت ولم تكن في إيمانها خيراً۔ تاکہ مقابلہ صحیح ہو سکے، اس کا جواب کلیات میں ابی البقاء نے بھی دیا ہے، ابن حاجب نے بھی جواب دیا ہے اور حاشیہ کشاف میں علامہ طیبی اور ناصر الدین نے ذکر کیا ہے اور ابن ہشام نے مخفی میں بھی ذکر کیا ہے۔ میرے نزدیک یہاں ”او“ دو چیزوں میں منافات کے لئے نہیں ہے بلکہ مقصد ایمان اور کسب خیر دونوں کی نفی ہے۔

فرمایا حضرت حکیم بن حزام سے مسلم شریف میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات میں نے کی ہیں ان سے کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:

أسلمت على ما أسلفت من خير. ثم أپنے سابق اعمال خیر کے ساتھ تو مسلمان ہوئے ہو یعنی اسلام کی برکت سے تمہارے وہ اعمال خیر بھی قائم رہے اور اس وقت کی طاعات بھی نیکیاں بن گئیں۔

فرمایا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کفار کی طاعات و قربات ضرور نفع پہنچاتی ہیں کیونکہ ان میں نیت اور معرفت خداوندی ضروری نہیں۔ طاعات و قربات سے مراد صدر جمی، تجلی، بردباری، غلام آزاد کرنا، صدقہ، رحم و کرم، جواں مردی، بخش دینا، عدل و انصاف ہیں۔


حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کفار کے اعمال خیر بغیر اسلام کے نجات اخروی کا سبب نہیں بن سکتے۔ نہ وہاں کے ثواب و نعمت کا مستحق بنائیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے تخفیف عذاب کا سبب بن سکیں کے، اسی لئے علماء نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ عادل کافر کے عذاب میں بہ نسبت کافر ظالم کے تخفیف ہوگی۔ چنانچہ ابوطالب نے جو خدمات انجام دی تھیں ان کا فائدہ صراحتاً احادیث میں مذکور ہے۔

فرمایا یہ جو حدیث ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعلمهها تكتب له بمثلها. (بخاری)

میرے نزدیک احسان اسلام یہ ہے کہ دل سے اسلام لائے اور

زمانہ کفر کے تمام برے اعمال سے توبہ کرے، اور اسلام کے بعد ان سے بچتے کا عزم مصمم کرے۔ ایسے شخص کے تمام گناہ بخشنے جائیں گے۔

اور اس اساعت اسلام یہ ہے کہ اسلام لائے مگر زمانہ کفر کے تمام معاصی سے توبہ نہ کرے اور ان کا رتکاب برابر کرتا رہے، ایسا شخص اگرچہ اسلام میں داخل ہو گیا اس سے تمام اگلے پچھلے معاصی کا مواخذہ ہوگا، پس جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اسلام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس سے مراد وہی صورت ہے کہ گناہوں سے توبہ بھی شامل ہو (من حسن إسلام المرء تركه ملا يعنيہ)۔



ایک دفعہ غالباً ۱۳۲۸ھ ہیروں کا موسم تھا، اور احقر دیوبند حاضر ہوا حضرت شاہ صاحب بھی ڈا بھیل سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت صحن میں چار پائی پر تشریف فرماتھے، مولانا مشیت اللہ صاحب اور بہت سے مہماں بیٹھے تھے۔ کمال مہربانی فرمائی، ہمیں دیکھتے ہی چار پائی سے اٹھ کر نگے ہی پاؤں ہماری طرف تشریف لائے اور مصافی فرمایا، پھر مولانا مشیت اللہ صاحب بجنوری کے پاس تشریف فرمائے اور ان کو ہیر کا چھلکا اتار کر عنایت فرمارہے تھے، ایک طبق ہماری طرف بھی رکھ دیا اور ایک طالب علم کو فرمایا کہ ان کو چھلیل کر کھلاو، اور دوسرے طالب علم کو جیب مبارک سے ایک روپیہ نکال کر دیا اور فرمایا کہ بکری کا عمدہ گوشت بازار سے لا ڈپھر گھر کے اندر

تشریف لے گئے۔

مولوی محفوظ علی صاحب فرماتے تھے کہ گھر میں حضرت فرمائے تھے کہ بہت محزز مہمان آئے ہیں کھانا عمده پکا یجو، پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دوٹو کرے باقر خانیوں کے لے آئے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اگر کوئی شے لانا ہی ہو تو یسیری چیز لے آیا کرو، میرے ہاں محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت تھوڑی چیز لانا چاہیے۔

پھر فصل الخطاب کے متعلق میں نے تذکرہ شروع کر دیا کہ ایک صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے بڑی ہی تعلیٰ دکھائی ہے۔ فرمایا جب عناد پر کوئی اتر آئے تو اس کا کیا علاج ہے۔ عصر کے وقت مولانا مشیت اللہ چلے گئے ہم سب نماز کے لئے قریب والی مسجد میں چلے گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے خود امامت کرائی اسی طرح سب نمازیوں میں خود ہی امام بنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی اقتداء میں کئی نمازیں نصیب کر دیں۔

دوسرے دن بعد نماز فجر ہی ہمیں بلایا، اور بڑی شفقت فرمائی، میں نے بعض عبارت فصل الخطاب کا مطلب پوچھا نہایت خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے جواب عنایت فرماتے رہے، اس پر بڑے خوش ہوئے کہ اس کو کتاب پر نظر ہے۔ پھر فرمایا آب ذرالیث جائیے یہ کمبل ہیں ان کو نیچے بچھا لیجئے، خود اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائے ہم نے متبرک سمجھ کر نکلیے کے نیچے رکھ لئے پھر دو پھر کو کھانا پر تکلف بھیجا، مولانا محفوظ علی اور

مولانا محمد اور لیں سیکر وڈوی اور کئی ایک مہمانوں نے مل کر کھانا کھایا۔

پھر بعد ظہر میں نے عرض کیا کہ ساتھی کو بیعت فرمائیں نہایت شفقت سے قبول فرمایا، اور دروازہ تسبیح چشتیہ کا ذکر تلقین فرمایا پھر احتقر نے دو تعویذوں کے لئے عرض کیا کہ نظر کا تعویذ ایک میرے بچے کے لئے اور ان کے بچے کے لئے درکار ہے۔ فرمایا میری تو دو دوست تعویذ کے قابل نہیں رہی۔ خشک سیاہی پانی ڈالنے سے پچھلی ہو جائے گی اور پرانی بودار اس سے تعویذ نہیں لکھنا چاہیے، عرض کیا کہ تعویذ تو حضرت سے لکھوانا ہے پھر دو دوست میں سیاہی نئی ڈلوائی اور تعویذات لکھ کر ہمارے حوالے کئے فرماتے تھے خود ہی لکھ لینا۔ اعوذ بالکلمات اللہ التامات من کل شیطان و هامہ و کل عین لامة، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس پر یہ الفاظ بھی زیادہ کرے: حصنتک بحصن الف الف۔ احتقر نے عرض کیا کہ حضرت ہی تحریر فرمادیں پھر بڑی عنایت ہوئی۔

جب شام کی گاڑی سے ہم واپس ہونے لگے تو فرمانے لگے اگر کوئی اور گنجائش ہوتا اور سخہر جاؤ، احتقر نے عرض کیا کل کو رخصت لے لیں گے، پھر اگلے دن صبح کو مجلس ہوئی، جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ آپ کی مہمانی کا تقدیر نہیں ہوسکا۔ کچھ خیال نہ کرنا میں بھی علیل ہوں مجھے بہت رقت ہوئی کہ اتنی شفقت پر بھی یہ عذر۔

**حضرت مولانا خیر محمد صاحب مدظلہ  
مہتمم مدرسہ عربیہ خیر المدارس کے تاثرات  
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ**

آپ نے فرمایا کہ میں بحیر علم و عمل، قدوۃ الْمُحَمَّدِ شِین زبدۃ المدققین حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ کے متعلق کچھ یادداشت قلم بند کروں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کی وجہ سے میرا حافظہ باقی نہیں رہا۔ صرف ایک دو باتیں بالمعنی عرض کرتا ہوں۔

جب کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دارالعلوم دیوبند میں تھے اس وقت میں تھانہ بھون گیا ہوا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر دیوبند آیا اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس وقت اوپروا لے کرے میں تھے۔ جو دارالشیر کے قریب ہے اتفاق سے اکیلے تھے میں ملا اور مودبانہ ملاقات کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں، بعد میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنی کتاب فصل الخطاب دی اور فرمایا کہ اس کو دیکھنا، پھر فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ کتاب طلباء کو مفت دی مگر بعض طلباء نے بازار میں چار آنہ میں بیج دی، مفت کی یہ قدر کی۔ پھر فرمایا کہ میرے دل میں مضامین اپلتے اور جوش مارتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو بذریعہ تحریر ظاہر کروں مگر افسوس کہ میں تحریر میں کوتاہ قلم ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرا آدمی قابل تیز قلم ہر وقت میرے پاس رہے جب وہ مضامین جوش ماریں تو میں لکھوادیا کروں، افسوس کہ ایسا آدمی نہیں

ملتا، جو ملتا ہے وہ قابل نہیں ہوتا، اور جو قابل ہوتا ہے فراغت نہیں نکالتا۔

جب حضرت شاہ صاحب ڈا بھیل چلے گئے اس کے بعد ایک وقت دیوبند آئے ہوئے تھے۔ غالباً رمضان المبارک میں یا عیدالاضحیٰ کے بعد بندہ مسجد چند رفقاء تھانہ بھون گیا ہوا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب دیوبند آئے، غالباً مولوی محمد رمضان صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب رائے پوری وغيرہ بھی ساتھ تھے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی زیارت کے لئے گھر پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو مرض کی وجہ سے کچھ ضعف ہو رہا تھا مگر شفقت بزرگانہ سے ساتھ بیٹھے اور افادیت سے متعین کیا۔

میں نے ایک عبارت مخفی ابن قدامہ کی پوچھی فرمایا وہ ابن قدامہ کی مخفی جو مطبوعہ ہے وہ غلط ہے۔ صحیح نسخہ مکہ مکرمہ کے کتب خانہ میں ہے میں جب عرب گیا تھا تو مکہ مکرمہ میں اس کا مطالعہ کیا تھا اس مسئلہ کے متعلق عبارت نقل کر لی تھی، چنانچہ با وجود ضعف کے اٹھے اور اندر سے دو تین ورق لائے اور عبارت پڑھی میں نے وہ عبارت نقل کی (افسوس کہ وہ عبارت ۱۹۷۲ء کے انقلاب میں جانشہر کے کتب خانہ میں رہ گئی)


میں اس وقت اپنارسالہ ”خیر الكلام فی ترك الفتاوى خلف الامام“ لکھ رہا تھا چنانچہ اس کے اٹھائیں صفحے تیار ہوئے تھے، میں نے پہلے تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس اسرار ہم کو سنائے حضرت والا نے میری حوصلہ افزائی کے لئے دس روپے بطور انعام دیئے۔ یعنی اس رسالہ کے دو چار ورق سنائے حضرت

شہزاد صاحب قدس سرہ نے بھی پسند فرمائے تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے غیر مقلد کار سالہ "الکتاب المستطاب" دیکھایا تھیں؟ فرمایا کہ میں جہلاء حقائقہ کی کتابیں نہیں دیکھا کرتا، میں نے عرض کیا کہ میں اس واسطے پوچھتا ہوں کہ میں آج کل اس کا جواب لکھ رہا ہوں، اور اس میں بعض باتیں قابل استفسار ہوتی ہیں۔

فرمایا جو بات قابل استفسار ہوا کرے تو اس کو آپ اپنی طرف نسبت کیا کریں، میں جواب دوں گا، اگر کسی شخص کی طرف نسبت ہوئی تو میں جواب نہیں دوں گا۔

پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے سند حدیث دیجئے، اور اطراف کتب حدیث سن لیجئے، فرمایا کہ میں آپ کو بلا سے سند دیتا ہوں، اور اجازت دیتا ہوں میرا آپ پر اعتماد ہے اگر سند مطبوعہ میرے پاس ہوتی تو آپ کو اس وقت دے دیتا جب میں ڈا بھیل پہنچوں تو مجھے یاد دلانا میں مطبوعہ سند بھیج دوں گا۔

بندہ خیر محمد مہتمم مدرسہ خیر المدارس ملتان  
(۲۸ رب جمادی الآخری ۱۳۸۳ھ)



۱۳۳۲ھ میں شیخ الاسلام قلپائی دیوبند تشریف لائے ان کی آمد پر جلسہ ہوا حضرت شیخ الہند نے بھی شرکت فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب نے طلباء اور اساتذہ کے مجمع میں جو تقریر فرمائی وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ علیہ نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی زبان سنئے، آپ القاسم ذی الحجہ ۱۳۳۱ھ اور محرم ۱۳۳۲ھ میں فرماتے ہیں:

اس کے بعد جناب مولانا سید محمد انور شاہ صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے نہایت فصح یلغ عربی زبان میں بر جستہ تقریر فرمائی مولانا موصوف کے فضل و کمال علمی اور فصاحت و بلاغت سے اکثر حضرات واقف ہیں، مولانا کی تقریر یا ایک جانب اگر باعتبار زبان دانی اور فصاحت روانی کے بے مثل تھی تو دوسرا جانب ایسے مضامین اور حقائق اصول دین و نکات علم کلام و حدیث پر حاوی تھی جو کم کسی نے سنی ہوگی، حضرت شیخ الاسلام موصوف بھی آپ کی تقریر و مضامین پر محوجیت تھے، نہایت غور کے ساتھ ہمہ تن گوش بنے ہوئے متوجہ تھے اور انتہان و تسلیم کے ساتھ گردن ہلاتے تھے، مولانا نے جو مضامین بیان فرمائے، وہ حقیقت میں ایسے تھے کہ دوسرا شخص گوکتنا ہی وسیع النظر اور قادر علی الکلام ہو متعدد مجالس میں بھی ادا نہ کر سکتا تھا، مگر آپ کا دوسرا کمال یہ تھا کہ ان ہی مضامین و قیقد کو نہایت جامع اور مختصر الفاظ میں بہت تھوڑے سے وقت کے اندر اس طرح بیان کر دیا کہ نہ فہم مضامین میں خلل واقع ہوا نہ کوئی ضروری بات و فروع گذاشت ہوئی نہ بے ضرورت زائد از

حاجت ایک جملہ زبان سے نکلا۔ اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ اگر ہفتون سوچ کر اور عبارت کو مہذب منجح بنایا کر کوئی شخص لکھتا اور یاد کر کے ساتھ تواتی سلامت و روانی کے ساتھ نہ پڑھتا اور ایسی واضح و بر جستہ تقریر نہ کر سکتا۔

ذلک فضل اللہ یوتیہ من یثاء۔

(شیخ الاسلام فلپائن نے جوابی تقریر میں یہ بھی فرمایا) اور ابھی مجھ کو استاد جلیل (مولانا سید محمد انور شاہ صاحب) نے اس مدرسہ کے مؤسس اور بانی کے اصول دربارہ اشاعت علوم تائید دین سمجھائے ہیں تو مجھ کو معلوم ہو گیا کہ اس جگہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہی طریقہ میرے نزدیک اہل سنت والجماعت کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قرع ہیں اور طریقہ سنت کی تائید اور مبتدعین کا رد بھی یعنی سنت اور فرائض علماء میں داخل ہے۔

اور آخر میں قسم کھا کر فرمایا آج استاد جلیل (مولانا محمد انور شاہ صاحب) کے ذریعے سے حقائق اور معارف علوم دین کے ایسے بے بہاموتی میرے کان میں پڑے جو آج تک کبھی نہ نے تھے اور یہ مجلس ہمیشہ یاد رہے گی۔

☆..... ایک دفعہ لا ہو رآ سڑیلیا مسجد حوض کی چھت پر چار پائی پر تشریف فرماتے۔ احترنے دریافت کیا کہ کیا ماظرفیہ کا صلد فاء بھی آتا ہے؟ فوراً فرمایا کہ شرح الفیہ میں اشمونی نے لکھا ہے کہ جائز ہے۔ اور استدلال

میں آیت پیش کی: «فَلِمَا نَجَاهُمُ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ» (آل آیت) اور بھی بلاغہ کے ہاں یہ استعمال ہوا ہے، پھر احترنے تلاش کیا تو مختصر المعانی ص: ۲۳: ثم لما وفقت بعون الله و تائیده للا تمام إلخ فجاء بحمد الله كما يروى التواظر. نیز تفسیر ابن کثیر جلد: ۱، ص: ۹۳: مصری اور ملا عاصم نے اس پر بحث تفسیر کی اور اس کا جواز ثابت کیا ہے۔

احترنے عرض کیا کہ ایک غیر مقلد نے لکھا ہے کہ ذو کی اضافت مضر کی طرف جائز نہیں ہے۔ فوراً فرمایا کہ مسلم شریف کے خطبہ ہی میں ہے: مثل ابی هریرۃ ابن عمر و ذویہما۔ ص: ۲۳ مسلم میں آخری سطر، میں نے جسجو کی تو بہت سی کتابوں میں یہ مل گیا۔

مختصر المعانی ص: ۱۸: مطبوعہ مجتبائی دہلی: لسلم من الفصل بین الحال و ذیها بالاجنبی۔ جادلتم خاصمتهم عنهم عن طعمة و ذویہ. جلالین ص: ۸۲: مطبوعہ نور محمد کراچی۔

مقامات حریری ص: ۱۰۱ میں ہے: فجاءت بابن یسر ذویہ (وغيره من الكتب)

ایک صاحب نے اجتماع کا صلم مع آنا نا جائز لکھا ہے اور درہ الغواص کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ جو ہری نے اس کا رد کیا ہے اور صحاح جو ہری میں ہے: جامعہ علی کذا ای اجتماع معہ۔ مسلم شریف میں بھی پر ۵۲ فرماتے ہیں: ولم یذکر قدوم ابن المسعود و اجتماع ابن عمر معہ۔ اور ابن عقیل شرح الفیہ مصری ص: ۸۳ میں ہے: أن یقع ظرفًا لاما

فرمایا: فلا تفعلوا إلا بام القرآن، میں کلمہ استثناء کے بعد تعین فاتحہ کرنا شارح کو منظور ہے، یہ نہیں کہ تعمیم فاعل بیان کرنا مقصود ہے پس لا تفعلوا إلا أن تفعلوا بام القرآن میں ناظرین پر ملتبس ہو گیا کہ الا ان تفعلوا جو کلمہ ام القرآن سے قبل مقدر ہے اس کی ضمیر جمع مذکر جو واو ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، حالانکہ مقصود ام القرآن کی تعین ہے گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فاتحہ مقتدى سے بطور لزوم پڑھانا مقصود نہیں، اگر کوئی پڑھے تو اباحت مرجوہ موجود ہے۔

### فصل الخطاب ص: ۲۷ کی اصل عبارت یہ ہے:

ويحتمل أن يكون لفظ محمد بن إسحاق من أوله إلى آخره مسئلة وجوب الفاتحة في الصلاة قصداً مع الإباحة للمقتدى تبعاً، وليس التعليل لعموم الفاعل وهو الضمير في إلا أن تفعلوا المقدر بل لتعيين المفعول به إياها وهو قوله: إلا بام القرآن، وهما أمران. فالمطلوب ذات الفاتحة وجودها على شاكلة فرض الكفاية لا عمل كل واحد لزوماً، فإن فعل من شاء منهم فهو في حد الإباحة المرجوة، والتبنّس على الناظرين تعين المفعول به بتعظيم الفاعل لزوماً.

غرض حضرت شاہ صاحب کے تقریر فرمائے کے بعد بندہ کا توضیح صدر ہو گیا اور بیات سمجھ میں آگئی۔

اجتمع معه۔ شرح ملا جامی ص: ۵۶: لا يجتمع مع اللام والإضافة. تذكرة الحفاظ ص: ۱۸۳: رأيت يوماً اجتمع مع الدارقطني. تفسير ابن كثير ج: ۱، ص: ۳۲۹: اجتمع معه. وص: ۳۰۸: ان يجتمع مع الاولاد الى غير ذلك من العبارات.

☆..... فرمایا کہ ابن سینا نے روح کی تحقیق پر ایک قصیدہ لکھا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا، پھر روح ہی کی تحقیق پر حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے بھی ایک قصیدہ لکھا جو بیان بھی اور تحقیقی بھی ہے۔ فرمایا کہ شاہ صاحب جب روحانی آدمی تھے اس میں علم کو مضاف استعمال کیا ہے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ علم کو مضاف تو استعمال نہیں کیا جاتا، یہ محاورہ عرب کے خلاف ہے، پھر یہ معاملہ صاحب فتحہ الیمن تک پہنچا تو اس نے کہا علم کو مضاف وہی استعمال رکلتا ہے جو لغات عرب پر عبور تام رکھتا ہو، یہ کوئی بڑا ادیب ہے جس کا یہ کلام ہے تو اعتراض کرنے والوں کو تسلی ہوئی۔

☆..... احریق مارچ ۱۹۳۰ء مطابق ۱۳۲۹ھ دیوبند حاضر ہوا اس وقت حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں مولانا محمد اور لیں سیکروڈوی بھی حاضر تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ فصل الخطاب کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ مگر مولانا حل نہ کر سکے، پھر حضرت شاہ صاحب نے اذکار داورد سے فارغ ہو کر ہمیں اندر بلالیا، میں نے پھر وہی عبارت پیش کی۔

اولہ ایک صاحب نے اعتراض کیا وہ جلدی میں سمجھنے سے قاصر ہے کہ شاہ صاحب لفظ ان تفعلوا جو الا کے بعد مقدر ہے اس سے بحث کر رہے ہیں تقدیر عبارت یوں ہے: لا تفعلوا إلا أن تفعلوا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. چنانچہ حدیث مرفوع میں اسی طرح ارشاد ہے: قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولا نور شاہ صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ لا تفعلوا میں ضمیر مقدر ہے یا باز۔ دیکھنے غور نہ کرنے سے مطلب کیا سے کیا، بن گیا کسی نے خوب کہا ہے:

چو بشنوی خن اهل دل مگوکه خطما است  
خن شناس نہ دبرا خطما اینجا است

چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

وهو الضمير في لا تفعلوا البار. حضرت شاہ صاحب فرمارے ہیں: هو الضمير في إلا أن تفعلوا المقدر.  
اول توجہاً نے لفظ ہی بدلتا لان تفعلوا کی جگہ لا تفعلوا نہی کا صیغہ لکھا، پھر یہ بھی خیال نہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب نے مقدر ضمیر کو نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ان تفعلوا جو کہ مقدر ہے اس کی ضمیر جمع مذکرو و آؤ کی تعمیم مقصود نہیں، چنانچہ اس سے صریح عبارت فضل الخطاب ص: ۶۸ میں یہ ہے:

أى أن قوله: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ليس تعليلا

لعموم الفاعل في إلا أن تفعلوا، بل لتعيين أن المقصود إن كان فهو الفاتحة لا غيرها وهو المناسب، انتهى.

اب ناظرین غور فرمائتے ہیں کہ معرض کو عبارت سمجھنے کا سلیقہ نہیں۔  
نعود بالله من شرور أنفسنا. اسی طرح اور بھی کچھ اعتراضات کے جس کے تحقیقی جوابات ہم نے دوسری جگہ دیئے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کے درس میں بعض اوقات ظرافت کی باتیں بھی ہو جاتی تھیں۔

☆..... ایک دفعہ فرمایا کہ ایک مغل کبحور کے درخت پر چڑھ کر کبحور میں توڑنے لگا جب اترنے لگا تو طریقہ بھول گیا، ایک اور مغل بھی آگیا اس نے رسہ طویل نیچے سے اس کی طرف پھینکا کہ اس کو اپنے بدن کے ساتھ باندھ لے میں تھے نیچے کھینچ لوں گا، نیچے کھینچا تو بیچارہ گر کر مر گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، یہ تو نے کیا کیا بے چارے کی جان بھی گئی، جواب دیا کہ میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کنوئیں سے اسی طریقہ سے اوپر کھینچ لیا تھا اسی پر قیاس کر کے میں نے سمجھا۔

چڑھہ گز بہ بالا چڑھہ گز بزر

☆..... فرمایا حضرت علامہ ابن حجر یطبری درس حدیث دے رہے تھے کوئی رئیس آیا اور حضرت کی خدمت میں اشرافیوں کی تسلیل پیش کی اور رکھ کر

جانے لگا ابن جریر رحمہ اللہ نے اٹھا کر تھیلی کو پھینک دیا، تھیلی پھٹ کر دینار ادھرا دھر بکھر گئے اور نیس ان کے پیچے دوڑنے لگا اور جمع کرنے لگا حضرت ابن جریر فرمانے لگے جب تو نے یہ اشرفیاں مجھے دے دی تھیں تو اب تم کس لئے جمع کرتے ہو؟ اب تو تمہاری ملک رہی نہیں سچ ہے دنیا کی حرص بری چیز ہے۔

☆ ..... فرمایا ایک دفعہ میں اور مولانا اصغر حسین صاحب مدرسہ دیوبند کے لئے چندہ کی غرض سے سورت گئے، میزبان نے کچھ کھانا لا کر رکھا، ہم کھانے لگے میں نے خیال کیا کہ اور تو شاید آئے گا نہیں اسی میں گزارہ کر لیا، تھوڑی دیر میں اور کھانا بھی لے آئے، مولانا اصغر حسین صاحب فرمانے لگے کہ تو کیوں نہیں کھاتا؟ میں نے کہا مجھے تو یاس کلی ہو چکی تھی اب کھانا اور نہیں آئے گا، لہذا میں نے اسی میں گزارہ کر لیا اس ”یاس کلی“ پر بہت مسکراتے تھے۔

☆ ..... إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى،  
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو هجرته إلى الله ورسوله  
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهو هجرته  
إلى ما هاجر إليه. (بخاری وغيره)

☆ ..... فرمایا یہاں تین چیزیں ہیں (۱) عمل، (۲) نیت اور (۳) غایت۔  
پہلی کی طرف اشارہ فرمایا: فمن كانت هجرته، عمل کی طرف اشارہ

کر دیا۔ اور ثانی کی طرف اشارہ فرمادیا إلی اللہ ورسولہ، پس إلی اللہ یہ نیت ہے۔ تیسرا چیز کی طرف اشارہ فرمادیا: فهجرتہ إلی اللہ ورسولہ۔ پس وہ غایت ہے ایسا ہی جملہ ثانیہ میں ہے۔

☆ ..... فرمایا الفاظ مسجح ماش کا معرب ہے، اس کے معنی عبرانی زبان میں مبارک، اور لفظ عیسیٰ ایشوع سے لیا گیا ہے اس کے معنی مخلص، اور فارقیط کا جو لفظ انجیل میں آیا ہے اس کے معنی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں، جب مراد اس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول انبیاء کی تصدیق عملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی منتظر باقی نہیں ہے کیونکہ ان کے واپس تشریف لانے سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء کی تعداد چونکہ ختم ہو گئی اس لئے پہلے انبیاء میں سے لا یا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے اس لئے ان ہی کا انتخاب ہوا، جس نبی نے صراحةً بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی دی وہی آ کر تصدیق بھی فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوں گے۔

☆ ..... لا ہور میں خدام الدین کے جلے پر بہت سے علماء جمع تھے، حضرت مولانا مدفنی بھی تشریف فرماتھے مولانا سید محمد طلحہ صاحب بھی تھے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اساتذہ کی روایت ہے کہ جب سلطان

عالیگیر نے فتاویٰ مرتب کرایا تو علماء رات کے وقت بعد نماز تہجد جو مسائل روزانہ لکھے جاتے سنایا کرتے تھے۔ اور جب کسی مسئلہ میں علماء الجھے جاتے تو سلطان عالیگیر جو کہتے تھے وہی مسئلہ پاس ہو کر تحریر ہوتا تھا، یہ اس کے وفور علم اور تقویٰ کی دلیل ہے۔

## یوم عاشوراء کی تاریخ کی تحقیق

(القاسم جلد ۳، دیوبند ماہ شعبان المظہم ۱۳۳۰ھ)

عالیٰ جناب صوبیدار صاحب کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ جملہ فقهاء محدثین کے نزدیک یوم عاشوراء دسویں محرم ہے، لیکن روایات حدیث اور حساب دونوں اس کے خلاف ثابت ہے۔

احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مدینہ منورہ تشریف لائے یہود مدینیہ کو عاشوراء کاروزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجد روزہ کی دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا یہ دن بہت مبارک ہے اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روز روزہ رکھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو بہ نسبت تمہارے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ کا اتباع کریں، تب آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا، اور یہ مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامدینہ منورہ تشریف لانا ۸ ربیع الاول کو ہوا، اور ۸ ربیع الاول مطابق ہوتی ہے ۲۰

ستمبر ۲۶۲ء عیسوی کے اور ۲۰ ستمبر ۲۶۲ء مطابق ہوتی ہے وہم تشرین کے، ان دونوں مقدموں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء جس کے روزے کا مسلمانوں کو وجوہ بایا احساناً حکم دیا گیا ہے وہم تشرین ہوتی ہے۔ فقهاء کا صوم عاشوراء کے لئے دسویں محرم کو متعدد کر لیتے ظاہراً غلط معلوم ہوتا ہے کسی حساب سے ۲۰ ستمبر ۲۶۲ء دسویں محرم کے مطابق نہیں ہوتی۔

مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ و تابعین فقهاء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ عاشوراء دسویں محرم ہے، اس میں ایک کو بھی اختلاف نہیں ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بدیں تفصیل مردی ہے ”حکم بن الاعرج کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ عاشوراء کاروزہ کس روز رکھو؟ فرمایا کہ جب تم ہلال محرم کو دیکھو تو شمار کرتے رہو جب نویں تاریخ ہو روزہ رکھو، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزے رکھتے تھے؟ فرمایا: ہاں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء محرم کی دسویں تاریخ ہے، رہانویں تاریخ کاروزہ یہ اس بناء پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں محرم کے روزہ کو دسویں کے ساتھ ملانا چاہتے تھے، اس کے خلاف صرف ایک روایت کی بناء پر بظاہر اشکال واقع کیا گیا جو ابن عباس سے مردی ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرأی اليهود تصوم عاشوراء (الحدیث)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو

یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ لیکن درحقیقت یہ اشکال واقع نہیں ہوتا، کیونکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس روز مدینہ میں تشریف لائے اسی روز یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، بلکہ روایت کا یہ مطلب ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اول مرتبہ جب محرم آیات آپ نے دسویں تاریخ یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔

اور صاحب ”نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام“ کی یہ روایت کہ یوم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء تھا، کسی طرح جلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ روایت صحیح روایات کے خلاف ہے اس کے نقل و سیاق میں ضرور تخلیط واقع ہوئی ہے، اور اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ دن عاشوراء مسلمین کا دن تھا، بلکہ یہود کے بعض فرقوں نے یوم عاشوراء کو جو قمری مہینے کے حساب سے ہوتا تھا ششی مہینے میں لے کر اس دن اور تاریخ کو بدل دیا تھا، پس ممکن ہے کہ ان بعض یہود کے حساب سے عاشوراء کا دن ہونہ کہ مسلمانوں اور اکثر یہود کا۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد روایت سے یہ امر ثابت نہیں کہ آپ کے تشریف لانے کا دن عاشوراء کا دن تھا، اور سارے اشکال کی بنیاد سرفتنی ہی نبات پر تھی، پوری تحقیق اور تفصیل مولا نا کے کلام میں موجود ہے، بلاحظہ فرمائیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حمد بے حد مرحی قیوم را کہ تصرف ازمان واکوان در حیطہ قدرت

اوست، و تشریف چیزے بر چیزے بمحضہا ے ”کل یوم ہوئی شان“ آیت کبریا و عظمت او۔ درود نا محدود بر سید موجودات و سرور کائنات کہ سنت غراء وے جلت یہضاء است، و طاعت سعید وے عید سنہ شہباء، دین تینیں وے غره جبین سعداء و قراء عیون کملاء، و بر آن واصحاب وے و جملہ اتباع و احباب وے۔

اما بعد، ایں سطرے باقتضاء حال در حل بعض اشکال متعلق تاریخ یوم عاشوراء در سلک تحریر کشیدہ شد و مرام ازاں محض تحقیق مقام است لا غیر، و بخدا توفیق۔

باید دانست کہ یوم عاشوراء بمحضہا ے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتفاق امت مرحومہ یوم عاشوراء از محرم الحرام حسب روایت ہلال است۔

قال فی عمدۃ القاری: وهو مذهب جمهور العلماء  
من الصحابة والتابعین ومن بعدهم، اهـ.

وقال الزرقانی: وقال القاضی والنبوی: الذی تدل  
علیه الأحادیث کلها أنه العاشر وهو مقتضی اللفظ، اهـ.

و در جامع ترمذی: عن الحسن عن ابن عباس روایت کردہ  
قال: أمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصوم یوم عاشوراء  
اليوم العاشر، اهـ.

وقال فی عمدۃ القاری: ومنها ما رواه البزار من

حديث عائشة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر، ورجاله رجال الصحيح، اهـ.

وحدث صحيح مسلم عن الحكم ابن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أى يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد، ثم أصبح من اليوم التاسع صائماً، قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، اهـ.

پس جواب بر اسلوب حکیم است، یعنی در تعیین عاشوراً بچگونه خواست که عاشر محرم الحرام است، آرے قابل لحاظ ایں امر است که تاسع نیز در صوم عاشر ضم باید کر دو و قول وے، اهکذا یصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، اهـ.

هم اسلوب حکیم است که تمناً آنحضرت صلى الله عليه وسلم را که اگر تا عام قابل زندگانی تاسع را هم با عاشر در صوم ضم کنند نازل منزله فعل آنحضرت داشته چنانکه سیاق طحاوی بریں معنی دلالت کند.

قلت لابن عباس: أخبرني عن يوم عاشوراء، قال: عن أى باله تسأل؟ قلت: أسألك عن صيامه أى يوم أصوم؟ قال: إذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائماً، الحديث.

قال في عمدة القاري: فإن قلت: هذا الحديث

الصحيح يقتضى بظاهره أن عاشوراء هو التاسع، قلت: أراد ابن عباس من قوله: فإذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائماً، أى ضم التاسع مع العاشر بقوله: نعم، ما روى من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوم التاسع من قوله: لأصوم من التاسع، وقال القاضي: ولعل ذلك على طريق الجمع مع العاشر، لشلا يشتبه باليهود، كما ورد في رواية أخرى: فصوموا التاسع والعاشر. وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه، وقيل: معنى قول ابن عباس: نعم: أى نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمرو: هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر إلى أن مات، ولم ينزل يصومه حتى قدم المدينة، وذلك محفوظ من حديث ابن عباس، اهـ.

وقال في فتح الباري: ثم ما هم به من صوم التاسع يتحمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيقه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو أرجح، وبه يشعر بعض روایات مسلم: وأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً: صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود صوماً قبله أو يوماً بعده. ونحو آن نزد طحاوی هم است وابن عباس خودش برصوم دوم يوم عامل بوده.

قال في عمدة القاري: روى عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومين خوفاً أن يفوته، وكان يصومه في السفر.

پس باشد که ابن عباس در صوم تاسع مع عاشر رعایت عزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورعایت خوف فوت عاشر بحسب اختلاف رویت هلال هردو شموده باشد، چه در فوائد تراجم نیست، معلوم است که جواب بر اسلوب حکیم طریقہ مسلوکه باگاء است چنانکه قول اول تعالی شانه: «یسألونک عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج» رابری اسلوب فرود آورده، گفتہ اند سوال از علت استشکال قرواز دیاد و انتقاد بود، جواب بفوائد آن داده شد، واما استشکال بحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، «قال: قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة، فرأی اليهود تصوم لیوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح، هذا اليوم نجى الله بنی إسرائیل من عدوهم، فصامه موسی، قال: فانا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، اهـ» باراده یوم قدم که باتفاق در ربع الاول بوده نه در محرم، پس استشکال بیجا است زیراً که در ربع روایتی واقع نشد که صوم یهود در روز قدم بودتا باعشر محرم متناقض افتاد بل صوم یهود، نه در محرم از سن ثانیه بوده.

قال في فتح الباري: وقد كان قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلی هذا

لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فرض الأمر في صيامه إلى رأى المتطوع، اهـ.

وقال في عمدة القاري: فإن قبل ظاهر الخبر يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياماً عاشوراء، والحال أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، وأجيب بأن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك، وقيل: في الكلام حذف تقريره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياماً، اهـ.

واما آنچه صاحب «تاج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام» آورده که روز قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء بوده، وروایت نیز دریں باب نقل کرده، پس با وجود آنکه در نقل سیاق روایت تخلیط واقع شده مقتضی ایس امر نیست که یوم قدم عاشوراء مسلمین باشد، بلکه یوم قدم بحساب بعض یهود عاشوراء او شان بود که دهم تیرین می باشد، و مطابق با هشتم ربیع الاول افتاد. و این بعض یهود عاشوراء را بحساب شش می گرفته که بریں تقدیر در مشهور تقریر دار ماند نه آنکه یوم قدم عاشوراء مسلمین باساز یهود باشد که عاشوراء را بحساب هلال می گرفته، و اختلاف یهود را باعتبار عاشوراء خود از الفاظ حدیثی خیزد، چنانکه در لفظ صحیح مسلم است: «عن أبي موسی قال: كان أهل خير يصومون يوم عاشوراء يتخدونه عيداً،

يلبسون نسائهم حليهم لما رأتهن. فقال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموا أنتم“.

در صحیح بخاری از هجرت است: «إذاً أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، پس تقید باً! هل خبر وباً! ناس من اليهود دلالت کند بر اختلاف یهودان در بیان باب».

وقال في فتح الباري: ويحمل أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا التأويل مما يترجح به أولية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه السلام، لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله المسلمين له.

پس تقید کرده بقول وے اولئک اليهود تصریح نموده که ایں جماعت یهود یوم عاشوراء را گم گرده بودند، وہدایت کرده خدا مسلمین را بیصواب - بعد ازاں فرموده: ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولاً، وهو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكان يأتون فلانا اليهود يعني ليحسب لهم،

فلما مات أبو زيد بن ثابت فسألوه، وسنده حسن. قال شيخنا الهيثمي في زوائد المسانيد: لا أدرى ما معنى هذا، قلت: ظفرت في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني، فذكر ما حاصله أن جهله اليهود يعتمون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية، قلت: فمن ثم احتاجوا إلى من يصرف الحساب ليعتمد عليه في ذلك.


یعنی عاشوراء نزد بعض یهود پیش از اصلاح نبود ایں عاشوراء معروف فیما بین ایلیین آلن، زیرا که آن روزے بود که کعبه را آن روز جامه پوشیدند، و چوں آن بعض یهود بحساب شمس میگر تقدیر، لہذا عاشوراء در شهر قمری دار ہماندے تا آنکہ اسلام بوع حساب قمری ہدایت نمود، ہمیں بود مرضی خدا - و تقید ابی ریحان بیرونی بقول وے جهله اليهود دلالت کند برآں که اصل حساب بحسب کتاب سماوی نزد او شاہ ہم قمری بود، او را بوع شمسی تحویل کر دند، و در بعض زانچھا و تقاویم دیده شدہ که حساب عبری از عهد آدم علیہ السلام تا حال قمری است سوائے آں کسی کہ تحویل کر دند - وبعض مفسرین آیت کریمہ: إنما النسیء زيادة في الكفر. برہمیں تحویل فرود آوارو، زیرا کہ دریں تحویل توقات شرعیہ است کہ مناقض است با اوضاع شریعت -

عاشوراء وصومه قريش في جاهليته، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يصوم في الجahلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. <sup>بِسْجُونَةِ مَنَافَاتِ نَيْسَتْ</sup>

قال في فتح الباري: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال، ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك، ولا مخالفه بينه وبين حديث عائشة: أن أهل الجahلية كانوا يصومونه، كما تقدم، إذ لا مانع من التوارد للفريقيين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك.

وأتناهـ <sup>نقل</sup> تورات كـ <sup>تجات</sup> موسى عليه السلام ٢٣ / رمضان مطابق ١٢ / نيان يوده، نـ در روز عاشوراء كـ دـ هـم تـ شـ رـ يـنـ باـ شـ دـ، وـ آـ لـ رـ اـ صـومـ كـ بـورـ نـ يـزـ خـواـندـ، وـ نـهـ درـ عـاـشـرـ مـحـرمـ الـحـرامـ قـاـبـلـ اـعـتـادـ نـيـسـتـ، چـ اـزـ سـيـاقـ ظـاهـرـ استـ کـ اـخـاـقـ اـخـاـرـ استـ وـ حـيـنـدـ جـهـتـ نـيـسـتـ، وـ دـوـلـ اـثـاـتـ سـجـتـ وـ یـ قـطـعـ مـفـادـ زـاستـ.

في طلعة الشمس ما يغريك عن زحل



قال في الكشاف: وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر، ليتسع لهم الوقت، ولذلك قال عزو علا: <sup>(إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرًا)</sup>، فكان غير زيادة زادوها.

<sup>بِسْجُونَةِ مَنَافَاتِ نَيْسَتْ</sup> حديث: ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض، السنة إثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متتابعات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضـرـ الذـىـ بيـنـ جـمـادـىـ وـ شـعـبـانـ.

مانـاـكـهـ مـشـركـيـنـ نـيـزـ پـيشـ اـزـ اـسـلامـ ہـرـ دـ حـسابـ مـعـمـونـ دـاـشـتـنـدـ، پـسـ خـلاـصـ کـلامـ آـنـکـهـ نـيـ کـرـيمـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـ سـلـمـ درـ صـومـ يـوـمـ عـاـشـورـاءـ موـافـقـتـ آـلـ يـهـوـ نـمـودـهـ کـهـ درـ تـعـيـنـ وـ یـ بـرـ جـوـابـ بـوـدـنـهـ موـافـقـتـ آـنـکـهـ تـحـوـیـلـ کـرـدـهـ بـوـدـنـهـ، وـ دـوـرـیـسـ يـوـمـ عـلـاـوـهـ تـجـاتـ دـیـگـرـ خـصـوصـیـاتـ نـیـزـ هـسـتـنـدـ.

قال في فتح الباري: ولا حمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه، وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرًا.

وقال في عمدة القاري: وروى ابن أبي شيبة بسنده جيد عن أبي هريرة يرفعه: يوم عاشوراء تصومه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصوموه أربعين. ودر ميان حدیث ابن عباس <sup>کـ</sup> گـذـشتـ، وـ حـدـيـثـ أـمـ المـؤـمـنـيـنـ عـائـشـةـ قـالـتـ: کـانـ يـصـومـ

## عالم کی بقاء یاد الہی پر منحصر ہے

حضرت اقدس شاہ صاحب قدس سرہ کا وعظ سادہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے جملے، جو پوری طرح ذہن نشین ہو جائیں، ارشاد فرماتے تھے۔

لدھیانہ میں ایک دفعہ وعظ فرمایا، غالباً ۱۳۲۳ھ ہجری تھا:

تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی عالم قائم رہے گا، جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو کہ عالم کے کوچ کا وقت ہو گیا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله۔ قیامت قائم نہ ہو گی جب تک ایک شخص بمحی اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا۔ جب ایک بمحی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں، اسے گردیا جائے گا۔

معلوم ہوا کہ سارے عالم کی روح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مقصود اصل ذکر الہی ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام سب اس کے جیراء نہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر کے لئے موت نہیں، اور غافل کے لئے حیات نہیں، کیونکہ اصلی زندگی یاد الہی ہے، اعمال صالح دراصل زندگی کے کام ہیں، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. (ترجمہ) الأنبياء علیہم السلام زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی زندگی والے کام بمحی کرتے ہیں، ان کی قبور والی زندگی بمحی اعمال صالح سے معطل نہیں بلکہ وہ زندہ

ہیں اور زندوں والے کام بھی کرتے ہیں، اس حدیث کو امام تیہی نے صحیح فرمایا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس کی صحیح فرمائی ہے۔

از یکے گو وزہمہ یک سوئے باش

یک دل و یک قبلہ و یک روئے باش

سب سے یکسو ہو کر فقط اس کا ایک کا ہو جا، تیری ظاہرو باطنی توجہ اس ایک ہی کی طرف رہے۔

ہرگیا ہے کہ از زمیں روید

وحدہ لا شریک له گوید

حضرات! اللہ تعالیٰ سے علاقہ پیدا کرو، ظہیر فاریابی اپنے دیوان میں کہتے ہیں اور سارے دیوان میں یہی ایک شعر ہے جو خلاصہ سارے دیوان کا ہے:

من نے گویم ز جاں کن یا پہ بند سود باش

اے زفرست بے خبر در ہر چہ باشی زود باش

میں یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے نقصان کا کام کر یا نفع کی فکر میں ہو، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، بلکہ تیزی سے لکھا جا رہا ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں:

رنگا لے چیز یا گندا لے ری سیس

تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن

نہ جانے بلے پیاس گھڑی

کھڑی منہ سمجھے گی اری دن کے دن  
معلوم نہیں کہ ادھر سے بلا واکس وقت آ جائے، کف افسوس ملتی رہ  
جائے گی۔ (یہ اشعار پڑھتے وقت اتنی رفت ہوتی تھی کہ ریش مبارک تر  
ہو جاتی تھی، اور سامعین وقف گریے و بکا ہو جاتے تھے)

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بندہ ایک دفعہ اخلاص سے سبحان  
اللہ کہتا ہے تو آدھا پله آخرت کی ترازو کی بھر جاتا ہے، آخرت کی ترازو اتنی  
بڑی ہے کہ جتنا کہ زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ نظر آتا ہے، اور جب بندہ  
الحمد للہ کہتا ہے صدقًا من قلبه تو نصف پلہ باقی بھی بھر جاتا ہے، سبحان  
اللہ نصف المیزان، والحمد للہ تملأ المیزان، اور جب یہ کہتا ہے  
و لا إله إلا الله والله أكبر تو اس کی سماں زمین و آسمان میں نہیں ہوتی، چیر  
کر عرش کو نکل جاتا ہے، اور ترمذی شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ولا حoul  
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جنت کی خزانوں میں سے ایک مخفی خزانہ  
ہے، اس کا ثواب آخرت میں کھلے گا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح کو اس حدیث پر ختم فرمایا ہے: كلمantan  
خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى  
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

دو کلے جوز بان پر خفیف ہیں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں آخرت کی  
ترازو میں بڑے وزنی ہیں، رحمٰن کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان  
الله العظیم۔

خیال فرما کیں جو شخص ان کا ورد ہر وقت رکھتا ہے کس قدر رثواب اس  
کو ملے گا پہلے جو حدیث: لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ لَا يَقَالُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ ذَكَرٌ كَيْفَيْتُ  
ہے اس سے ثابت ہوا کہ مجرد اللہ اللہ بھی ذکر ہے۔  
یوں بھی روایت ہے: سبحان الله والحمد لله تملأ المیزان  
یعنی سبحان اللہ والحمد للہ دونوں مل کر ترازو کا پلٹا بھر دیتے ہیں۔

☆☆☆

## ختم نبوت پر ایک نادر تحقیق

غالباً ۱۹۵۹ء ماہ نومبر میں لاہور میں حاجی متین احمد صاحب کی کوئی پر  
حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ مولانا عطاء  
اللہ شاہ بخاری اور مولانا علی میاں صاحب ندوی لکھنؤی بھی اس مجلس میں  
شریف فرماتے، حضرت اقدس نے احقر سے فرمایا کہ ختم نبوت کے متعلق اگر  
کوئی تقریر حضرت شاہ صاحب کی یاد ہو تو سناؤ، میں نے عرض کیا تقریریں تو  
بہت سی ہیں، ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ  
اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ اس پر بھی ایک  
تقریر طویل آپ نے کی تھی، اب میں ایک اور تقریر سناتا ہوں۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّينَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتابٍ

و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومن به  
ولتنصرنہ قال أقررتم وأخذتم على ذلکم !صری، قالوا  
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین ﴿

نبوت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس کو  
حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دیا، اور حضرت نوح آدم ثانی ہیں  
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں محصر کر دیا۔ و جعلنا فی ذریته  
النبوة والكتاب، پھر اس کی دو شاخیں کر دیں، ایک بنی اسرائیل، چنانچہ  
ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پائے۔

دوسری بنی اسماعیل ان میں خاتم النبین علی الاطلاق حضرت محمد مصطفیٰ  
صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، اور سلسلہ نبوت آپ پر اختتام فرمادیا، اور بنی  
آدم کی سیادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرد کروی۔

أَنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ سِيدُ الْأَنْبَاءِ لَا فَخْرٌ بِيْدِي لَوَاءُ  
الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ، وَقَدْ أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ أَى مِنْهُمْ بِنَصْرَتِهِ  
إِنَّ أَدْرَكَ وَازْمَانَهُ، وَقَدْ أَدْرَكَوْهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  
وَيَدِرْ كُونَهُ يَوْمَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ.

اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور سب نبی میرے جھنڈے تلے۔  
ہوں گے اور سب نے آپ کا مسجدِ اقصیٰ میں زمانہ پالیا، اور آئندہ بھی پالیں  
گے اور اگر سب کے سب ایک زمانہ میں ہوتے تو آپ کی مثال ایسی ہوتی،  
جیسا کہ امام اکبر ہوتا ہے، لیکن چونکہ آگے پیچھے ظاہر ہوئے اور نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کمال شے کے ربے میں ظاہر ہوئے اور یہ تاخزمانہ کے اعتبار  
سے ظاہر ہوا۔

حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ بداؤ بی الخلق و کنت  
آخرهم فیبعث، میرے ذریعے خلق ظاہر ہوئی اور ابتداء مجھ سے ظاہر  
ہوئی اور تمام انبیاء علیہم السلام سے بعد میں مجھے مبعوث کیا گیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: کنت أول النبیین فی  
الخلق و آخرهم فیبعث (کما فی الروح المعانی ج: ۷) میں  
خلق میں سب سے اول ہوں اور بعث میں سب سے آخر، یہ حدیثیں درمنثور  
کثر العمال میں ہیں۔

حضرت قیادہ سے مرفوع اثابت ہے اور روح المعانی میں حضرت قیادہ  
سے دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے اخذ میثاق کیا  
کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور یہ بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ میرے  
بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی نبوت کسی کو تفویض نہیں کی جائے گی: ان لا نبی  
بعدی۔ کو تفسیر درمنثور مسند احمد، ابن جریر اور حاکم اور تیہنی نے دلائل النبوة  
میں نقل کیا اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے تلخیص متدرک  
میں اس روایت کی صحیح کی ہے:

أَنَا عِنْدَ اللَّهِ فِي أَمِ الْكِتَابِ لِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ لِمِنْجَدِ  
فِي طِينِهِ، الْحَدِيثِ، اور یہ میثاق نبیوں سے لیا گیا ہے۔

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب (آلية) وإن  
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ولقد أخذنا ميثاق بني  
إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. (آلية) وإن أخذنا من النبيين  
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرريم  
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً (آلية)

حاصل يہ کہ اخذ میثاق نبین سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
کے لئے یا گیا، میری ایک نظم نقیہ ہے اس میں ایک شعر ہے:  
آیت میثاق دروے ثم ہست  
ایں ہمہ از مقضائے ختم است

آیت میثاق میں جو تم آیا ہے یعنی: ثم جاءكم رسول مصدق  
لما معكم، الآية۔ یہ سب کچھ بے مقضائے ختم نبوت ہے، چنانچہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا گیا ورنہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ  
 وسلم جیسے اس امت کے نبی ہیں نبی الانبياء بھی آپ ہی ہیں، ثم جاءكم اس امر  
کی دلیل ہے کہ وہ عظیم الشان رسول سب نبیوں کے بعد آئے گا، سورۃ  
 صافات میں ہے: «جاء بالحق وصدق المرسلین» وہ رسول حق لے  
 کر آگیا اور تمام انبياء علیہم السلام کی تصدیق کر دی، اگر غور سے دیکھو گے تو  
 اس آیت میں: وإن أخذ الله ميثاق النبيين۔ میں لام استغراق کے لئے  
 ہے اور جو رسول آئے گا وہ سب کے بعد ہو گا، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں  
 جو حدیث میں آتا ہے حکماً عدلاً وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا

نزول بحیثیت پیغمبر نہیں ہو گا۔ پیغمبر تو آپ ہوں گے لیکن بحیثیت حکم عدل  
 تشریف لا میں گے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام  
 کے علاقے میں تشریف لے گئے، پیغمبر تو تھے لیکن بحیثیت پیغمبر کے تشریف  
 نہیں لے گئے تھے، شریعت یوسفی پر عامل تھے، جیسا کہ لوکان موسیٰ  
 حیا لاما وسعته إلا اتباعی۔ میں ہے۔

الحاصل یہ نکھر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میثاق لیا گیا،  
 قرآن عزیز میں ہے: ولما جاءه هم من عند الله مصدق لما معهم  
 نبذ فريق من الذين أوتو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم  
 كأنهم لا يعلمون.

”ہدایت الحیاری میں ہے: لو لم يظهر محمد بن عبد الله  
 صلی اللہ علیہ وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء۔ اگر محمد (صلی اللہ  
 علیہ وسلم) ابن عبد اللہ کا ظہور نہ ہوتا تو تمام انبياء کی نبوت باطل ہو جاتی۔ سو  
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہی تمام انبياء علیہم السلام کی نبوت کی  
 تصدیق فعلی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بل جاء بالحق وصدق  
 المرسلین۔ یقیناً حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمائی جو  
 اجل مفسرین میں سے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس کی  
 دلیل ہے کہ باری تعالیٰ اور کوئی نبی نہیں بھیجے گا، یعنی آپ کے بعد کسی کو نبوت  
 تفویض نہ کی جائے گی عدد انبياء کا ختم ہو گیا ہے، اور حسب حاجت کسی پہلے  
 نبی ہی کو بھیجا جائے گا تاکہ دلیل ہو جائے کہ حضور ہی خاتم النبین ہیں، اور

حضرت عیسیٰ تشریف لا کر بھی حضور کی ہی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تاکہ سب پر ثابت ہو جائے کہ حضور ہی سب سے افضل اور خاتم النبیین ہیں، تورات میں ہے ”نابی میائیخ مقرن خیام لخ الا و خ الشماعون“، یعنی نبی من قربک من أخيك كأخيك يقيم لك إلهك إلیه تسمعون. میں تیرے قریب بھائی بندوں میں سے ایک نبی مبعوث کروں گا تم اسی کی سنو۔

بنی اسرائیل کے قریبی بھائی بند بنی اسماعیل ہی ہیں۔ ان ہی میں سے نبی برحق مبعوث ہوئے ان ہی کے اتباع کا حکم فرمایا جا رہا ہے، وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، اور اولاً و بھی ہوگی، اور حج و عمرہ بھی کریں گے اور چالیس سال قیام فرمانے کے بعد انتقال فرمائیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی پھر روضہ پاک میں دفن ہوں گے، جہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ایک وادی سے گذرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: آی واد هذا؟ معلوم ہوا کہ وادی ازرق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کانی انظر إلى موسیٰ۔ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو گویا دیکھ رہا ہوں، اپنی انگلی کا نوں میں دے کر بلند آواز سے تلبیہ کہتے جا رہے ہیں۔

پھر یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وادی ”ہرشی“ سے گذر رہے

ہیں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، شاید ان دونوں نبیوں نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا، مسند احمد اور مسلم شریف میں بھی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے اور ”نفح روح“ سے احرام باندھیں گے۔

اور امام تیہنی نے حیات انبیاء پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، مسلم شریف میں ہے: مررت بموسیٰ ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره۔

اور مسند احمد میں صحیح ابن حبان اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے انبیاء علیہم السلام علائق بھائی ہیں دین ان کا واحد ہے۔

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مُرْيَمَ، لَأَنَّهُ لَيْسَ بِنِي وَبِنِهِ نَبِيٌّ، وَأَنَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى أَمْتَى، وَأَنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرُفُوهُ۔ (الحدیث) اور مسند رک حاکم میں ہے: ولیاتین علی قبری حتی یسلم علی ولاردن علیہ۔

اور فتح الباری میں بھی ہے، اور ایک تکڑا مسلم شریف میں بھی آیا ہے۔ اور واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تمام دائرہ از اول تا آخر طے فرمایا ہے لہذا اول اور آخر میں ظہور فرمایا، اور تمام دورہ نبوت پر حاوی ہو گئے اس تقدیر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور پذیر ہوتا اگرچہ آنحضرت سے استفادہ کے طور پر ہی ہو اس میں صریح منقبت

ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

بس اتنی تقریر کی تھی کہ حضرت اقدس نے فرمایا اس کو قلم بند کرو، اور سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی میرے پاس بیٹھے تھے، اور بڑے غور سے سن رہے تھے، بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور قلم بند کرو، ورنہ میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا، علی میان بھی فرماتے تھے کہ بہاول پور کے حضرت شاہ صاحب کشیری کے بیان کو بھی ضرور قلم بند کر دینا چاہیے۔

☆☆☆

### رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی عملی شکل

فرمایا کرتے تھے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں دنیا میں عملی شکل اختیار نہ کر لیں گی اس وقت تک قیامت نہ آئے گی۔ (انبیاء کے معجزات کا عملی مشاہدہ کر دیا جائے گا)

(ف) اس بات کو اب پچاس سال کے قریب ہو گئے چنانچہ آہستہ آہستہ سب حقائق کا تجربہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج کل کے خلائی سفر کرنے والے سترہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سیر کرتے ہیں۔ ابھی یہ بھی ابتدائی حیثیت ہے، مستقبل قریب میں خلائی مسافروں کا سفر نہایت تیز رفتار ہو گا، وہ بہت حیرت انگیز ہو گا، کیونکہ ستاروں کی درمیانی مسافت کو بہت تیزی سے

ٹکر لیں گے، جس کا تصور بھی ہمارے لئے مشکل ہے۔

”گارڈن کو پر“ کا زمین کے اردو گرد ۹۰ مٹ میں ۲۲ چکر لگانا یہ نئے دور کا پیغام ہے جیسے آئن شائن نے اپنے نظر یئے اضافت کی بناء پر پہلے ہی صحیح مان لیا تھا، یہ خلائی سفر گارڈن کو پر نے ۹۰ مٹ میں طے کر لیا۔ اور گارڈن کو پر کی عمر اس خلائی سفر میں کم ہو گئی۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں نازل ہونا ایک حقیقت ثابتہ بن چکا ہے۔ (وَإِن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ) کی تفسیر تجربے میں آگئی۔

ایک فلاسفہ نے لکھا ہے کہ خلائی کشتبی کے ذریعے ایک سے دوسرے کچکشاں تک آنا جانا ممکن الوقوع ہے اور وہاں کے حساب سے پچھن سال اور زمین کے حساب سے تین لاکھ سال گذر چکے ہوں گے۔ یہ اس نے بڑے تھکانے والے تجربے کے بعد حساب لگایا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ کئی بار فرمایا تھا: لیس عند ربک صباح ولا مساء۔

هنا موطن فرق الزمان ثباته

علیٰ حالة ليست به غير تبری

وہاں ایسا مقام ہے جہاں زمانے اور تغیر و تبدل کا گذرنیں ہے۔

علامہ ابن قیم کے یہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔

قال ابن مسعود کلاماً قد

## بندوق کا شکار

درس بخاری شریف میں فرمایا تھا کہ مجھ سے بعض احباب نے مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ بندوق کا شکار کیا ہوا جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے ایک مستقل رسالہ کی شکل میں جواب لکھا تھا، حاصل یہ کہ بندوق کی گولی توڑتی ہے زخم نہیں کرتے، تو یہ وقید کے مشابہ ہوا، گوالمکیہ کے ہاں جائز ہے بہر حال اگر بندوق کا شکار زندہ مل جائے تو ذبح کرنا چاہیے اگر مر جائے تو کھانا ناجائز ہے۔



## علم الفرائض پر ایک طویل نظم

فروض میں حضرت شاہ صاحب کشمیری کی ایک نظم ہے،  
۹۲،  
(بانوے) اشعار ہیں، ابتدائی شعر اس طرح ہیں:

بعد حمد خدا و نعمت رسول  
بشو از انور ظلوم و جهول  
مال نبود چو مستحق العین  
بعد تجهیز و دفن و دادن دین  
هم پس از عزل ثلث موصی به  
ذی فروض مقررہ را دہ


حکاہ الدارمی عنہ بلا نکران  
ما عنده لیل ولا نہار قلت  
تحت الفلك ی موجود دان  
نور السماوات العلي من نوره  
والارض کيف النجم والقمران  
من نور وجه الرب جل جلاله  
کذا حکاہ الحافظ الطبراني

یہی مراد اس حدیث کی ہے: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن  
ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل  
النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجا به النور، فهذه حضرة  
فوق الليل والنهار. كما في روح المعانی، روح المعانی میں  
وأشرق الأرض بنور ربها دیکھنا چاہیے۔

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. میرے نزدیک یہ محقق ہو گیا  
کہ معانی آخرت میں مجسد ہو جائیں گے، شیخ اکبر کی بھی یہی تحقیق ہے چنانچہ  
فتوات میں لکھا ہے۔ اور دو اپنے آپنے رسالہ الرزراء میں آیت بالا سے  
اس کو تقویت دی ہے یعنی اب بھی جہنم محیط ہے لیکن آنکھوں سے مستور ہے  
اور حشر میں یہ سب کچھ مکشف ہو جائے گا، فکشنا عنک عطاء ک  
فصرک الیوم حديد.

## نماز کے لئے رغبت

حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ فرماتے تھے کہ مولانا سید انور شاہ صاحب ایک دفعہ گنگوہ تشریف لے گئے اور حضرت گنگوہ سے عرض کیا حضرت میرے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے نماز پڑھنی آجائے۔ حضرت گنگوہ نے فرمایا ”اور رہ ہی کیا گیا“، بجانان اللہ نماز ہی کی فکر رہی۔



## اختلاف میں اتحاد

ارشاد ہوا دو شریف آدمی مذہب و مسلک کے اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر شریفانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔



## حضرت شاہ صاحب کا تحریک علمی

حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی نے القاسم شوال ۱۳۳۰ھ میں تحریر فرمایا ہے کہ:

شوال ۱۳۳۰ھ سے ایک وظیفہ رفیق دارالعلوم دیوبند پچاس روپے ماہوار کا مولانا سید محمد انور شاہ کشیری کو دیا جائے گا جنہیں عظیم الشان جلسہ دستار بندی ۱۳۲۸ھ میں سب سے پہلے دستار فہمیت ملی، اور علوم شریعت میں

عصب بعد ازاں برد ہمہ مال  
بعد ازاں رد بذی فروض سگال  
بعد ازیں دو فریق اے منعام  
وارث مال داں ذوی الارحام

## موائع ارث

مانع ارث آمدہ اند چہار  
رق و قتل اختلاف دین و دار  
ایک قتلے کہ بالسبب باشد  
مانع ارث کس نبی باشد

یہ بھی پہلے درس بخاری شریف ۱۳۲۸ھ ۱۳۳۹ھ میں سنایا تھا، پھر تو مراد آباد میں مدرسہ فخریہ میں جب مولانا فخر الدین صاحب مدرس تھے کہ اضافات کے ساتھ طبع کرایا تھا اور ”النور الفاضل علی نظم علی الفرائض“، عنوان رکھا۔



اور جو ترکیبات ان میں ہیں اتصال اور حرکات اور طوال اس لئے انہوں نے شریک قرار دیے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور پہلوں نے زمین کو اللہ تعالیٰ کے غیر کی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ رہ فرمادیا: مالہم فیہما من شرک أى الارض كالسماء اللہ لا لغیره فیہما من نصیب.

(۳) وہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ ترکیبات تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرد کر دیا ستاروں کے، اور حوا و ثات کا انتساب اذن دینے والے کی طرف کیا جاتا ہے نہ کہ ما ذون کی طرف، اور فقط آسمانوں ہی کو منسوب باری تعالیٰ کی طرف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے باطل قرار دیا، اس کلام سے و ما لہم منہم من ظہیر.

(۴) بعض کہتے ہیں ہم اصنام کو پوجتے ہیں جو ملائکہ کی تصویریں ہیں تاکہ ہماری شفاعت کریں، پس اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا، لا تنفع الشفاعة. جملہ الشفاعة میں الف لام ظاہر ہے کہ عموم کے لئے ہے، اور شفاعت سے مراد شفاعت تمام مخلوقات کی ہے، بعض کہتے ہیں کہ الف لام عہد کے لئے ہے یعنی شفاعت ملائکہ کی جن کو خدا تعالیٰ کا شریک تھرا تے ہیں۔

☆..... فرمایا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ جو موت على الكفر كي عدم مغفرت قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمائی گئی ہے چنانچہ آل عمران میں ہے:

تبھرا و رہ و تقوی میں سلف صالح کا نمونہ سمجھے جاتے ہیں۔  
عبداللہ بن ظلم الانصار دارالعلوم دیوبند

نقش حیات میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی قدس سرہ نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے، رسالہ القاسم الرشید کی پرانی فائلیں دیکھنے سے بہت کچھ مواد مل سکتا ہے۔

☆..... فرمایا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.  
ابو عبد اللہ رازی کہتے ہیں جو مذاہب کے مفہمی ای الشرک ہیں وہ چار ہیں۔

(۱) وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین میں اور زمینیات کو ان کے حکم میں کر دیا، اور ہم زمینیات میں سے ہیں اس لئے ہم کو اکب اور ملائکہ کو پوجتے ہیں جو کہ آسمانی ہیں، اور وہ ہمارے الہ ہیں، اور اللہ ان کا محبود ہے لہذا ان کا قول باری تعالیٰ نے رد کر دیا: ﴿لا يملكون مثقال ذرة في السماوات﴾ کما اعترفت، ﴿ولا في الأرض﴾ کما زعمتم.

(۲) آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے مستقل، اور زمینوں اور زمینیات کا خالق ہے بواسطہ کو اکب، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے عناصر پیدا کئے،

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تَوَلَّ مِنْ كُفَّارٍ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أَوْ لَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) اور اس سے قبل بھی یہی مضمون فرمایا گیا ہے تیز سورۃ نباء میں فرمایا گیا ہے: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْ لَئِكَ اعْتَدَنَ اللَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وغیرہا من الآیات۔

لہذا اس آیت کے ساتھ اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا، کیوں کہ دو چیزیں ہیں اگرچہ شرعاً حکم شرک کا بھی کفر ہی ہے کیوں کہ ان دونوں میں تغیر نہیں ہے کیوں کہ شرک اقرار الہیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، چنانچہ مشرکین عرب ایسے ہی تھے۔ اور کفر کبھی تو جو دباری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور بھی اس کے رسولوں کے انکار سے بھی کفر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہاں آیت میں شرک کو ذکر فرمایا اس لئے یہاں پر عنوان شرک کا رکھا، اور قرآن میں رعایت عنوان کی اور لغت کی اہم ہے۔

☆..... فرمایا اشراک بالله کی کئی اقسام ہیں: (۱) اشراک فی العبادة، (۲) اشراک فی الصفات، (۳) اشراک فی الطاعة۔

اشراک فی العبادة کے عبادات غیر اللہ کی کرے، لیکن اس کو معبعد یقین کرے یا نہ کرے، جیسے مشرکین عرب کہتے تھے: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَ إِلَى اللَّهِ زَلْفِي﴾۔

اشراک فی الطاعة: یہ ہے کہ تخلیل الحرام میں اور تحريم حلال میں غیر

اللہ کا کہنا مان لے، جیسا کہ حضرت عبد القادر بلوی نے متنبہ کیا ہے، جیسا کہ نصاری اربابا من دون اللہ مانتے تھے یہ بھی ایک نوع شرک کی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر نے اس کو اشراک فی الطاعة فرمایا ہے۔

## وحدث دعوت انبیاء

فرمایا ابن رشد نے ”تهافت الفلاسفة“ میں فرمایا ہے کہ تعلیم قیامت توراة سے قبل نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں بلکہ تعلیم قیامت تو نجات ہے اور ادیان سماویہ کی اور شرائع انبیاء کی اساس ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی تعلیم بھی شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، کیوں کہ شرائع اگرچہ بدلتی رہی ہیں لیکن اصل تو تبدیل نہیں ہوئی۔ تفاسیر میں ہے کہ حرمت خزری حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہے، ہاں ان نقول کے اعتقاد کی ضرورت ہے، تو قیامت کا عقیدہ جو کہ اصول دین سے ہے پہلے سے کیوں نہ موجود ہوگا۔

## تعظیم مفرط پر نکیر

جس روز بہاول پور تشریف فرمائے ظہر کی نماز ایک چھوٹی سی مسجد میں ادا کرنے کے بعد مولانا فاروق احمد صاحب سے فرمائے گے، یہ اتنا مجھ کیوں ہے؟ جواب دیا یہ لوگ حضرت کی زیارت کے لئے آئے ہیں، فرمایا زیارت کسی اللہ تعالیٰ کے پاک بندے کی کرنی چاہیے، ہم تو عام آدمی ہیں،

خیر بیٹھے میں ایمان اور اسلام اور اذکار کے متعلق کچھ سنانا چاہتا ہوں، پھر اس پروغز فرمایا، قرآن و حدیث پیش فرماتے گے، پھر مولانا فاروق احمد صاحب احقر سے فرمائے گے کہ مولانا غلام محمد صاحب دین پوری حضرت شاہ صاحب سے ملنے آئے ہیں، مکان پر تشریف فرمائیں، تو عرض کردے کہ وعظ بند کر دیں، میں نے کہا کہ میں تو جرأت نہیں کر سکتا، ہم دونوں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے تھے حضرت نے فوراً وعظ بند کر دیا اور دعا فرمائی باہر تشریف لے آئے، راستے میں عرض کیا کہ مولانا دین پوری تشریف لائے ہوئے ہیں مکان پر پہنچ کر ملاقات فرمائی، اور معافی کیا حضرت دین پوری پر رفت نے زور کیا، بہت روئے، پھر پنگ پر سرہانے کی طرف حضرت دین پوری کو بٹھانے لگے، حضرت نے اصرار کیا کہ آپ ہی ادھر بیٹھیں۔

حضرت شاہ صاحب نے تکیے حضرت دین پوری کی طرف رکھ دیا کہ آپ تکیے لگا کر بیٹھیں، خود بھی بیٹھ گئے پھر خدام حضرت دین پوری حضرت شاہ صاحب سے ملنے لگے پہلے پاؤں کو ہاتھ لگاتے پھر گھنٹوں کو پھر مصافحہ کرتے، ایک کو فرمایا امرے بھائی! فقط مصافحہ سنت ہے، اور دوسرے سے بھی بھی فرمایا، تیرا آیا اس نے جب گھنٹوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے دونوں بازوں تھام لئے اور فرمایا کیا پیغمبر کی سنت سے عداوت ہی ہے؟ پرے ہٹ کر بیٹھ جاؤ، میں اس مسئلہ کو کشف کرنا چاہتا ہوں۔

پھر شرح وسط کے ساتھ مسئلہ بیان فرمایا، کہ نماز میں جوار کان شریعت نے رکھے ہیں ان میں قیام تو مشترک ہے، ہم ایک دوسرے کے

119  
سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میں بیٹھوں اور لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ رہار کوئ تو یہ مکروہ تحریکی ہے اور سجدہ تجیہ اور تعظیمی یہ حرام ہے۔ فقط مصافحہ سنت ہے۔

ایک صاحب نے ایک رسالہ میں سجدہ تجیہ کا جواز لکھ کر میرے پاس ڈا بھیل بھیجا، میں اردو کے رسائل کم دیکھتا ہوں، اٹھا کر ایک دو جگہ سے دیکھا، انہوں نے لکھا کہ سجدہ تجیہ کی حرمت کسی نص سے ثابت نہیں۔ حالانکہ حضرت شاہ عبدالقدار محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ پہلے وقت سجدہ تعظیم تھی آپس کی، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ رواج موقوف کیا۔

وَإِنَّ الْمَساجِدَ لِللهِ، اس وقت پہلے رواج پر چنانا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی بہن سے نکاح کرے، کہ آدم علیہ السلام کے وقت ہوا ہے، (سورہ یوسف کی تفسیر میں و خر واله سجدا کے تحت شاہ صاحب نے یہ ذکر فرمایا ہے) اور سورۃ جن میں وَإِنَّ الْمَساجِدَ لِللهِ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ: ”سجدے کے ہاتھ پاؤں حق اللہ کا ہے۔“

غرض سجدہ تجیہ کی حرمت احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، فقهاء نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو یوسدینا جائز ہے مثلاً اپنے استاد کو یا کوئی اور راجب الاحترام آدمی ہو۔ (درمنقار)

مولانا غلام محمد شیخ الجامعہ نے بوقت رخصت جب حضرت شاہ

صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تو فرمایا کہ لوگ حاجی بنائیں گے۔

## لفظ قدر کی تحقیق

فرمایا: فظن ان لن نقدر عليه، پس گمان کیا ہم اس پر تنگ نہیں پکڑیں گے۔ ف: کما فی "فقدر عليه رزقه" پس اس پر رزق تنگ کر دیا۔ کما بینه الطحاوی فی مشکله.

## رویت انبیاء مشاہدہ ہے

والشجرة الملعونة فی القرآن۔ شجر ملعونہ کے ذکر کو معراج سے اس لئے ملا دیا کہ یہ بھی کفار کا ایک طعنہ تھا، جیسے کہ معراج میں ان کو اعتراض تھا، چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے کہ کفار کہتے تھے کہ آپ کیسے راتوں رات بیت المقدس تک ہو آئے، اور شجرہ کے متعلق کہتے تھے کہ سودرخت آگ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آگ کا کام تو جلانا ہے۔ خدا کی قدرت کو سب کچھ آسان ہے۔

☆..... فرمایا کہ عالم غیب کی چیزیں حالت یقظہ میں مشاہدہ کرنے کی تعبیر روایاتے کی گئی ہے، میں نے تورات میں اکثر دیکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مشاہدات عالم یقظہ میں ہوئے، یہاں لفظ اکثر استعمال کیا گیا ہے

تورات ہی میں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک ندی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک رؤیا دیکھا، حالانکہ یہ عالم بیداری میں رویا تھا، فوراً مجھے تنبہ ہوا کہ یہ لفظ رویا انبیاء علیہم السلام کے عالم یقظہ کے مشاہدات پر بھی بولا گیا ہے، حافظ نے فتح الباری میں بھی اس پر بحث کی ہے۔

یہ ایسا ہے جیسے کشف کا لفظ صوفیا کے ہاں، لغت میں تو کشف کے معنی وضوح کے ہیں، کبھی باصرہ کے ساتھ عالم یقظہ میں دیکھنے پر بھی کشف کا لفظ بولا گیا ہے۔

☆..... فرمایا کہ قادریانی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو شب معراج میں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مگر آپ نے آنے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ یہ دھوکا ہے اس لئے کہ ابن ماجہ میں واقعہ ملاقات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مذکور ہے، اور باہمی گفتگو بھی مذکور ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کے متعلق تصریح فرمائی ہے۔ (سنن ابن ماجہ، ص: ۳۰۹ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ علیہ السلام، عبد اللہ بن مسعود راوی ہیں):

لما أسرى برسول الله صلی الله علیہ وسلم لقی ابراهیم و موسی و عیسیٰ فتذاکروا الساعة، فبدءوا بابراہیم فسائلوہ عنہا فلم یکن عنده من علم، ثم سالوا موسی فلم یکن

عندہ من علم، فروا الحديث إلى ابن مريم، فقال قد عهد إلى دون وجتها، أما وجتها فلا يعلمها إلا الله فذکر خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله.

### ایام قیام قباء کی تحقیق

فرمایا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چودہ روز قیام پذیر ہے، چنانچہ بخاری صفحہ ۵۰۶ جلد ایک میں تصریح ہے اور جو سیر محمد بن اسحاق میں ہے کہ قباء کا قیام چار دن رہا پس وہ ہو ہے، اس کا منشاء یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے منگل کے روز اور شہر مدینہ میں تشریف لائے جمعہ کے روز پس جمعہ اسی هفتہ کا شمار کر لیا گیا، اگر اعتراض کیا جائے کہ جمعہ ثانیہ کا اعتبار کرنے سے بھی حساب پورا نہیں ہوتا کیونکہ منگل آٹھ روز، بدھ جمعرات جمعہ تین دن ملکر گیارہ دن ہو گئے تو بخاری شریف میں مذکور چودہ دن پورے نہ ہوئے، جواب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا تشریف لے جانا قیام کی خاطر نہ تھا، بلکہ جمعہ کی نماز ادا کر کے واپس آ جانا مقصود تھا، پھر ہفتہ اتوار پیر قباء میں رہ کر منگل کو مدینہ میں تشریف لائے یہ پندرہ یا چودہ روز ہو گئے۔

### فضیلت حضرت ابو بکرقطی ہے

ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت امام اشعری کے نزدیک قطعی ہے اور امام بالقلانی کے نزدیک ظنی ہے، میں کہتا ہوں کہ اشعری کا فرمانا اصوب ہے کیوں کہ اس کثرت سے احادیث اس باب میں مردی ہیں جن سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے بلکہ تواتر سے بھی فوق، ایسا ہی فضیلت شیخین بھی ثابت ہے پھر ترتیب بھی قرابت کے بر عکس ہے پس جو اقرب ہے نبادہ آخر ہے افضلیت میں، اس طرح کہ علی عثمان، عمر ابو بکر۔ نیز افضلیت میں صدیق اکبر اقدم ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ پھر علی کرم اللہ وجہ۔

### افتتاح قراءۃ خلف الامام

بخاری جلد اول ص: ۵۲۳ میں ہے کہ فاروق اعظم پہلی رکعت بحر کی نماز میں سورۃ یوسف یا محل پڑھتے تھے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے پھر رکوع کرتے، معلوم ہوا کہ جو لوگ رکوع کے قریب ملتے تھے وہ فاتح نہیں پڑھتے تھے، پس مدرک رکوع مدرک کعت ہوا، پھر فاتح خلف الامام کہاں گئی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: حتیٰ یجتمع الناس.

کر چھت سے تحویلہ باندھ دے تو چھت کی لکڑی کو کیڑا نہیں لگتا۔

## لفظ دون کی ادبی تحقیق

فرمایا: واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجھر من القول بالغدو والآصال، اس میں دون الجھر معطوف واقع ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ ذکر الجھر کا بھی جواز ہے، اور دون بمعنی ذرا کم یعنی جھر مفرط سے ذرا کم، فقہاء کا جھر مراء نہیں بلکہ لا یحب الله الجھر بالسوء من القول کے قبل سے ہے مثلاً و لا تجھروا له بالقول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چیخ کرنہ یہ لو، جیسے اعراب بولتے تھے، جیسے ويغفر ما دون ذلک یعنی جو گناہ شرک سے کم درجہ کا ہو گا سے بخش دے گا۔

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.  
یعنی تھوڑا عذاب جوورے ہے اس بڑے کے۔

ثم صلی رکعتین و هما دون اللتين قبلهما۔ یعنی پھر دو رکعتیں ادا فرمائیں جو کہ پہلی دور رکعتوں سے کم طویل تھیں۔ غرض ثابت فقہاء کے جھر کو کیا جو چیخ کر بولنے سے ذرا کم ہوتا ہے۔

سنن ابی داود ص: ۲۶۳ میں ہے: فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرِّجْمِ قُبْلَاهَا۔ پس اگر انہوں نے فتویٰ دیا رجم سے کم سزا کا تو ہم اس کو بقول کر لیں گے، (اسد الغایۃ ص: ۱۶۸) وغیرہ غرض یہ کہ جھر مفرط کی نفعی ہے مطلقاً

## تسلی فعلی و قولي

بخاری میں قول عمر آیا ہے: اللہم إنا نتوسل إليک بعم نبینا فاسقنا۔ یہ تسلی فعلی ہے، زہا قولي تسلی تو ترمذی میں ہے ائمی کی حدیث میں ہے: اللہم إنى أتووجه إليک بنبیک محمد نبی الرحمه، إلى قوله: فشفعه في۔

(ف) یہ حدیث ترمذی کے علاوہ زاد المعاویہ میں بھی ہے، اور صحیح فرمائی ہے، متدرك حاکم میں بھی ہے حاکم نے اس کی صحیح کی ہے، ذہبی نے حاکم کی صحیح کی تصویب کی ہے۔

## فقہاء سبعہ مدینہ

فرمایا فقہاء سبعہ مدینہ ان کے نام مبارک یہ ہیں:

الا کل من لا یقتدى بائمه

فقسمته ضیزی عن الحق خارجة

فحذهم عبید الله عروة قاسم

سعید أبو بكر سلیمان و خارجه

پس وہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، عروہ بن قاسم ابن محمد بن ابی بکر الصدیق۔ سعید بن الحسین، ابو بکر بن عبد الرحمن، سلیمان بن یسار مدینی مولیٰ میمونہ، خارجه بن زید بن ثابت الانصاری۔ اگر کوئی ان اسماء کو کاغذ پر لکھ

## اعجاز قرآنی

ایک دفعہ فرمایا کہ قرآن مجید و حکیم کا اعجاز مفردات اور ترکیب و ترتیب کلمات اور مقاصد و حقائق کی جملہ و جوہ سے ہے، مفردات میں ہے کہ قرآن مجید وہ کلمہ اختیار فرماتا ہے جس سے اوپری بالحقیقتہ و اوپری بالمقام سارے انس و جن بھی نہیں لاسکتے، مثلاً جاہلیت کے اعتقاد میں موت کے لئے توفی کا لفظ درست نہ تھا کیونکہ ان کے عقیدے میں نہ بقاء جسد تھی نہ بقاء روح۔

توفی وصول کرنے کو کہتے ہیں ان کے عقیدے میں موت توفی نہیں ہو سکتی، قرآن مجید نے موت پر توفی کا اطلاق کیا، اور بتلایا کہ موت سے وصول یا بی ہوتی ہے نہ فاٹھض، اس حقیقت کو کلمہ توفی سے کشف کر دیا اور کہیں کہیں اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی جسم الرؤح کے وصول کرنے پر کیا۔

و جعلوا اللہ شر کاء الجن. ظاہر قیاس یہ تھا کہ عبارت یوں ہوتی: و جعلوا الجن شر کاء اللہ. لیکن مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے شریک تھہرائے کوئی معمولی جرم نہیں کیا، خدا کو جن کا شریک قرار دینے کا، مطلب یہ ہے کہ خدا کی عظمت اور کبریائی کو جن کا ہم رتبہ قرار دے دیا، پس یہ مراد اسی ترتیب اور نشت الفاظ سے حاصل ہو سکتی ہے۔

(ف) حضرت عبد اللہ بن الجبارین تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر جہر کرتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے شکابت بھی کی کہ یہ شخص ریا کار ہے: فرمایا: إِنَّهُ مِنَ الْأَوَاهِينَ۔ اور خود حضرت عمر بن عبّاس کے ایمان کے واقعہ میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لالہ لا اللہ کا کعبہ میں بلند آواز سے ذکر فرمانا آیا ہے کعبہ شریف تو مساجد میں افضل ہے کتب سیرت میں مصرح ہے۔ (اسد الغافر ص: ۱۶۱) (محمد عفان اللہ عنہ)  
فرمایا: برازیہ میں کلام مضطرب کیا ہے اور شای میں تفصیل کی ہے مختصر المعانی ص: ۱۸۵ میں ہے:

وَمَعْنَى دُونٍ فِي الْأَصْلِ أَدْنَى مِنِ الشَّيْءِ، يَقُولُ: دُونٌ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحْطَطَ مِنْهُ قَلِيلًا۔ (ترجمہ) دون اصل میں کسی شیء کا کم درجہ کا ہوتا "هذا دون ذلك" وہاں یوں لئے ہیں جب وہ شے دوسری کی نسبت سے تھوڑی سی کم ہو۔

لا ہور میں ایک شخص کو تلقین ذکر کرتے وقت زور سے ضرب لالہ الا اللہ کی لگا کر دکھائی، دیوبند میں احضر جن حضرات کو بیعت کی غرض سے لے جاتا تھا جہر سے ذکر کرنا تلقین فرماتے تھے۔

## مقصد قرآنی کی تشرع

مقاصد سے میری مراد مخاطبین کو سبق دینا یعنی ہے، جیسا کہ علماء کرام نے امام حسنی کے شروع میں لکھا ہے مقاصد قرآن حکیم کے وہ ہونے چاہئیں جن سے مبدأ اور معاش اور فلاح ونجاح دنیا و آخرت وابستہ ہو۔

## پچھا ابتدائی دور سے متعلق

ریل گاڑی میں بہاول پور سے براستہ راجپورہ والپی دیوبند کے سفر میں مجھے فرمایا کہ امام تیہقی رحمۃ اللہ علیہ حاکم سے لیتے ہیں اور حاکم دارقطنی سے لیتے ہیں، احقر نے عرض کیا کہ سنن کبریٰ تیہقی پر علامہ ماردوی تیہقی کے لفظ اغلاط پر بھی گرفت کرتے جاتے ہیں، فرمایا: ان کی نظر چوکتی نہیں۔

فرمایا میں نے عدۃ القاری کا حضرت شیخ الزمن مولانا محمود الحسن صاحب تدرسہ کی خدمت میں صحیح بخاری شروع کرنے سے ایک سال پہلے ہی مطالعہ کر لیا تھا، اور فتح الباری کا مطالعہ درس بخاری کے سال میں کیا تھا، مولانا مشیت اللہ صاحب بجنوری فرماتے تھے کہ قسطلانی کی ارشاد اساري شرح بخاری کا مطالعہ بھی اسی سال کیا کرتے تھے، خود فرماتے تھے کہ میرے مطالعہ کی رفتار تیزی ہوتی تھی کہ دو دو سورق مطالعہ کر لیتا تھا۔

مولانا محمد اسحاق کشیری سے میں نے صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ پڑھی ہیں، وہ تلمیذ مولانا خیر الدین آلوی کے ہیں وہ اپنے والد سید

محمود آلوی صاحب روح المعانی کے ہیں۔ ”الجواب الفسیح لاما لفق عبد المسیح“ اور ”بلوغ الارب وجلاء العین فی المحاکمة بین الاحمدین“، اور بھی بڑی نفیس کتب کے مولف ہیں، ابواب افسح تواحر کے پاس بھی ہے، حضرت شاہ صاحب اس کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے، احقر نے ایک دفعہ امر ترا اور لاہور کے درمیان عرض کیا کہ علامہ خیر الدین آلوی کی ایک کتاب رویسائیت میں ہے، لاہور شاہ عالمی دروازے پر میں نے چھ آنے میں خرید کی تھی، فوراً فرمایا الجواب الفسیح ہے؟ میں جیران رہ گیا۔

مولانا محمد اسحاق صاحب کشیری کا انتقال مدینہ منورہ میں ۱۳۲۲ھ میں ہوا، فرماتے تھے ایک میرے استاد تھے، اتنا رعب تھا کہ میں تھک جاتا تھا لیکن گھٹنا نہیں بدلتا تھا۔ اب تو طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ خوب شوخ وشنگ ہو، میں تو حضرت شیخ الہند کے سامنے بھی بولتا تھا چاچ سنوار ہتا تھا۔ فرمایا حضرت شیخ الہند سے ہدایہ کے آخری دو جز بھی میں نے پڑھے ہیں۔

فرمایا ایک میرے استاد محدث حسین الجسر طرابلسی بھی ہیں، ان کا سلسلہ علامہ ابن عابدین شامی اور علامہ طحطاوی سے ملتا ہے، رسالہ حمید یہ ان ہی کی تصنیف ہے، ان کا زہد و اتقاء بڑا کامل تھا، فرمایا میں نے حضرت مولانا گنگوہی سے بھی پڑھا ہے۔ جب میں اپنے وطن کشیر جانے لگا تو گنگوہ حاضر ہوا تھا یہ مدرسہ امینیہ کی واپسی پر ہوا تھا۔

## مولانا نیموی

ایک دفعہ میں گنگوہ حاضر ہوا تو "جامع الآثار" مولفہ مولانا نیموی حضرت گنگوہ کے ہاں آیا ہوا تھا۔ کسی غیر مقلد نے اس پر اعتراضات کئے تھے۔ تو حضرت گنگوہ نے فرمایا کہ غیر مقلد کے اعتراضات بے جا ہیں، میں نے جامع الآثار کی حمایت میں بھی مولانا نیموی کو لکھا تھا، مولانا نیموی کے خطوط وہی میں بھی میرے پاس آتے تھے۔

## تقویٰ کے معانی

ایک بار فرمایا کہ تقویٰ ایمان پر بھی بولا گیا ہے، ﴿وَالزَّمِيمُ كَلْمَةُ التَّقْوِيَّةِ﴾ تو بہ پر بھی اطلاق ہوا ہے، ﴿وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا﴾ طاعت کے معنی پر بھی بولا گیا ہے۔ ﴿أَنَّ أَنذَرْوَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ﴾ ترک گناہ پر بولا گیا ہے۔ ﴿وَاتَّوَا بِبَيْوَتٍ مِّنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقَرَّا اللَّهَ﴾ کبھی اخلاص کے معنی بھی دیتا ہے، ﴿إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس پر خوب لکھا ہے۔

## حضرت مرحوم کے تعلقات دوسرے بزرگوں سے

۱۹۳۲ء کی بات ہے حضرت اقدس کندیاں والے اپنے خلیفہ مولانا محمد عبد اللہ صاحب کے گاؤں سلیم پور تشریف لائے تھے، احتقر کو حضرت مولانا

عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تو بھی آتا کہ حضرت کی زیارت کرے، تو احتظر اور دوسرا تھی جو ہمارے مدرسہ رائینگوٹ ضلع لدھیانہ میں مدرس تھے، تینوں مولانا عبد اللہ صاحب کے گاؤں میں گئے، بعد مغرب پہنچے حاضری ہوئی حضرت اقدس سرہ کی خدمت میں مولانا عبد اللہ صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت شاہ صاحب کشیری قدس سرہ کا خادم اور میرا استاد ہے۔ حضرت اقدس کندیاں والے اٹھ کر معافہ کر کے ملے۔ بہت سرست کا اظہار فرمایا، فرمایا حضرت شاہ صاحب بڑے کاملین میں سے تھے، اب علماء کی پیاس کو کون بجھائے گا؟ طلبہ کو تو حدیث پڑھانے والے ملے ہی جائیں گے لیکن علماء کی مشکلات کو کون حل کرے گا۔

فرمایا جب میراڑ کا دیوبند پڑھتا تھا تو میں بھی دیوبند حاضر ہوا تھا اس وقت حضرت شاہ صاحب ہی حدیث کے مدرس تھے، لڑکے نے اپنے کمرہ میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن کی دعوت کی، دونوں حضرات تشریف لائے، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب سے چونکہ پہلے سے بے تکلفی تھی، لیکن حضرت شاہ صاحب سے مجھے تجاپ رہا، پھر جب مولانا حسین علی صاحب نے میانوالی میں دعوت محاکمہ دی، اور حضرت میانوالی تشریف لے گئے میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے اپنے یہاں تشریف لے چکنے کو عرض کیا تو بخوبی منظور فرمایا۔

پھر ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے کتب خانہ کی زیارت کرائی جس سے حضرت کا دل باغ باغ ہو گیا، پھر میں نے لوگوں کو باہر نکال دیا، اور

حضرت شاہ صاحب نے خوب کتب خانہ کی سیر کی، ”تیسیر الاصول“، حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے دو ماہ کے لئے مستعار دیوبند لے گئے۔ اور پھر دو ماہ کے بعد واپس فرمائی، اور مجھے خط میں تحریر فرمایا کہ جتنا عرصہ آپ کے ہاں قیام کیا میں اسے مفتقات زندگی میں سے سمجھتا ہوں، وہ خط میں نے محفوظ کر کے رکھ چھوڑا ہے، افسوس کہ قیام خانقاہ سراجیہ (کندیاں) میں صرف ایک دن رہا، حضرت شاہ صاحب کے پاس وقت کم تھا اگلے روز حضرت شاہ صاحب کی تصانیف کا ذکر فرماتے رہے۔ فرمایا میں نے حضرت کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا ہے، پھر احقر نے عرض کیا کہ ”ضرب الخاتم على حدوث العالم“ اور ”مرقاۃ الظارم“ بھی حضرت کے پاس ہیں۔ فرمایا وہ تو ہم نے تم کا رکھ چھوڑی ہیں اس میں دیقیق ابجات ہیں۔ پھر احقر رخصت لے کر چلا آیا، پھر مولانا عبد اللہ صاحب تو بار بار ملتے رہے۔ لیکن حضرت کندیاں والوں کی زیارت نہ ہو سکی، پھر سننا کہ کانپور میں حضرت کا وصال ہو گیا ہے، تابوت کندیاں لایا گیا پھر ایک رسالہ میں حضرت کا وصیت نامہ پڑھا۔ اور مولانا عبد اللہ صاحب کو جانشین اور کتب خانہ کا منتظم بنانا بھی پڑھا ہاں حضرت کندیاں والوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور لوگوں نے تو استفادہ کیا افسوس کہ میں چونکہ کھانے کے انتظام میں تحامیں استفادہ نہ کر سکا۔

کسی نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ انہوں نے (حضرت اقدس کندیاں والوں نے) ایک رسالہ لکھا ہے خطاب کے متعلق، میں جب حاضر ہوا تو فرمایا کہ آپ نے کوئی رسالہ خطاب کے متعلق لکھا ہے عرض کیا

ہاں کچھ لکھا تو ہے، فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے نکال کر پیش کیا غور سے دیکھتے رہے، پھر کچھ فرمایا نہیں۔

ایک دفعہ ڈھڈیاں ضلع سرگودھا میں مولانا عبد اللہ صاحب تشریف لائے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب راپوری نے فرمایا کہ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں کتنا عرصہ رہے، تو مولانا عبد اللہ صاحب نے فرمایا کہ چودہ سال قیام کیا۔

جب احقر ۱۹۲۲ء میں لدھیانہ مدرسہ عزیزیہ میں پڑھاتا تھا تو مولانا عبد اللہ صاحب نے احقر سے تہذیب اور شرح تہذیب، شرح ملا جامی، کنز الدقائق پڑھی تھی۔ پھر اچھرہ لاہور چلے گئے تھے ۱۹۲۶ء میں حدیث دیوبند حضرت شاہ صاحب قدس سرہ سے پڑھی۔

مولانا عبد الغنی صاحب کی خدمت میں اس احقر ہی نے ذکر کیا کہ جس کو مولانا محمد نذری صاحب عرشی شارح مینتوی نے تخفہ سعدیہ میں درج کیا ہے لیکن افسوس شاید الفاظ مولانا عبد الغنی صاحب کو یاد نہیں رہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کو حضرت مولانا عبد الغنی صاحب ملیر کوٹلہ پر بڑی شفقت تھی۔ ایک دفعہ لدھیانہ مدرسہ بستان الاسلام کے جلسہ میں تشریف لائے، مولانا بدر عالم میر تھی بھی ساتھ تھے۔ مولانا بدر عالم صاحب احقر کے دیوبند میں رفیق ہیں، مدینہ منورہ پارہا ملاقات ہوئی ہے، مولانا عبد الرشید مرحوم سے فرمائے گئے: مولانا عبد الرشید صاحب یہ مولانا عبد الغنی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ علماء آخرت میں سے ہیں۔

ایک دفعہ مالیر کوٹلہ کے جلسہ میں تشریف لائے احتقر نے عرض کیا کہ احتقر بفضلہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا پیرو ہے۔ اور بیعت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر کی ہے، اور حدیث اپنے حضرت شاہ صاحب کشیری سے پڑھی ہے، خدا کے کرم سے امید کرتا ہوں کہ بخششا جاؤں گا بطیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس مجلس میں حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرماتھے۔ مولانا عبد الغنی اگلی صبح کو سویرے ہی بخاری شریف لے کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے کہ حضرت مجھے بھی شاگردی میں لے لیں اور بخاری شریف شروع کر دیں۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے قبول فرمایا اور ابتدائی حدیث شروع کر دی۔ اور اجازت بھی دے دی۔

## قرآن کریم میں تفسیخ آیات

فرمایا کہ قرآن میں نسخ کے متعلق قدماء میں بھی بہت توسع ہے کہ ان کے نزدیک عام کی تخصیص اور خاص کی تعمیم بھی نسخ ہے، ایسا ہی مطلق کی تقید اور تقید کا اطلاق اور استثناء اور ترک استثناء بھی نسخ ہے، ایسے ہی حکم کا انتہا اس کی علت کے انتہا کی وجہ سے بھی اس میں داخل ہے، متاخرین کی سی اسی میں رہی کہ نسخ میں کبی ثابت کی جائے، حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بیس آیات کو منسوخ مانا ہے، اور ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صرف پانچ جگہ نسخ تعلیم کیا ہے۔ (دیکھو الغوز

## (الکبیر)

میرے نزدیک قرآن متوہیں کوئی آیت بالکلیہ منسوخ نہیں کہ اس کا کوئی محل ہی نہ نکل سکے، بلکہ اس کا حکم کسی مرتبہ میں مشروع ضرور ہے گا۔ فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اگر ہم پاری تعالیٰ کی حکمتوں اور مصائر کا اعتبار کریں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ، مکان اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہتی ہیں چنانچہ دوا گرم مزاج مزاج باردا اور موسم باردا میں مفید ہوتی ہے، اور مزاج گرم اور موسم گرم میں مضر ہوتی ہے۔ اور چونکہ زمانہ ازال سے اب تک واقعات جزئیہ پر مختلف و موزع ہے، ظہور و خفا، سابق اور لاحق، اعدام ایجاد وغیرہ یہ سب کچھ ہمارے اعتبار سے ہے، یعنی پر نسبت اہل زمان اور زمانیات کے اعتبار سے ہے، لیکن پاری تعالیٰ کی نسبت سے تو ہر چیز اپنے وقت پر واقع ہے بغیر تغیر و تبدل کے۔

حاصل یہ ہے کہ علم ازی میں ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہے، لیکن مکلفین اس غایت اور انتہاء کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے احوال کے قرائے سے گمان کر لیتے ہیں کہ یہ حکم دائی ہے جب پاری تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی انتہا ظاہر ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور دوسرا حکم اس کا ناخ ہے۔ مکلفین چونکہ قادر العلم ہیں یہ تقدم اور تاخرا اور یہ تجدید و تغیر ان کے اعتبار سے ہے لیکن پاری تعالیٰ کے اعتبار سے یہ سب کچھ اپنے وقت مقرر ہے پر ہے کچھ تغیر و تبدل تقدم و تاخرنہیں، اور یہ معاملہ صرف احکام شرعیہ ہی

میں نہیں بلکہ ہر شے میں جاری و ساری ہے، اور جو کوئی اس نئی وجود کا، کہ بے انتہاء حoadت متعاقبہ پر مشتمل ہے، بنظر غائر مطالعہ کرے گا سمجھ لے گا کہ اس کا پڑھنے والا ایک ایک سطر اس کتاب کی پڑھ کر جا رہا ہے اور کلمہ بعد کلمہ اس کی زبان سے گزر رہا ہے، جب چند سطور یا کلمات ختم ہوتے ہیں تو چند سطور اور کلمات سامنے آ جاتے ہیں، جو مشتمی ہو گیا وہ وجود لفظ سے محو ہو گیا، جو کلمات بعد میں آئیں گے وہ وجود لفظ کی لوح پر ثابت ہو جاتے ہیں، یہ محو والاثبات ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس کو کتاب الححوالا ثبات کہتے ہیں۔ اور اگر اس مجموعہ کو بہبیت اجتماعی (کہ علیم و حکیم نے مبادی اور مقاطعہ کے ساتھ مرتب کیا ہے) ملاحظہ کرے گا، یعنی بغیر تلاوت اور یکے بعد دیگرے کلمات کے آنے سے اس کو "ام الکتاب" کہتے ہیں، یہیں سے اس آیت مبارکہ کے معنی بھی کھل گئے یہ محو اللہ ما یشاء ویشت و عنده ام الكتاب، بعض محققین اس مجموعہ ذیقی کا "مرتبہ قضاۓ" نام رکھتے ہیں، اور ظہور تدریجی کو مرتبہ قدر کہتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں (لامشاختہ فی الاصطلاح)

بعض لوگ نئخ کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے بدا لازم آتا ہے۔ اور ہماری تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ بدا اور نئخ اور چیز ہے، کیونکہ نئخ تو حسب اوقات مختلفہ مصالح مکلفین کی تبدیلی کا نام ہے، بدا یہ ہے کہ باری تعالیٰ پر غیر ظاہر مصلحت ظاہر ہو گئی، بدا میں تو غیر ظاہر مصلحت کا ظہور ہے پس فرق ظاہر ہو گیا، نئخ بدا کو توبہ مستلزم ہوتا جب اتحاد فعل، اتحاد وجہ، اتحاد مکلف، اتحاد وقت ہواں قسم کا نئخ تو حال ہے کہ ان چار شرائط کے

ساتھ واقع ہو کیونکہ نئخ میں یا فعل مختلف ہوتا ہے مثلاً عید کے دن کا روزہ رکھنا منوع ہو گیا، اور نماز عید کی واجب ہو گئی۔ یا وجہ فعل کی بدلت جاتی ہے مثلاً پہلے صوم یوم عاشوراء واجب تھا پھر منسوخ ہو کر مستحب ہو گیا۔ یا مثلاً وقت مختلف ہوتا ہے، مثلاً استقبال بیت المقدس ایک زمان میں تھا اور استقبال کعبہ شریف دوسرے زمانہ میں تا ابد ہو گیا، فول وجهک شطر المسجد الحرام، خود ظاہر کرتا ہے۔ یا مکلفین بدلت جاتے ہیں، مثلاً مال زکوٰۃ بنی ہاشم پر حرام ہے، اور ان کے غیر کو حلال ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ قرآن عزیز میں کوئی حرف زائد نہیں کہ جس کو معنی کی تصویر میں دخل نہ ہو، بہاول پور کے مقدمہ کے سفر میں فرمایا کہ میں نے ایک نعمتیہ کلام میں متدرک حاکم کی ایک حدیث ہی بعیدہ رکھدی ہے:

اے آنکہ ہمہ رحمت مہداة قدیری  
باران صفت و بحر سمت ابر مطیری

انا رحمة مهداة حدیث شریف ہے متدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر کچھ اشعار بھی سنائے (اور مشکوٰۃ میں بھی ہے)

معراج تو کرسی شدہ و سبیع سادات

فرش قدمت عرش بریں سدرہ سریری  
بر سر فرق جہاں پائیے پائے تو شدہ ثبت  
ہم صدر کبیری و ہمہ بدر منیری

ختم رسول، نجمِ سبل، صبحِ ہدایت  
 حقاً کے نذریٰ تو واحق کے بشیری  
 آدم بصفِ محشر و ذریت آدم  
 در ظلِّ ابوایت کے امامی و امیری  
 یکتا کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا  
 تا مرکز عالم توئی بے مش و نظیری  
 اور اک بخشم است کمال است بخاتم  
 عبرت بخواتیم کے در دورِ اخیری

امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان  
 ہر علم و عمل را تو مداری و مدیری  
 عالم ہمه یک شخص کبیر است کہ اجھا  
 تفصیل نمودند دریں دیر سدیری  
 ترتیب کہ رتبی سست چودا کردہ نمودند  
 در عرصہ اسراء تو خطیٰ و سفیری  
 حق است و حق است چومتاز ز باطل  
 آن دین نبی ہست اگر پاک ضمیری  
 آیات رسول بودہ ہمه بہتر و برتر  
 آیات تو قرآن ہمه دانی ہمه گیری

آن عقدہ تقدیر کہ از کسب نہ شد حمل  
 حرف تو کشودہ کہ خبری و بصیری  
 اے ختم رسول امت تو خیر ام بود  
 چوں شرہ کہ آید ہمہ در فصل اخیری  
 کس نیت ازیں امت تو آنکہ چونور  
 باروئے سیاہ آمدہ و مونے زریری  
 ☆☆☆

ایک دفعہ جب ابھی حضرت شاہ صاحب دارالعلوم دیوبندی میں  
 تھے، احقر زیارت کی غرض سے حاضر ہوا، مولانا حافظ غلام محمد لدھیانوی  
 خطیب مسجد جہانیاں منڈی، ضلع ملتان کو خدمت میں حاضر کر کے عرض کیا کہ  
 اگر حضرت قصائد عربی و فارسی عنایت فرمادیں تو یہ مولوی صاحب اعلیٰ درجہ  
 کے کاتب ہیں یہ لکھ دیں گے اور احقر طبع کرادے گا، لوگوں کو اس سے علمی  
 استفادہ کا موقع مل جائے گا، بہت خوش ہوئے فرمایا کہ میں انہیں تھوڑے  
 تھوڑے دیتا رہوں گا یہ جوں کتابت کرتے جائیں گے میں دیتا  
 جاؤں گا، پھر یکا یک ڈا بھیل جانے کا ابتلاء پیش آگیا، اور وہ تجویز یوں ہی  
 رہ گئی، مولانا غلام محمد صاحب بھی یہاں ہو کر وطن تشریف لے آئے۔ مگر میرے  
 خیال میں رہا کہ یہ کام ہو جائے تو ہے نصیب، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی  
 تھا، کہ حضرت کا مرض بواسیر ترقی کر گیا، تا آنکہ مئی ۱۹۳۳ء مطابق ۳ صفر

۱۳۵۳ھ میں وصال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

پھر ۱۹۳۶ء میں مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کا  
 والا نامہ لدھیانہ سے مجھے رائیگوٹ ملا، بعینہ درج کیا جاتا ہے۔  
محترم و مکرم!

السلام علیکم۔ برادر عزیز مولوی سید محمد ازہر شاہ صاحب قیصر نے  
حضرت استاد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند عربی و فارسی  
قصائد میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں ان کو طبع کر دوں یا ان کا کسی تاج سے  
معاملہ ہو جائے مگر یہ خدمت تب ہی ہو سکتی ہے کہ ان تمام قصائد کا اردو زبان  
میں ترجمہ اور شرح بھی ہو جائے اور باقاعدہ مرتب بھی ہو جائے، اس کام کو  
آپ سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا، اگر تکلیف نہ ہو تو یہ خط دیکھتے ہی ایک  
دن کے لئے تشریف لے آئیں تاکہ میں بتا سکوں کہ میں اس سلسلے میں کیا  
چاہتا ہوں۔ والسلام۔

از لدھیانہ حبیب روڈ ۲۹ ستمبر ۱۹۳۶ء

حبیب الرحمن

ان ہی ایام میں حضرت اقدس رائے پوری کا والا نامہ آیا تھا، کہ  
حضرت مدنی کے امیدواروں کو کامیاب بنانا ہے میاں تاج الدین انصاری  
اور جمیعۃ العلماء کے نمائندے یکے بعد دیگرے آنے لگے، احقر کو کھنچ تان

کر لے گئے، احقر کئی ماہ تو گھر سے باہر دیہات ہی میں پھر تارہا، میرے پاس  
دیوبند سے حضرت مدنی بھی تشریف لائے اور ساتھ لے گئے۔

مولانا محمد علی جالندھری کے بھی خطوط آنے لگے اور کئی بار احقر کو  
اوگی ضلع جالندھر جانا پڑا، یہ احقر کا آبائی گاؤں بہت بڑی بستی ہے۔ مولوی  
محمد علی جالندھری کا پہلا پولنگ اشیش تھا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ملک میں  
فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ملک بدل گیا اور سارا نظام ہی درہم برہم  
ہو گیا۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

اب بھی اگر علماء الفاتحات فرمائیں تو یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ تقریر  
دلپذیر حضرت نانوتوی قدس سرہ کی اور ”اکفار الْمُلْحَدُونَ“ اور ”عقيدة  
الاسلام“، حضرت شاہ صاحب کے اور ”صدر النقاب عن جاسة الفتياں“  
اور ”ضرب الخاتم“، جب تک داخل درس نہیں کریں گے طلبہ پر مسائل اور  
عقائد کی حقیقت نہیں کھل سکتی، علمی رنگ میں حل مسائل کا جب ہی ہو گا۔

ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے ایک ایک شعر ضرب الخاتم کا حل کیا ہے۔  
افسوس وہ خطوط ہمیں دستیاب نہ ہو سکے، جو حضرت شاہ صاحب نے ڈاکٹر  
اقبال کو تحریر کئے۔ بعض خطوط تو تیس تیس صفحات پر پھیلے ہوئے تھے، معلوم نہیں  
کہ علمی ذخیرہ کہا کھو یا گیا، خود فرماتے تھے، جتنا استفادہ مجھ سے ڈاکٹر محمد  
اقبال نے کیا ہے کسی مولوی نے نہیں کیا۔

ڈاکٹر صاحب علوم قرآن و حدیث پر کافی دسترس رکھتے تھے اور

مولانا امیر حسن صاحب سیالکوٹی مرحوم سے باقاعدہ پڑھاتا۔

حضرت کا قصیدہ "صدع القاب" جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا پہلا جلسہ ۱۹۲۳ء میں ہوا اور تمام علماء دیوبند کا اجتماع ہوا تو مولانا محمد اور لیں سیکر وڈوی خادم حضرت شاہ صاحب، حضرت شاہ صاحب کی تصانیف بھی ساتھ لاہور لائے یہ قصیدہ بہت فروخت ہوا، لوگوں نے اس کو احسان کی نظر سے دیکھا، وہ یہ ہے:

(چند اشعار بطور ثمنہ از خروارے درج کئے جاتے ہیں) قصیدہ ۶۱ (اکٹھ) اشعار پر مشتمل ہے۔

الا یا عباد اللہ قوموا قوموا  
خطوبا الملت مالهن یدان  
اے اللہ کے بندوان خواونا قابل برداشت مصائب ثوٹ پڑے ہیں  
ان کو درست کرو۔

یسب رسول من أولی العزم فيکم  
تکاد السماء والأرض تنفطران  
ایک او اول العزم پیغمبر کو تمہارے اندر برائیکھلا کہا جا رہا ہے جس سے  
قریب ہے آسمان اور زمین پھٹ پڑیں۔

وحارب قوم ربهم ونبيهم  
فقوموا النصر اللہ اذ هو دان  
اور ایک قوم نے اپنے خدا اور نبی سے لڑائی باندھی، تم اللہ کی مدد کے

لئے کھڑے ہو جاؤ جو کہ نزدیک ہے۔  
وقد عیل صبری فی انتہاک حدودہ  
فهل ثم داع او مجیب اذان  
اور خدا کی حدود توڑے جانے کے باعث میرا صبر مغلوب ہو گیا پس  
ہے کوئی اس جگہ بلانے والا یا میری آواز کا جواب دینے والا؟  
وإذ عز خطب جئت مستنصرًا بكم  
فهل ثم غوث یا لقوم یدان  
اور جب مصیبت حد سے بڑھ گئی تو میں تم سے مدد چاہنے آیا، پس  
اے میری قوم ہے کوئی فریادرس جو میرے قریب ہو۔  
لعمرى لقد نبهت من کان نائما  
واسمعت من کانت له إذنان  
تم ہے مجھے کہ میں نے سوئے کو جگایا اور جس کے کان تھے اس کو  
سنایا۔

وناديت قوما في فريضة ربهم  
فهل من نصير لى من أهل زمان  
اور قوم کو اس کے خدا کے فریضہ کی طرف بلایا، پس ہے کوئی جو میرا  
مددگار ہو زمانے والوں میں سے۔  
دعوا كل أمر استقيموا المادھى  
وقد عاد فرض العين عند عيان

سب کچھ چھوڑ دو اور جو مصیبت در پیش ہے اس کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر آنکھ کھول کر دیکھا جائے تو ہر شخص پر فرض عین ہو گیا ہے۔ پھر اگلے اشعار میں دلائل اور شواہد ذکر فرمائے گئے ہیں، یہ قصیدہ اس لائق ہے کہ علماء طلباء کو یاد کرائیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعمش نے ایک صاحب کو تعریت نامہ لکھ کر بھیجا۔

إِنَّا نَفْرَيْكُ لَا إِنْ عَلَى ثَقَةٍ  
مِنَ الْبَقَاءِ وَلَكِنْ سَنَةُ الدِّينِ  
فَلَا يَمْعَزِي بِبَاقِ بَعْدِ مِيَةٍ  
وَلَا يَمْعَزِي إِنْ عَاشَا إِلَى أَحَيْنِ

(ترجمہ) ہم آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، لیکن یہ سنت ہے دین کی، پس نہ تو معزی باقی رہے گا اپنی میت کے بعد نہ تعریت کرنے والا اگرچہ ایک زمانے تک جیتے رہیں، (آخر بہ کو موت ہے)

جَبْ قَضَاكُهُرِيْ تُو پھرَ كِيْ سَوْ بَرْسَ يَا إِيْكَ دَنْ (محمد غفرلہ)  
فَرِمَايَا حافظ ابو زرع رازی نے فرمایا کہ جرجان میں آگ لگنے سے ہزار ہاگر جل گئے اور قرآن بھی جلے لیکن یہ آیات نہ جلیں۔

﴿ذلک تقدیر العزیز العلیم﴾، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتوْكِلَ  
الْمُؤْمِنُونَ﴾، ﴿وَلَا تَحْسِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾،

﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾، ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، ﴿تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ  
الْعُلَىِ، الرَّحْمَنُ عَلَىِ الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرْقِ﴾، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ  
وَلَا بَنْوَنٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ﴾، ﴿إِنَّهَا طَوعًا أَوْ كَرْهًا  
قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعَيْنِ﴾، ﴿وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا  
لِيَعْبُدُوْنَ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيْنِ﴾، ﴿وَفِي  
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوْعَدُوْنَ، فَوْرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ  
لِحَقٍّ مُّثْلٍ مَا أَنْكُمْ تَنْتَقِلُوْنَ﴾.

☆..... فرمایا تجربہ ہے کہ آیات مذکورہ لکھ کر کسی برتن میں بند کر کے دوکان گھر یا سامان میں رکھنا حافظت کے لئے مجبوب ہے۔

☆..... فرمایا کہ ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر ہر سوت کی آخری آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں تو لاعاج مرض کے لئے مفید ہے، یہ ایک سو چودہ دم ہو گئے۔

☆..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض بعض علاقوں میں بھیج دیا تھا مثلاً ابوالدرداء کو شام کی طرف تعلیم

کی خاطر بھیجا تھا، اور حضرت ابن مسعود کو کوفہ کا بیت المال پر درکیا، اور حضرت عمار کو امامت کے لئے بھیجا تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا امیر بنایا تھا اور حضرت فاروق اعظم نے کوفہ کو چھاؤنی بنایا تھا۔ اور فتح القدیر میں لکھا ہے کہ ایک فرقیہ میں چھوٹے صحابہ آباد تھے۔ الحاصل صحابہ کرام مختلف بلاد میں اسلام کی تبلیغ و تعلیم وکلہ اسلام کو پھیلانے کے لئے نکل گئے تھے۔

سو اگر مالکیہ کو فخر ہے اس بات پر کہ ان کا امام دارالجہرۃ کے رہنے والے تھے تو ہمیں بھی یہ مسلم ہے کہ واقعی امام مالک امام دارالجہرۃ تھے، لیکن امام ابوحنیفہ کو بھی اس میں فوقیت حاصل ہے کہ اکثر صحابہ عراق میں بس گئے تھے، اور وہیں علم تھوڑا دوں ہوا، کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء حضرت علی مرضیٰ سے ہوئی، آب نے ایک آدمی کو سنا کہ یہ آیت: إن الله برسىء من المشركين و رسوله، میں رسولہ کو کسرہ سے پڑھ رہا تھا تو آپ کو فکر ہوئی کہ امت کو ان مہا لک سے کیسے بچایا جائے؟ تو آپ نے ابوالاسود دؤلی کو فرمایا کہ ایک قانون ایسا بناؤ کہ خطأ لفظ سے لوگ محفوظ رہیں، پھر خود آپ نے ان کو ایک اصول بتایا: کل فاعل مرفوع، و کل مفعول منصوب و کل مضاف إلیه مجرور۔

پھر فرمایا: انح نحوه، پھر اسود دؤلی نے اس کی مذوین افعال تجب سے شروع کی، حضرت علیؓ نے تصویب فرمائی، پھر حروف مشہب بالفعل لکھے، مگر وکن چھوڑ گئے، حضرت علیؓ کے فرمانے پر اس کو بھی لکھا، غرض حنفیہ کو بھی فضیلت ہے۔

☆..... فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے: "إِنَّمَا أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءَ ظَهَرِيْ" یہ دیکھنا بطور مجاز ہے تھا، ایسا ہی ثابت ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور فلسفہ جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ قوۃ باصرہ تمام اعضاء انسانی میں ہے۔

☆..... ار کعوا اور اقیمو الرکوع میں فرق ہے ثانی ابلغ ہے، اس لئے کہ یہ لفظ وہاں مستعمل ہوتا جہاں لولاہ لانعدم الشیء مراد ہوتا ہے، لہذا ترجمہ قول یقیمون الصلاۃ کا یہ کریں گے کہ برپار کہتے ہیں نماز کو حتیٰ کہ اگر برپا نہ رکھے تو اس کی ہستی جاتی رہتی۔

☆..... ہمارے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ سبحانک الهم وبحمدک بعد تکبیر کے پڑھے، اور مسلم شریف میں آیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس کو جبرا پڑھا ہے، یہ محض تعلیما تھا، امام شافعی کے نزدیک مختار الهم باعده ہے یہ سند کے اعتبار سے قوی ہے، اور جو ہمارا مختار ہے وہ قوۃ تعامل کے اعتبار سے قوی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی وہی پسند کرتا ہوں جس کو حضرت عمر نے پسند فرمایا۔

☆..... یہ بھی خوب یاد رکھنا چاہئے کہ قوت سند پر اغتراء اور تعامل سلف سے ان غاض بہت دفعہ مضر ثابت ہوا ہے کہ اسناد تو دین کی صیانت کے لئے تھی پس لوگوں نے اسی کو پکڑا حتیٰ کہ تعامل سے ان غاض ہوتا چلا گیا حالانکہ میرے نزد یک فیصلہ تعامل سے ہی ہو سکتا ہے۔

☆..... فرمایا کہ سورۃ مزمل میں نصفہ بدل واقع ہو رہا ہے اللیل سے، اس لئے کہ ثلث تو عشاء کے لئے مخصوص کیا گیا نصف سے جب قلیل کی کمی کی گئی تو ثلث رہ گیا اور اگر نصف میں زیادتی کی تو تلشیں قیام لیل کے لئے رہ گیا، اور منہ اور علیہ کی ضمیریں نصف کی طرف عود کرتی ہیں، بہر حال محور نصف لیل ہے یہی کلبی اور مقاتل سے منقول ہے، اور عزیزی سے بھی منقول ہے کہ مادون الثلث قلیل ہے، حدیث میں ہے کہ الثلث کثیر، گویا عبارت یوں ہے:

قَمُ الْلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلٌ نَصْفُهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زَدَ عَلَيْهِ أَوْ أَوْقَعَ الْقِيَامَ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُعْلُومَ عَلَى هَذِهِ الصُّورِ.

قرآن عزیز نے پہلے سے ثلث لیل عشاء کے لئے لیا چنانچہ ثلث لیل تک نماز عشاء مستحب تھہرائی گئی، کمانی الاحادیث باقی حکم اس کے مساوا کی طرف پھیرا گیا اور اس کا محور نصف لیل رکھا گیا، اور اس پر کم کرنا یا زیادہ کرنا دائرہ کیا گیا۔ گویا اپنی طرف سے تو نصف ہی مقرر کرتے ہیں اور اس سے کچھ کم کرنا یا زیادہ کرنا سو مصلحی کو اختیار دیتے ہیں: مِنَ الْلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ

بہ نافلہ لک میں بھی کل لیل کا احصا مطلوب نہیں۔

☆..... فرمایا کہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیقؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، یہ روایت دارقطنی میں منصر آئی ہے اور امام بخاری نے اس کو مفصل ذکر کیا ہے۔

شیخ نبوی نے اسے ایک وتر کی دلیل بنایا ہے امام بخاری نے اس میں تیرہ رکعات صلاة اللیل ذکر کی ہیں ان دونوں کی ایک ہی سند ہے، ایک ہی متن ہے، یہ راوی کا تلفظ ہے جب جمع طرق حدیث جمع نہ کئے جائیں تو ایسا مخالف الطالب گ جاتا ہے۔

☆..... فرمایا یا ایہا المزمل (آلیت) میں رات کے تین حصے کر دیے، ثلث تو عشاء کے لئے خاص کر دیا اور ثلث لیل آخر نوافل کے لئے پھر سد س لیل کو دونوں کے لئے صالح بنایا، اگر اس میں عشاء ادا کی تو نصف لیل عشاء کے لئے ہو گیا، اور اگر نوافل ادا کئے تو دو ثلث لیل ہو گئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہئے کہ نصف مد نظر رکھیے تاکہ آپ تقسیم کر سکیں (رات کو تقسیم کر سکیں عشاء اور صلاة اللیل میں) نصف میں جب سد س لیل مل گیا تو دو ثلث نوافل کے لئے نکل آیا، خوب سمجھ لیتا چاہئے۔ حضرت شاہ صاحب اکثر اوقات یہ تقریر فرمایا کرتے تھے۔

☆..... جب احقر حضرت کے وصال پر دیوبند حاضر ہوا تو غالباً مفتی عقیق الرحمن فرماتے تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب حیدر آباد دکن تشریف لے گئے تو مولانا حبیب الرحمن شیر وانی صدر یار جنگ زیارت کے لئے تشریف لائے ان کے سوال پر تقریر فرمائیں اور یا ایساہا المزمل کی تفسیر فرمائی، مولانا حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت بس مسئلہ خوب ذہن نشین ہو گیا مجھے بڑا خلجان رہتا تھا ب صاف ہو گیا۔

مفتی عقیق الرحمن نے بیان فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کے سفر آخرت فرمانے سے چند یوم قبل درودات پر حاضر ہوا، فرمایا کہ میں نے کبھی پیشگوئی نہیں کی اب تو دو باتیں ذہن میں آگئی ہیں عرض کرہی دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت شیخ الہند کے علوم کی خوب اشاعت ہو گی دوم ہندوستان ضرور آزاد ہو گا، اس لئے کہ مظالم کی انتہا ہو گئی۔ یہ جب کی بات ہے جب کہ حضرت شاہ صاحب کا وصال کا تاریخ، اور ایک ساتھی کے ہمراہ دیوبند حاضر ہوا تھا یہ واقعہ رائیگوٹ ۱۹۳۳ء کا ہے۔

☆..... ۱۳۳۸ء میں جب شیخ الہند ہندوستان میں واپس تشریف لائے اور مولانا سراج احمد صاحب نے چند اشعار فرمائے تھے، (مولانا مرحوم اردو کے بہترین شاعر بھی تھے) دیوان حماسہ تو حفظ یاد تھا، کئی ماہ تشریف آوری سے قبل فرمادیا تھا:

شیخ آنے کو ہے ساتھاں کے فتنے آنے کو ہے

فتی سے مراد مولانا حسین احمد مدفنی ہیں۔ دیوبند کے ایک تعزیتی جلسہ میں حضرت مدفنی نے فرمایا تھا:  
حال من در بھر حضرت کتر از یعقوب نیست  
او پرس گم گردا بود و من پدر گم کردا ام  
حضرت شیخ الہند کی تشریف آوری ہوئی تو ایک مخلوق جمع ہو گئی پنجاب سے ہزاروں علماء زیارت کے لئے دیوبند پہنچے، سندھ کے مشائخ میں سے حضرت مولانا تاج محمود امرؤی بھی تشریف لائے تھے، یہ بزرگ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی کے مرتبی تھے، مولانا احمد علی کا بھی ان سے تعلق تھا۔

ف: حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مترجم قرآن مجید تو خوب اشاعت پذیر ہوا، بجنور کے مطبوعہ قرآن مجید میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا گیا، منتشری محمد قاسم لدھیانوی مرحوم جن کا مولانا مجید حسن صاحب نے انتخاب کیا کتابت عربی رسم الخط کے استاد تسلیم کر لئے گئے تھے۔ صحت کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ اور بھی کئی ایڈیشن شائع ہوئے، لیکن وہ خوبی نظر نہیں آئی جو بجنور کے طبع شدہ قرآن عزیز میں تھی۔ ہالگ کا گل میں بھی ایک ایڈیشن شائع ہوا، کاغذ تو نہایت اعلیٰ لگایا گیا لیکن صحت کا التزام نہیں کیا گیا پھر بھی غنیمت ہے لاہور میں تاج کمپنی نے بھی اعلیٰ معیار پر شائع کیا ہے، لاہور اچھرہ سے قاری عبدالرشید مالک نورانی پریس نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ لیکن وہ بجنور والی بات کہاں؟

دوسری بات جو حضرت شاہ صاحب نے فرمائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، کاش ائذیا والے اس کی قدر کرتے۔ ۱۹۲۷ء میں مسی کے اوآخر میں جب کشمیر طویل رخصت پر تشریف لے جا رہے تھے گوجرانوالہ دودن قیام فرمایا، مولانا عبد العزیز صاحب محدث گوجرانوالہ سے بدائع الفوائد ابن قیم کی مستعار طلب کر رہے تھے کہ مولانا حسین احمد صاحب حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے ترجمہ قرآن پروفونڈ لکھیں گے، مولانا ہم سے پوچھتے تھے تو وعدہ کر لیا تھا کہ ہم سامان آپ کو دیں گے مولانا عبد العزیز نے یہ کتاب تازہ مصر سے منگائی تھی، اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں دکھانے کے لئے پیش کر رہے تھے۔

یہ بھی فرمایا قسطنطینیہ سے مولانا عبد اللہ سندھی کا ہمارے پاس خط آیا ہے کہ امام بقائی کی کتاب ”السلک الدر فی نق الشعائر“ آیات اور سورتوں کی ترتیب میں بہترین ہے، ایک زمانے میں ہم نے بھی یہ کتاب دیکھی تھی بڑی عمدہ کتاب ہے، لیکن مصنف چونکہ معتزلی العقیدہ ہے اس لئے مجھے چند اس پسند نہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارن پوری قدس سرہ بھی کئی بار تشریف لاتے رہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی دوبار تشریف لائے، حضرت شیخ الہند ترجمہ القرآن کا مقدمہ خود زبان مبارک سے ناتے تھے ان دونوں احقر دورہ کی جماعت میں شامل تھا، بیعت بھی چونکہ حضرت شیخ الہند سے تھی اس لئے کئی بار دون میں حاضری ہو جاتی تھی۔ اور حضرت کی زبان مبارک سے کئی بار یہ مقدمہ سننا۔

میرٹھ سے مولانا عاشق الہی میرٹھی مرحوم جب تشریف لائے تو بعد عصر خوب خوش ہو کر سنار ہے تھے ایسا ہی جب حضرت تھانوی تشریف لائے تو حضرت شیخ نے بڑے اہتمام سے سنایا۔

جب لدھیانہ میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے تو فرمایا ہم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے اور دیوبند میں بار بار مولانا شبیر احمد صاحب سے عرض کیا کہ سلف کے طریق پر ایک تفسیر لکھنی چاہیئے جس میں موجودہ فتن کا رد ہو، دس پارے میں لکھتا ہوں اور دس دس آپ حضرات لکھیں، یا مولانا خلیل احمد صاحب کی بجائے مولانا شبیر احمد صاحب لکھیں پھر اس کو یورپ میں اعلیٰ کاغذ اور اعلیٰ طباعت سے شائع کیا جائے، تاکہ موجودہ دور میں ان فتن خصوصاً قادیانیت کا رد بھی ہو جائے اور محمد علی لاہوری کے الحاد اور دجل پر دنیا مطلع ہو سکے۔

پار سال ۱۹۶۳ء میں احقر کے نام جنوبی افریقہ سے متعدد خطوط آئے کہ ہم نے ایک سو سائی ترجمۃ القرآن کرنے کے لئے بنائی ہے، یہاں کی زبان یا تو افریقی ہے یا لوگ اکثر انگریزی بولتے ہیں خاص کر یورپیں لوگ اسلام کو سمجھنے کے لئے قرآن کا انگریزی ترجمہ چاہتے ہیں، آپ مشورہ دیں کہ ہم کون سا قرآن منتخب کریں؟ احقر نے ان کو لکھا کہ حضرت شیخ الہند کے ترجمہ کا قرآن شائع کریں اور ایسے عالم دین سے انگلش میں ترجمہ کرائیں جو دینی علوم کا بھی ماہر ہو اور انگریزی زبان پر پوری دسترس رکھتا ہو تاکہ عقائد

اور ان کا انگریزی ترجمہ کرنے میں دھوکہ نہ کھائے۔  
الحمد للہ! ان لوگوں نے کروڑوں روپے سے یہ کام شروع کیا ہے خدا  
کرے تکمیل کو پہنچ جائے، اور حضرت شاہ صاحب کشمیری کے خواب کی تعبیر  
عملی جامدہ پہن لے، اس اہم بات کو جس کے پاس بیان فرماتے اس وقت  
آپ کو بڑی ہی رفت ہوتی۔ اللهم برد مضجعه.

☆..... بہاولپور کے مقدمہ میں شہادت کے لئے جب تشریف لے  
گئے تو ان دونوں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا احمد سعید صاحب  
دہلوی سترل جیل ملتان میں تھے۔ حضرت نے بڑی لجاجت کے ساتھ دونوں  
حضرات سے ذکر کیا، مولانا احمد علی صاحب سے لاہور میں تاکید افرمایا کہ یہ  
کام ضرور کرو، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم حضرت رائپوری کو  
سنارہے تھے۔ (یہ لدھیانہ ہی کی بات ہے جب حضرت رائے پوری ۱۹۲۱ء  
میں لدھیانہ تشریف لے گئے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ  
میرے مکان پر لاہور سے اپریل ۱۹۳۳ء واپسی پر تشریف لائے، وزیر تعلیم  
عبد الحجی ایڈو ویکٹ حضرت کی زیارت کے لئے آئے، معا حضرت نے فرمایا  
کہ وزیر صاحب کچھ فارسی کا بھی ذوق ہے؟ عرض کیا ہاں کچھ ہے۔ تو فوراً  
خاتم النبیین کا مسودہ نکال کر سنانے لگے، پھر فرمایا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو دین  
محمدی کی کچھ خدمت کر جائے۔  
وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب بعد مغرب تابوت

حضرت شیخ الہند کا دہلی سے دیوبند اشیش پر آیا، غالباً ربیع الاول ۱۳۳۹ھ تھا،  
تمام اکابر ساتھ تھے حضرت شاہ صاحب کے آنسو نہیں تھتھے تھے، طباء و اہل  
دیوبند کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار کرنا مشکل تھا، جوں ہی ریل گاڑی بعد مغرب  
اشیش دیوبند پہنچی سب کی بے ساختہ چیزیں نکل گئی، نہایت ادب کے ساتھ  
تابوت شریف باہر لایا گیا، اشیش سے مدرسہ تک آدمی ہی آدمی نظر آتے  
تھے، تابوت اٹھائے ہوئے تھے، اور روتے ہوئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ  
علیہ کے در دولت کی طرف آرہے تھے۔

حضرت شاہ صاحب بھی ساتھ ساتھ روتے ہوئے تشریف  
لارہے تھے۔ خود فرماتے ہیں: ولم ار مثل الیوم کم کان با کیا۔ یعنی  
اس دن کتنے لوگ رورہے تھے۔ ایسا نظارہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں  
دیکھا۔

پھر ایک دن تعزیتی جلسہ ہوا، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب  
رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی سب ہی اکابر نے مریشے پڑھے، حضرت شاہ  
صاحب کھڑے ہوئے آنسو جاری تھے۔ وقصیدے ایک عربی مریشہ جو فصل  
الخطاب کے آخر میں لگا ہوا ہے پہلے وہ پڑھا۔

قفاتك من ذكرى مزار فند معا  
مصليفاً ومشتا ثم مرأى ومسمعا  
قد احتفه الالطاف عطفاً وعطفة  
وبورك فيه مربعا ثم مربعا

پھر فارسی کا طویل قصیدہ پڑھا سب حاضرین وقف گریا و بکا تھے۔

بگذر از یادگل و گلبن کہ بچم یاد نیست

در ز میں و آ سماں جز نام حق آباد نیست

بر رو ای رہرو ای با رحمتے بغرتہ باش

حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست

شرح حال خود نمودن شکوه تقدیر نیست

نا لہ بر سنت نمودن نوحہ فریاد نیست

پھر فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی سنت  
کے مطابق حزن و ملال کا اظہار کیا ہے حضرت صدیق اکبر نے بھی مریشہ پڑھا  
ہے اس لئے آنسو بہانا یغم کا اظہار کرنا بادعت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت  
ہے۔

(ف) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت ابراہیم  
صاحبزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ نے فرمایا تھا، انا بفرافک  
یا ابراہیم لمحزونون۔ اور آنسو جاری تھے طویل قصیدہ ہے بڑا دردناک  
رقت انگیز۔

☆ ..... ۱۹۲۹ء کے مارچ کے مہینہ میں لاہور میں خدام الدین  
شیرانوالہ گیث مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع کیا، اس میں  
حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم، مولانا حبیب الرحمن صاحب

لدھیانوی نے ولوں انگیز تقریر کی، مولانا عطااء اللہ شاہ بخاری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے شخخ کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے تو حضرت شاہ صاحب کشمیری اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مظفر گڑھ کے جلسہ میں یہ عطااء اللہ صاحب بوقت شب میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ ذکرا ذکر اذکار تلقین کیجئے ہم نے ان کو کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیا۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ رد قادیات کے سلسلے میں سپاہیانہ خدمت کیجئے، لہذا میں آپ صاحبان کے سامنے ان کو امیر شریعت مقرر کرتا ہوں، آپ حضرات کو بھی ان کا اتباع کرنا چاہیے، سید عطااء اللہ صاحب کھڑے رو رہے تھے۔ اور حضرت شاہ صاحب کشمیری کے بھی آنسو جاری تھے، بلکہ تمام مجمع پر رقت کا عالم تھا ہمارے حضرت رائے پوری بھی فرمار ہے تھے کہ مولانا حبیب الرحمن اور سید عطااء اللہ شاہ صاحب کو حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رو قادیانیت پر لگایا۔

مولانا سید عطااء اللہ شاہ صاحب خود حضرت رائے پوری کی خدمت میں سنار ہے تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تو میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے ہمراہ تھانہ بھون گیا۔ حضرت تھانوی نہایت شفقت سے ملنے اور مجھے بغل میں لے کر مسجد کے حوض سے سر دری میں جہاں حضرت تھانوی بیٹھتے تھے لے گئے، میں نے عرض کیا کہ حضرت! اب آپ ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں، ہمارے سر پرست تو رخصت ہو گئے تو حضرت تھانوی فرمانے لگے ابھی شاہ صاحب کے کیا کہنے میں تو مولانا انور

شah کے وجود کو اسلام کی حقانیت کی دلیل سمجھتا ہوں، جیسا کہ امام غزالی کے متعلق لکھا ہے۔

مولانا خیر محمد صاحب نے میانی افغانستان ضلع ہوشیار پوری کے سفر میں جب کہ ہم دونوں وہاں جلسہ میں گئے تھے تو مولانا نے راستے میں بیان فرمایا تھا، یہ ۱۹۳۷ء کا واقعہ ہے تفہیم ملک سے پہلے کی بات ہے مولانا الحضر کو سار ہے تھے۔ قوله تعالیٰ: ﴿بَلِّيْ مِنْ كَسْبِ سَيِّنَةٍ وَأَحْاطَتْ بِهِ خطیثہ فاؤلشک أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ اس کے ذیل میں وجہ یہود کے قول: ﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ بیان کی اور انکار متواترات دین بھی کفر ہے۔ بنی اسرائیل کے اعتقاد فاسد اور ان کی غلط روشن اور تحریف کا یہ نشانہ تھا کہ چونکہ ہر شریعت میں معاصی کے دو مرتبے رکھے ہیں، ایک یہ کہ معاصی کو معاصی ہی اعتقاد کرے اور ملت حق کا اتباع واجب جانتا ہو، ہاں عمل میں مخالفت کرتا ہو، مثلاً یقین سے جانتا اور مانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے ایسا ہی زنا، چوری لواطت بھی حرام ہے، کبائر ہیں لیکن طبعی حجاب کے باعث اس سے ان چیزوں کا صدور ہو جاتا ہے، اس مرتبہ کا نام فتنہ و فجور عصیان ہے۔ العیاذ بالله۔ اس کو وعدید عذاب آخرت تو شریعت مقدسہ نے دیا ہے۔ لیکن وہ ایک مدت مقررہ عند اللہ کے بعد ختم ہو جائے گا عذاب دائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یقین اور اعتقاد رائیگاں نہیں جائے گا، بلکہ عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، یعنی عذاب دائی نہ ہوگا۔

دوم یہ کہ اعتقاد بھی موافق شریعت حق کے نہ ہو مثلاً جو چیز کے نفس

الامر (حقیقت) میں ثابت ہے خواہ از قسم الہیات ہو یا قیامت کے متعلق ہو خواہ شعائر اللہ کے متعلق ہو مثلاً اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو، یا رسولوں یا احکام متواترات دین کا انکار کرتا ہو، اس کو جو دا اور کفر، زندقة اور الحاد کہتے ہیں، اس کے متعلق آخرت میں دائیٰ عذاب کی وعدید نتائی گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں الفاسق لا يخلد في النار، چونکہ ملت حق اس زمانے میں صرف یہود تھے جو کہ بنی اسرائیل تھے وہ اپنی عبادت سے یہ سمجھ گئے کہ بنی اسرائیل کو عذاب دائی نہیں ہوگا۔ اور غیر بنی اسرائیل کو عذاب دائی ہوگا، اس فرقے نے اپنی کندڑہ نی سے فرق عنوان میں اور معنوں میں نہ کیا، اور کہہ دیا کہ ﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ﴾。 حق تعالیٰ شانہ نے اول تو اس طرح رد کر دیا کہ کیا تم نے خدا سے کوئی عہد اس پر کیا ہوا ہے ﴿أَتَخْدِّتُمْ عَنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کیوں کہ اصل کلام میں تو تخصیص بنی اسرائیل اور یہود کی نہ تھی بلکہ نصوص تو مطلقاً اہل حق کا ذکر کرتی ہیں۔

پس نص صحیح غیر مائل جس کو عہد کہتے ہیں اس باب میں مفتوح تھی، اور تاویلات اعتقادیات اور اصول دین میں اس قابل نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

نیز یہ بھی کہ اس تحقیقی بیان سے ان کے شبے کو حل فرمادیا کہ ﴿بَلِّي منْ كَسْبِ سَيِّنَةٍ وَأَحْاطَتْ بِهِ خطیثہ﴾ کہ فزاد علم و عمل اور خرافی عقیدہ و اعمال اس حد تک پہنچ جائے کہ ذرہ برابر مقدار بھی ایمان باقی نہ

رہے، موجب خلود فی النار کا ہے جس فرقہ میں بھی پایا جائے گو بظاہر کلمہ گوہی ہوا اور دعویٰ بھی دینِ داری کا رکھتا ہو، یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ محضیت کی قباحت کا اعتقاد ختم ہو جائے، زبان ہی سے انکار کرنا شرط نہیں بلکہ یہ اعتقاد ہو جائے کہ ہمارے ذرانے کے لئے یہ حکمی دی ہے، والعياذ بالله ثم العياذ بالله.

مرا جمعت کرو فتح العزیز کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے: ﴿وَابْتَغُوا مَا تَنْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ یعنی انہوں نے اتباع کیا اس کا جس کو پڑھتے ہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اب تک۔ ﴿وَمَا كَفَرَ سَلِيمَانٌ﴾ یعنی حصر اور اس کا مادہ کفر ہے یا مشکل کفر کے ہے، ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمُلْكِينَ﴾ إلخ۔ اس کا عطف ماتنلو پر ہے، اس سے یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ ہاروت و ماروت پر اتر اتحادہ حصر ہی تھا، بلکہ عطف تو مغارت پر دلالت کرتا ہے، محض لفظوں میں قرآن کے باعث یہ وہم ہوتا ہے بلکہ وہ ایسے عزائم میں سے تھا جس کا مادہ شرمند ہو بلکہ نتیجہ اس کا شر ہوتا ہے، مثلاً ادویہ طبعیہ مثلاً (ایسے گول اس کا لعاب پیتے ہیں اگر اس کو چبائیں تو زہر ہو جاتا ہے) یا جیسے کہ عمل سفلی کرتے ہیں کسی کو ہلاک کرنے کے لئے حالانکہ کسی کو جان سے مار دینا یہ تو حرام ہے۔ ﴿حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَّةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ وہ دونوں یہ کہتے تھے کہ تو کفر نہ کریو، یعنی ہم سے سیکھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرنا، جس کا نتیجہ برائٹکلے، اور غایت تشنج کے باعث اس کو کفر فرمایا گیا، اس واسطے بھی کہ وہ حصر کے ساتھ ملتبس ہونا ہے،

۱۶۱  
مثلاً کوئی وظیفہ اپنی تکلیف رفع کرنے کے لئے سکھے، پھر اس کو استعمال کرے، دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لئے یہ منع ہے، تفریق زوج اور زوجہ میں توفیق ہے کفر نہیں ہے۔

اور بہت کم سلف اوہر گئے ہیں، کہ ہاروت و ماروت پر تعلیم دینے کے لئے سحر نازل ہوا تھا، بلکہ حضرت علیؑ کے ایک اثر سے تو اسمِ اعظم تھا، دیکھو جوابن جریر نے ریقع سے نقل کیا ہے، اور اس کو ابن کثیر نے جید کہا ہے، بلکہ تابعین کی ایک جماعت مثل مجاهد، سدی، ریقع ابن انس، حسن بصری، قادہ، ابوالعالیٰ، زہری سے مردی ہے کہ اس میں کوئی حدیث مرفوع متصل صحیح سند سے صادق و مصدق و معصوم سے ثابت نہیں، اور ظاہر قرآن بھی یہی چاہتا ہے، کہ اس اجتہاد پر ایمان لایا جائے بغیر اتناب کے۔ اور موضع القرآن میں یہ حدودن فی أسمائہ میں حضرت شاہ عبدالقدار صاحب نے اس کو واضح ترین الفاظ میں لکھا ہے ﴿وَالذِّي يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف بتائے ہیں وہ کہہ کر پکارو، تاکہ تم پر متوجہ ہو اور نہ چلو کچھ را، کچھ را یہ ہے کہ جو وصف نہیں بتلائے بندا وہ کہے، جیسا اللہ تعالیٰ کو بڑا کہا ہے لمبا نہیں کہا، یا قدیم کہا ہے پرانا نہیں کہا، اور ایک کچھ را یہ ہے کہ ان کو حصر میں چلائے، اپنے کئے کا پھل پار ہیں گے، یعنی قرب خدا نہ ملے گا، وہ مطلب ملے گا بھلا ہو یا برآ۔

یا یوں بھی ممکن ہے کہ اس کی تقریر کی جائے کہ یہود جو کچھ ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے وہ جو حر انہوں نے شیاطین سے سیکھ رکھا تھا، ان دونوں

میں خلط ملط کرتے تھے، پس ظاہر اور غیر ظاہر کے ملنے سے خبیث پیدا ہو، لہذا وہ دونوں یوں کہتے تھے۔ فلاتکفر پس یہ ایسا ہوا جیسے قوله تعالیٰ: ﴿يُضْلِلُ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ بس یہ باعث کفر کا بالذات نہ ہوا بلکہ بالعرض ہوا، جیسے علم دین پڑھے، لیجاري به العلماء او لیماری به السفهاء، پس وہ علم اس کے لئے وبال بن جاتا ہے۔ ایک جماعت سلف سے ادھر بھی گئی ہے کہ یہاں مانا فیہ ہے۔

☆ ..... ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو موضح القرآن میں شاہ عبدال قادر رحمۃ اللہ علیہ نے خوب واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بھیجیں اور نبی متعدد بھیجے، اس لئے نہیں کہ ہر فرقے کو جدی راہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک نبی راہ ہے جس وقت اس راہ سے کسی طرف بچتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا کہ ان کو سمجھائے کہ اس راہ پر چلیں پھر کتاب والے کتاب سے فج لے تب دوسری کتاب کی حاجت ہوئی، سب کتاب میں اور سب نبی اسی ایک راہ کو قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تندرتی ایک ہے اور امراض بے شمار، جب ایک مرض پیدا ہوا تو ایک دوا اور پرہیز اس کے موافق فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسرا دوا اور پرہیز اس کے موافق فرمایا، اب آخری کتاب میں ایسی دوا بتلائی کہ ہر مرض سے بچاؤ ہے، یہ سب کے بد لے کفایت ہوئی۔

ہدایہ کے معنی طریق حق اور صواب کی طرف راہنمائی کرنا اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، لوگوں نے اختلاف کیا، یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ اسلام لائے اور بعضوں نے ترک کر دیا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی قرأت میں لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنِ الْإِسْلَامِ ہے، ابْحَرُ الْجَحِيدَ - چنانچہ ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبِيْنَةِ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّيْنُ حَنْفَاءَ﴾۔

(ف) معلوم ہوا کہ سب کو حنفیہ بنے ہی کا حکم ہوا ہے اور یہ اسلام میں ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے واضح ہے۔

☆.....

ابھی فروری ۱۹۷۵ء میں مولانا غلام نبی صاحب فاروقی شرق پور سے تشریف لائے مولانا فاضل دیوبند اور حضرت شاہ صاحب سے دورہ حدیث شریف پڑھا ہے، تقریباً ۲۳ گھنٹے قیام فرمایا، اور حضرت شاہ صاحب کا تذکرہ فرماتے رہے، بڑے فاضل ہیں مردان کے علاقہ کے باشندے ہیں، جب میں نے باچشم نم بہاول پور کے مقدمہ کا تذکرہ کیا اور یہ کہ حضرت نے جامع مسجد بہاول پور میں وعظ فرمایا کہ میں نے ڈا بھیل جانے کے لئے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ بہاول پور کا خط پہنچا کہ تو قادیانیوں کے خلاف شہادت دینے کے لئے آ، تو ہم نے سوچا کہ ہمارا اعمال نامہ تو سیاہ ہے ہی، شاید یہی بات پیغمبر برحق کی شفاعت کا سبب بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار ہو کر

بہاولپور میں آیا تھا، یہ سنتے ہی مولانا بے قرار ہو گئے اور رفت طاری ہو گئی۔ جب تک حضرت شاہ صاحب میں حیات رہے حضرت مولانا احمد علی صاحب جلسہ کرتے رہے، جب وصال فرمایا پھر بھی جلسہ نہیں کیا جب تک دہلی قیام رہا حضرت شاہ صاحب کی زیارت کے لئے دیوبند تشریف لاتے رہے، جب لاہور تشریف لے آئے اور حضرت شاہ صاحب ۱۹۲۱ء میں لاہور اچھرہ ترددید قادیانیت کے سلسلہ میں تشریف لائے اور میاں قمر الدین صاحب مرحوم نے زیارت کی اور تقریریتی، تو حضرت سے عقیدت ہو گئی۔ پھر لاہور وزیر خان کی مسجد میں مولانا دیدار علی کی مسجد میں حضرت شاہ صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور بعد نماز تقریر فرمائی تو مولانا نجم الدین پروفیسر اور نئیل کالج لاہور بھی وہاں تشریف فرماتھے، فرمایا مولانا نجم الدین اور مولانا احمد علی بھی ہمارے علماء میں سے ہمارے ساتھ تھے۔

سب سے اول اہل لاہور کو حضرت شاہ صاحب کی زیارت کا موقع نصیب ہوا تھا، ڈاکٹر اقبال بھی اس وقت زیارت سے مشرف ہوئے تھے، احقر کا ان دنوں دورہ حدیث تھا، دیوبند واپس تشریف لے جا کر درس حدیث میں سارا سفر نامہ سنایا تھا۔

دسمبر ۱۹۳۲ء کے اوآخر میں ڈاکٹر اقبال حاضر ہو کر مولانا احمد علی صاحب دعوت دے کر آئے تو حضرت دو تین شب دیوبند تک پھر کرلاہور جلسہ میں شرکت کی غرض سے تشریف لے آئے، مولانا حسین علی صاحب وال بھرال، حضرت مولانا حسین احمد مدینی بھی تشریف لائے تھے۔ یہ جلسہ بڑی شان سے

ہوا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے صدارت فرمائی اور تقسیم اسناد بھی ترجمہ القرآن سے فارغ التحصیل علماء کو فرمائی تھی، واپسی دیوبند کے سفر میں احرar بھی حضرت کے ہمراہ تھا، امر ترپنچ کر کھانا کھایا، مولانا غلام مصطفیٰ کشمیری جو کہ رشتہ میں بھائیجے حضرت شاہ صاحب کے ہوتے تھے اور مولانا عبد اللہ صاحب فاروقی مرحوم بھی تھے، جب کھانا تناول فرمانے لگے تو ہم سب کو بھی شریک فرمایا احقر ادیاز میں پر بیٹھنے لگا تو پیچے کا کپڑا سر کا دیا، فرمایا ابھی! اسے کیوں اٹھاتے ہو، اسے بچھا ہی رہنے دو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اب تکلف چھوڑو بے تکلف بیٹھو۔

پھر بعد فراغت طعام احقر نے کچھ باطنی حالات سنانے شروع کئے ہوئے غور سے سنتے رہے پھر فرمایا کہ حالات سب مبارک ہیں، پھر دعا میں دیتے رہے، مولانا عبد اللہ صاحب مرحوم نے دریافت فرمایا کہ مولانا عبد القادر رائے پوری نے بھی آپ سے پڑھا ہے؟ فرمایا ہاں۔

☆..... امر تر سے کسی صاحب نے پھلوں کی پیٹیاں ساتھ کر دیں، مولانا غلام مصطفیٰ کشمیری سے فرمانے لگے کہ کوئی پھل نکالو، پھر فرمایا کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو پچھے کچھ مانگتے ہیں تو اس لئے کچھ پھل خرید کر ساتھ رکھ لیتا ہوں، بعض دفعہ سہارن پور یا دیوبند ہی سے کچھ لے لیتا ہوں، پچھے جب پوچھتے ہیں اباجی یہ وہیں سے لائے ہیں جہاں سے آپ آ رہے ہیں تو چشم پوشی کرتا ہوں اور مکرائے۔

☆ ..... بہاول پور کے سفر میں تشریف لے جاتے وقت یہ فرمایا کہ یہاں پر علماء سنٹرل جیل ملتان میں مقید ہیں ان سے ملاقات کر کے آگے گے جانا ہے اس لئے ملتان چھاؤنی کے شیش پر اترے گے۔

صحح صادق ہو چکی تھی جب گاڑی ملتان چھاؤنی پہنچی اترتے ہی پلیٹ فارم پر مجع کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی، پھر مجلس احرار کے دفتر میں تشریف لائے، ان لوگوں نے وہاں چائے کا انتظام کر رکھا تھا، بہت مجع ہو گیا بعض لوگ بیعت بھی ہوئے ان کو بیعت فرمایا، بعد نماز فجر کلمہ تو حید سوبار اور بعد نماز عصر کلمہ تجید سوبار بعد نماز عشا درود شریف سوبار نماز کادر و دتو بہت فضیلت رکھتا ہے، یا یہ درود شرف پڑھیں: اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کو درود مشہور کہتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ سہروردی طریقہ ہے، اس کو اوراد کہتے ہیں، جب تخلیہ ہوتا تو بیعت کرتے وقت دوازدہ تبع چشتیہ بھی تلقین فرماتے اور اس کا طریق بھی خود کر کے دکھاتے، خوب شدید سے اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ فرماتے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرتے اس کو اذکار کہتے ہیں۔

ایک شخص نے کہا کہ مبسوط میں احادیث بہت ہیں، میری زبان سے نکلا کہ مبسوط میں احادیث مذکور نہیں وہ ایک متن فقہ کا ہے، فرمایا (ان مولوی صاحب کی طرف خطاب کر کے) کچھ ذخیرہ احادیث آپ کی نظر سے گزرا؟ احترق نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ وہ جو آپ ذکر فرمائے ہیں وہ تو شش

الائمه کی مبسوط ہے، اسکو بھی مبسوط ہی کہا جاتا ہے پھر کھانا تناول فرمایا، اور قبل ظہر ایک کوٹھی میں تشریف لے گئے جو حضرت شاہ صاحب کے ایک مرید نے بنوائی تھی۔

بعد نماز ظہر احترق سے فرمایا وہ رسالہ لائے جو آپ نے رد قادیانیت میں لکھا ہے احترق نے پیش کیا، عصر تک مطالعہ فرماتے رہے، بہت سرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بہاول پور جا کر مولانا مرتضیٰ حسن اور مولانا غلام محمد گھوٹوی اور علماء سے اس کا تذکرہ فرماتے رہے کہ اس نے رسالہ لکھا ہے جس میں کفریات مرزا مزید جمع کئے ہیں، پھر فرمایا میں اس کو ڈا بھیل سے طبع کر دوں گا، تاکہ وہاں کے طلباء یاد کریں، احترق نے عرض کیا صاف کر کے ارسال کر دوں گا پھر التواء ہوتا گیا یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔

افسوس کہ تقسیم ملک کے وقت وہ سب کاغذات ضائع ہو گئے، مولانا شجم الدین صاحب لاہور والوں کا بیان اس سے مرتب کیا گیا تھا، مولانا محمد صادق کو حضرت شاہ صاحب سے عشق ہو گیا تھا ہر وقت خدمت مبارکہ میں حاضر رہتے تھے، مولانا مرحوم حضرت کے سامنے خاموش رہتے تھے، حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب بھی خاموش بیٹھے رہتے (مولانا ظیم صاحب رحمہ اللہ سہارن پوری)

فرمایا اہل مکہ نے کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچا کیں آخر خدا تعالیٰ نے انہیں کو آپ کے قدموں میں لاذالا، حتیٰ کہ جنگ

احزاب میں جو ایوسفیان اتنی عداوت کا مظاہر کر رہے تھے، وہی جب ایمان لائے تو جنگ یرموک میں صفویوں کے درمیان پھر رہے تھے، فرمادی ہے تھے، لوگو! یہ موقع روز روز ہاتھ نہیں آتے، آج وقت ہے خوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ثبوت دو، خوب جوش دلار ہے تھے، تا آنکہ میدان جیت لیا۔

بہاول پوری کے تاریخی مقدمہ میں شہادت کے لئے مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہارن پور بھی تشریف لے گئے تھے، حضرت شاہ صاحب کا غایت تادب تھا خاموش بیٹھے رہتے، ایک روز حضرت شاہ صاحب نے کسی صاحب سے فرمایا مولانا شمس الدین بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ میں مجم للطبرانی قلمی ہے وہ بھی چند یوم کے لئے درکار ہے، خواہ وہ صاحب جو مولانا کے کتب خانہ کے مالک ہوں وہاں بیٹھ کر دیکھ لینے دیں، یا ہم سے صفات لے کر چند یوم کے لئے مستعار عنایت فرمائیں۔

حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب چکے ہی چلے گئے اور کتاب لے آئے لاکر پیش خدمت کر دی، فرمایا کہ میں اسی وقت چلا گیا تھا ان سے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت کتاب کی ضرورت ہے، انہوں نے بے تامل عنایت فرمائی۔

حضرت شاہ صاحب پر بے حد اثر ہوا دیر تک اللہ تعالیٰ جزاے خیر دے یہ تو بڑی عنایت فرمائی، فرماتے رہے پھر کتاب احرار کے حوالے کر دی، اور فرمایا اس میں سے مجھے کچھ عبارت نقل کر دے، اور نشان لگادے اور نیز بھی فرمایا کہ قلمی کتابوں میں عموماً اعراب اور نقطے نہیں ہوتے، علماء کو پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، لاؤ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤ۔

پھر میں نے مختلف مقامات سے بہت سی عبارات نقل کر کے پیش کیں تو بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ اکثر لوگوں کو میں نے کتاب دی، مگر غلط ہی نقل کر دی، بعض نے صفحات غلط لگادے۔  
اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات تو نے دیکھی ہے، تو بتا دے؟  
بعض دفعہ کچھ عرض بھی کر دیتا۔

ایک دفعہ ایک راوی کی نسبت میں مجھے شبہ ہوا تو دریافت کرنے حضرت کی خدمت میں گیا، فوراً فرمایا ”سیل حینی“۔ الحمد للہ بالاستیعاب ہی اس کتاب مستطاب کے دیکھنے کا موقع مل گیا، با بوجیب اللہ امر تری بھی رات کے وقت بعد عشاء میرے پاس آبیٹھے کہ میں تیرے ساتھ حضرت کے پاؤں دباتا ہوں، تو فی کے لفظ پر کچھ دریافت کر رہے تھے، اخترنے عرض کیا حضرت تو فی حیات کے ساتھ جمع بھی تو ہو سکتی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللہ لم تمت فی منامها، اس میں یہ ہے کہ تو فی ہو رہی ہے موت واقع نہیں ہوئی جیسے نیند میں تو فی ہوتی ہے سوتے آدمی کو مردہ کوئی نہیں کہتا۔ ہو الذی یتوفا کم باللیل۔ پھر میں نے قصہ سنایا کہ سلطان پوری لوڈھی ضلع جالندھر پنجاب میں حیات عیسیٰ پر بحث کرتے ہوئے میں نے مرا زائی مناظر سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا رات کے وقت جنازہ نکل جاتا ہے، بچے تیم ہو جاتے ہیں عورت یہود ہو جاتی ہے، بہت خوش ہوئے اور تمسم فرماتے رہے (کبھی مدت العر کھلا کر نہیں بنے)۔



## عید مسلم

افادات عالیہ حضرت شیخ الاسلام سید المحمد شین مولانا سید محمد انور شاہ صاحب  
رحمۃ اللہ علیہ

فروع، عقائد، تاریخ، سیر احکام بھی پر بصیرت افروز اور ناقدانہ تحقیقی بحث فرمائی ہے، ضرورت ہے کہ ایسے مضامین کی تلاش کر کے خوب اشاعت کی جائے یہ تبرک حضرت شاہ صاحب کے قلم سے نکلا ہے، ایک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر مہاجرد یو بند ۱۹۲۸ء میں الصوم لی و أنا أجزی به پرشائع ہوئی تھی، افسوس کہ ہمارے پاس محفوظ تھی، لیکن ۱۹۲۷ء کے خونی ہنگامہ میں جب ہم رانکلوں کے سائے میں نکالے گئے تو احر کی کتابوں کے ساتھ رائے کوٹ ضلع لدھیانہ رہ گئی۔ حضرت کی سیرت پاک بھی لکھی ہوئی غیر مطبوعہ تھی، بہت سے خطوط مولانا محمد سلیمان شاہ صاحب برادر خور حضرت شاہ صاحب کے تھے، اب ہم اس تبرک انوری کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اس کا افادہ عام ہو جائے شاید کہ ہمارے لئے ذخیرہ عقبی ثابت ہو، آمین۔

محمد انوری عفاف اللہ عنہ  
مکان ۲۲۳ سنت پورہ لاہل پوری  
۱۹۶۵ء مارچ

علامہ جو ہری طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حامد کی حمد اس کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اب اندازہ لگائیے کہ رب العالمین نے بھی قرآن عزیز میں اپنی حمد مختلف عنوانات سے فرمائی ہے، مخلوق کو تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ایک پیغمبر برحق جو محمد خدا کر سکتا ہے ایک امتی کیا مقابلہ کرے گا، جو علوم صحابہ کو عطا فرمائے گئے تھے اس لئے کہ وہ تو اذ کیا امت تھے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لئے منتخب فرمایا گیا، اگر وہ جو باری عز اسمہ بیان کریں گے تو انہیں کی شایان شان ہوگی، اسی طرح دیکھتے جائیے اب ہم تو یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ عید کا دن ایک افضل دن ہے، سارے شہر کو باہر کھلے میدان میں نکل کر شکر کے دونفل ادا کرنے چاہئیں۔

لیکن ججۃ الاسلام سیدنا حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید مسلم تبلیغ کا دن ہے ہر شخص جو عجیب کہتا ہے خدا کی کبریائی کی تبلیغ کرتا ہے، حتیٰ کہ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ عوام اگر جو ق در جو ق بازاروں میں عکسیرات کہتے پھریں تو منع نہ کرنا چاہیے کہ عوام میں ترغیب ہوتی ہے، یہ حضرت شاہ صاحب کا مضمون اسلام کے تمام شعبوں کو حاوی ہے جتنا جتنا غور کرتے جائیں گے آپ پر منکشف ہوتا جائے گا۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عید خوشی اور سرت کا نام ہے اور اہل دنیا کے نزدیک ہر قسم کا سرور و انبساط اور ہر طرح کی فرحت و ابہاج عید کے مترادف ہے، لیکن شریعت مقدسہ اور ملت بیناء کی نظر میں عید اس سرت و خوشی کو کہتے ہیں جو نعماء رباني اور کرم ہائے الٰہی کے شکر اور اس کے فضل و وجود پر ادائے نیاز کے لئے کی جاتی ہے، دنیا خود فانی ہے اور اس کے باغ و بہار فانی، پھر اس پر کیا سرت و انبساط جس سرور کے بعدم ہوا اور جس خوشی کے بعد رخچ ہوتا یہ سرور کو عید کہنا ہی غلط ہے، اس لئے قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا ہے: «لَا تَفْرَحْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ»۔

عید کی حقیقت اصلیہ اور اس کا صحیح مفہوم اس دائی سرور اور ابدی سرمدی سرت میں مضر ہے جس کی نسبت اور جس کا تعلق خود ذات احادیث اور بارگاہ صمدیت سے وابستہ ہے منعم حقیق کا انعام ابدی ہے اور اس کا فضل و احسان سرمدی، لہذا اپنی یہ سرت و فرحت اور خوشی و انبساط بجا اور اسی عید کو عید کہنا صحیح اور درست ہے اسی کو رب العالمین نے مجرماہ انداز میں اس طرح فرمایا ہے «فَلَمَّا بَفْضَلَ اللّٰهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَذلِكَ فَلِيفِرْ حَوَّا» یعنی خوشی و سرت درحقیقت خدائے قدوس کی رحمت اور اس کے فضل ہی پر کرنا چاہیے۔

### عِيدُ الْهٗی

حقیقت یعنی نظریں اور پُر از معرفت نگاہیں اس حکمت رباني سے بے خبر نہیں ہیں کہ عالم تشرییعی کی اساس، کہ جس کو عالم اوامر و نواہی کہنا بہتر

ہے، بہت کچھ عالم تکوینی کے مظاہر و شواہد پر قائم کی گئی ہے تاکہ مرغیات پر کار بند ہونے میں آسانی ہو سکے، اسی اصل کے ماتحت اور اسی اساس کے زیر عنوان عید بھی ہے۔ عالم تکوینی کی ابتداء اور اس کے مقصود شہود میں آنے کے متعلق قرآن عزیز نے جو رہنمائی کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے قدوس نے عالم انسانی کو درجہ بدرجہ ترقی کرنے اور تاریخ کو طبوظر کھٹے کی ہدایت و تعلیم دینے کے لئے ہمارے فہم کے مطابق اس طرح فرمایا کہ ہم نے ارض و سماوات اور کائنات عالم چھ روز میں پیدا کئے، «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہفتہ کی موجودہ نو عیت اور اس کی اس طرح روز و شمار بھی اس تکوینی عالم سے اخذ کی گئی ہے، چند روز عالم کی تخلیق میں صرف کرنے کے بعد اس کے سالگرہ منانے اور خوشی کا اظہار کرنے کے لئے رب العزت نے ساتواں روز عید اور تعطیل کا مقرر فرمایا، اور اس کو ان اعجازی کلمات میں ارشاد فرمایا «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»۔

### استوی علی العرش کی مقامی توجیہ

اس جگہ یہ خیال پیدا ہونا قادر تی امر ہے کہ استوی علی العرش سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے محققین کی تفاسیر کی طرف مراجعت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہیں امور متشابہات میں سے ہے جن کے متعلق سلف صالحین کا صاف اور سادہ عقیدہ رہا ہے کہ

”الاستواء معلوم والكيفية مجھول“ یعنی نفس مسئلہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت ہم سے پوشیدہ اور نامعلوم ہے۔ لیکن علماء متاخرین کی جائز اور حدود شرعی کے ماتحت توجیہات و اقوال کی طرف اگر نظر کی جائے جوانہوں نے قلوب عامہ و سادہ اور ملحدین و فلاسفہ کی زبانگو دیکھ کر کی ہے تو اس مسئلہ میں ان کے اقوال بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور انہوں نے اس مجرز کلمہ کی تحقیقات میں بہت زیادہ کاوش سے کام لیا ہے اور اپنی اپنی استعداد عقل سلیم کے مطابق بہت کچھ جدوجہد کی ہے۔ مناسب مقام اس کے معنی یوں سمجھنے چاہئیں کہ رب العالمین نے ارض و سماوات کو چھ روز میں پیدا کر دیا تو پھر اس نے ساتویں روز اس طرح عید مناً کہ اس نے تمام کائنات پر اپنی قدرت عامہ اور شاہنشاہیت کے استیلاء و غلبہ کا اظہار فرمایا، اور تمام عالم اس کے حیطہ اقتدار میں محيط ہو گیا، کیونکہ عرش پر اس کا استیلاء اور غلبہ جو کہ خود تمام ارض و سماوات کو حاوی ہے اس کی لاحمد و لاقدوس و سطوت کا اظہار کرنا ہے۔

### ایک حدیثی نکتہ

تخليق عالم اور عید الہی کی اس آیت کے بارے میں بعض محققین سخت تردد میں پڑ گئے، جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تخليق ارض و سماوات کی مدت سترے ایام چھ روز قرار دی ہے، اور صحاح کی بعض روایات میں ہے کہ خداۓ قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمود کے روز پیدا کیا، پس اگر تخليق عالم کی ابتداء ہفتہ کے روز سے مانی جائے تو پھر پورا ہفتہ تخليق ہی

کو محيط ہو جاتا ہے، اور تعطیل (استوانا علی العرش) کے لئے کوئی دن باقی نہیں رہتا، لہذا کوئی صورت ایسی سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت آدم کی تخلیق جمود کے روز مان کرستے ایام کو صحیح باقی رکھا جاسکے اور استوانے کے لئے ایک روز فاضل نکالا جاسکے، اس اشکال کے پیدا ہو جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان محدثین و محققین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حدیث میں جو جمود کا دن ہے اس کو اپنے خیال میں اس سلسلہ میں مسلک سمجھ لیا ہے جس میں کہ تخلیق ارض و سماوات ہوئی ہے، حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اگرچہ جمود کے روز ہی ہوئی ہے لیکن یہ جمود و جمود نہ تھا جوستہ ایام کے تذکرہ کے بعد آتا تھا، بلکہ ایک عرصہ مدیدہ کے بعد حق تعالیٰ نے کسی ایک جمود میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تخلیق ارض و سماوات کے متصل جو جمود آتا تھا وہی درحقیقت استوانہ علی العرش اور عید الہی کا روز ہے، ان حضرات کی نظر احادیث کے ذخیرہ کی طرف کافی اور وقیق ہے ان کے لئے ہماری یہ توجیہ اصل حقیقت کی نقاب کشائی کے لئے کافی و دوافی ہے۔

### یوم سبت کی تخلیق

اسی اشکال کے سلسلہ کی ایک کڑی یوم سبت کی تعین و تحقیق ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم السبت بہتہ کا نام ہے، اور نصاریٰ کے عقیدہ میں یوم السبت اتوار ہے۔ اور چونکہ عربی زبان میں سبت کے معنی تعطیل کے آتے ہیں اس لئے خود علماء اسلام کو بھی اس کی تعین میں مشکل پیش آتی ہے، اسلئے کہ مسلمانوں کے عقیدہ میں تو تعطیل کا دن جمود ہے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ

اللہ علیہ جیسے محدث و محقق بھی اس مسئلہ میں متعدد ہیں اور وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ یوم السبت ہفتہ ہی کے دن کا نام ہے اس اشکال کو اس سے اور زیادہ تقویت ہو جاتی ہے کہ خود عربی زبان میں یوم السبت ہفتہ کے روز کو کہتے ہیں۔

لیکن ان کی نظر شاید اس پر نہیں گئی کہ اہل عرب کے دور جہالت میں دنوں کے نام یہ نہ تھے کہ اب ان کے یہاں مستعمل ہیں، کتب تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے، موجودہ نام دراصل یہود کے ایجاد کردہ ہیں اور وہی اس کے واضح ہیں، چنانچہ کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جمع کو عرب وہ کہتے تھے، عرب وہ عبرانی کا لفظ ہے جس کا مفہوم وہی ہے جو ہماری زبان میں عرف کا ہے، اردو زبان میں ہر عرفہ ہر اسلامی تہوار سے ایک روز قبل کے لئے استعمال ہوتا ہے، بعضیہ بھی مفہوم یہود عرب وہ کا سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ ہفتہ کے دن کو یوم تعطیل مانتے تھے اس لئے جمع کو عرب وہ کہا کرتے تھے، عرب وہ کے استعمال نے مسلمانوں میں بھی رواج پایا، اور اس کو اس قدر وسعت ہوئی کہ بعض احادیث میں بھی یہ لفظ پایا جاتا ہے، بہر حال جب کہ ہفتہ کے موجودہ نام یہود سے لئے گئے تو لازمی تھا کہ وہ سبت ہفتہ کے دن کو نہیں اور اتوار کو اس لئے انہوں نے یوم الاصد یعنی پہلا روز مانا تھی استعمال اور محاورہ علماء اسلام کے لئے اس کا باعث بنا کر انہوں نے سپتھی ہی کو یوم السبت قرار دیا، اور جمع کی فضیلت کو صرف عہد اسلامی ہی سے شروع سمجھا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ قول صحیح نہیں ہے اور خلاف تحقیق ہے، اس لئے کہ مند امام شافعی کی

روایت میں مذکور ہے کہ استواء علی العرش جمعہ کے روز ہوا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ تخلیق عالم کی ابتداء ہفتہ کے روز یعنی سپتھی کے دن سے ہوئی، لہذا ان دونوں روایتوں کی بنا پر ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ جب تعطیل کا دن جمعہ کا دن تھا اور آغاز تخلیق سپتھی یعنی ہفتہ کو ہوئی تو یقیناً اور بلا شک و شبہ یوم السبت جمعہ کا نام ہے، اتوار یا ہفتہ کو سبت کہنا کسی طرح درست نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جمعہ کا شرف عہد اسلامی ہی سے نہیں ہے بلکہ آغاز تخلیق عالم ہی سے وہ مشرف و معزز ہو رہا ہے، کیونکہ اس دن ہی رب العالمین کے استواء علی العرش کی عید تھی۔

### انتخاب جمعہ کی حدیث مع توجیہات

ابتداء ستر سے مشرف ہونے اور اس بزرگ دن کی عظمت حاصل کرنے میں امت مرحومہ کا بھی نصیب زبردست تھا، اور ان ہی کی قسمت یا ورثتی جوان کو اس دن عید منانے کی ہدایت ہوئی، چنانچہ صحابہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہمارے لئے جمعہ کے دن کو اور ثالث دیا اس کو دوسرا امتیوں سے، پس نصاری نے اتوار اور یہود نے ہفتہ کو پسند کیا اور اس کو تعطیل کا دن قرار دیا۔

اس حدیث میں اس شک کو زائل کرنے کے لئے کہ رب العالمین نے کیوں دوسرا امم کو اس شرف سے محروم رکھا محدثین نے دو تو جیہیں کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ دراصل انتخاب یوم تعطیل و یوم عید حق تعالیٰ نے

اجتہاد پر رکھا تھا، پس امم سابقہ کا اجتہاد اس برکت کو نہ پاس کا جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اول تمام امم پر جمعہ کا دن ہی پیش کیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی مصلحتوں اور طبعی رنجتوں کی بنا پر اس دن کو پسند نہ کیا اور اپنے زمانے کے انبياء علیہم السلام کو اس بارے میں تنگ کیا کہ وہ خدا کو کہہ کر اس دن کو یوم تعطیل نہ رہنے دیں اس لئے وہ اس جنگ و جدل کی بنا پر اس نعمت سے محروم کر دئے گئے، اور بالآخر امت مرحومہ کے حصہ ہی میں یہ شرف آنا تھا، سو آگیا۔ اور جمعہ کا دن ان کے ہفتہ کی عید قرار پایا، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

خدائے برتر کا فضل اور اس کا احسان ہے بطفیل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اسلام میں یوم جمعہ نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اور عید الہی کے باعث اور اس کی بارگاہ میں ہر ایک اس کی شرکت کو اپنے لئے فریضہ ربانی سمجھتا اور سعادت دارین کا وسیلہ جانتا ہے۔

### ایام رباني کی تحدید

یہاں یہ بات بھی ذکر کر دینا دچھپی سے خالی نہیں ہے کہ آیت قرآنی میں جو ست ایام کا ذکر کیا ہے آیا ان ایام کی مقدار ایام معمولہ ہی کے موافق تھی یا اس سے زائد؟ یہ ایک سوال ہے جس کے متعلق محدثین و صوفیاء کرام دونوں نے قلم اٹھائے ہیں اور خوب بحثیں کی ہیں اہل عقل و دانش کے نزدیک یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے اس لئے کہ وہ درگاہ صدیت و بارگاہ احادیث تو تحقیقتا زمانہ اور اس کی مقدار سے وراء الوراء ہے اور اس کی جگہ تو زمانہ کی تفصیل بھی

نیا منیا ہے، کیوں کہ زمانہ تو مقدار حرکت کا نام ہے اور حرکت و سکون کی نسبت انہیں اجرام و اجسام کی طرف کی جا سکتی ہے جو ان کا محتاج ہو، لیکن خالق حرکت و سکون اور مکون زمانہ، زمانیات کو ان فانی اور ناقص اشیاء سے کیا سروکار تعالیٰ اللہ علوٰ اکابر، لہذا قرآن عزیز میں جو اس مقام پر ایام کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف ہماری عقول ناقصہ اور فہم کا سدہ کی تفہیم کے لئے ہے اسی لئے اس کی نوعیت پر بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، بعض محققین کا خیال ہے کہ ایام ایام معمولہ ہی کی طرح تھے، نہ زیادہ اور نہ کم، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ہر دن ایک ہزار سال کی مقدار رکھتا تھا۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسماء حسنی کے ماتحت ایام کی کچھ تحدید فرمائی ہے، چنانچہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یوم ربوبی ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے ॥ وَإِن يوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَا تَعْدُونَ ॥۔

### یوم ربوبی کا ایک نکتہ لطیف

اس لئے بعض علماء اور صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ دنیاۓ انسانی کی عمر سات ہزار سال ہے، کیوں کہ سات ہی روز اس کی تخلیق اور اس پر عمل کے گذرے ہیں اور اولو العزم انبياء علیہم السلام کے ادیان ترقی پذیر کا عہد مبارک ہزار ہزار سال کا ہوتا آیا ہے، چنانچہ ساتویس ہزار کی ابتداء میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجموع ہوئے اور ان کے مذہب میں اعلیٰ اور بے نظیر ترقی بھی ایک ہزار سال رہی اور اس کے بعد اس میں انحطاط شروع ہو گیا، جس کی انتہا وجود قیامت پر ہو گی، اور یہ سب کرشمے ایام ربوبیت ہی کے

ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ یہود و نصاری اب تک اس کے منتظر ہیں کہ نبی آخر الزمان ساتویں ہزار میں آئے گا۔ اور اس پر ایمان لا سکیں گے، لیکن چونکہ پائیل کے کل نجف کے بارے میں علماء یہود و نصاری کو اختلاف ہے اس لئے وہ اس صحیح حساب کی تشخیص نہ کر سکے اور نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے پائیل کے نجف میں قدیم زمانے کے یوتانی نجف پر اعتقاد تھا، لیکن جب اس کا حساب صحیح نہ اترات تو اس کو ساقط کر کے عبرانی نجف کو ترجیح دی، لیکن افسوس کہ وہ بھی صحیح رہنمائی نہ کر سکا، اور یہ قوم اس بارہ میں خاسر ہی رہی۔

### بنی اسرائیل کی عید یوم عاشوراء

ایک ہفتہ کی عید کے علاوہ ادیان سماویہ میں سالانہ عید منانے کا بھی دستور قدیم سے قائم ہے اور ہر عید کسی خاص حکمت پر مبنی ہے اور کسی نہ کسی رحمت و فضل الہی کے ادائے تشکر میں اس کا راز مضر ہے اور ہمیشہ اس کا وجود بندگان خدا کے لئے سعادت دارین کا وسیلہ بنتا رہا ہے۔ تاریخ کے اور اراق اس حقیقت ثابتہ کا آج تک اعلان کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ صد یوں تک قبطیوں کے ہاتھ مظلوم بنی اسرائیل طوق و سلاسل اور غلامی میں گرفتار ہے اور فراعنة مصر کی تمام ذلتیں اور رسوا نبیوں کو جبرا و قبرہ اسہا کئے، لیکن قلم و عدو ان اور غرو نجوت کا مظاہر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اور انانتیت و کبر ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا، چنانچہ بنی اسرائیل کے لئے بھی فطرت نے وہ وقت مہیا کر دیا کہ جس میں ان کی خواریوں اور ذلتیوں کا خاتمه ہوا اور غلامی کی لعنت

سے ان کو ہمیشہ کے لئے نجات ملی اور بحر قلزم کی موجودوں نے اس بیت ناک مظاہرہ کا منشوں میں اس طرح خاتمه کر دیا کہ عبد صالح موسیٰ علیہ السلام مدد اپنی قوم کے تشرین اولیٰ میں قلزم سے پار ہو گئے، اور خدائی کا جھوٹا مدعا فرعون کی فرعونیت اپنے شکر سیست قلزم کی تہہ میں فنا ہو گئی۔ انعام خداوندی کا یہی کرشمہ تھا جو بنی اسرائیل پر اس طرح جلوہ نما ہوا اور اس ہی بارگاہ کے لئے یوم عاشورا کی عید ان کے مذہبی امور میں داخل کی گئی تا کہ اس دن میں روزہ رکھ کر ابنی اسرائیل نیاز مندی کے ساتھ ادائے شکر کا اظہار کریں، اور اس روز مرثت و شادمانی کے ساتھ خداۓ قدوس کے دربار میں سر نیاز جھکائیں۔

### عاشورا یک تحقیق اور ایک حدیث کی توضیح

لیکن اس مقام پر خود بخود اہل علم کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تشرین اولیٰ یہود کے مقرر کردہ مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ ہے جو مشتمل نظام پر قائم کئے گئے ہیں لہذا اس کے مطابق ماہ محرم الحرام جو قمری حساب کے مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ ہے کسی طرح نہیں ہو سکتا، پھر ہمارے یہاں ۱۰ محرم الحرام کو عاشورا کا ہونا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا امر یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ مجتبی طبرانی کی حدیث میں آیا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس روز بھرت کر کے مدینہ منوراہ میں داخل ہوئے ہیں اس دن یہود عاشوراء کی عید منار ہے تھے اور روزہ دار تھے آپ نے ارشاد فرمایا ہم یہود سے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی رستگاری پر خوشی کریں اور شکر الہی بجالائیں، لہذا ہم میں سے جس شخص نے ابھی کھایا پیا نہ ہو وہ

روزہ رکھ لے، اور جو کھاپی چکے ہیں وہ اس وقت سے روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے باز رہیں۔ حالانکہ یہ امر محقق ہے کہ مدینہ طیبہ میں داخلہ ربع الاول میں ہوا تھا تو پھر کس طرح یوم عاشورا ۱۰ محرم الحرام کو صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن کتب تاریخ پر نظر رکھنے والے اصحاب کو اس اشکال کے حل کرنے میں چند اس دشواری نہیں ہے، اس لئے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی مدینہ میں دو قسم کی جماعت تھیں، ایک جماعت اپنے مہینوں کا حساب نظام شمسی ہی کے ماتحت رکھتی تھی اور عاشورا کو اسی اصول پر مناقی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع الاول میں جو عاشورا کی تاریخیں اس مرتبہ پر آ کر پڑیں وہ اسی نظام کے ماتحت تھیں۔

دوسری جماعت وہ تھی جس نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان قمری حساب سے اپنا نظام قائم کرتے ہیں اور محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں اس لئے وہ مسلمانوں سے توافق پیدا کرنے کے لئے اپنی عید عاشورا کو تشرین اول سے منتقل کر کے محرم الحرام کی ۱۰ تاریخ میں لے آئے پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا۔

تیسرا جماعت یہود کی اور بھی تھی جو اپنے نظام پر عاشورا مناقی تھی اور محرم الحرام کی تاریخ میں بھی عید عاشورا قائم کرتی تھی، اس وجہ سے یہ اشکال زیادہ اعتناء کے قابل نہیں۔

### عید رمضان

جس طرح ہی اسرائیل کے لئے ان کی رستگاری میں عاشورا کی عید

مقرر ہوئی اس طرح امت مرحومہ کے لئے بھی سال میں دو مرتبہ رحمت فضل خداوندی کے اداء نیاز کی خاطر عید منانے کا حکم دیا گیا، جس میں سے ایک عید الفطر یا عید رمضان ہے۔ یہ امر روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ رمضان کی فضیلت کا تمام دار و دار اور اس کی تمام اساس قرآن و حدیث رسول پر منی ہے، رمضان میں قرآن عزیز کا لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہونا ہی فضل و رحمت الہی ہے جس کی وجہ سے رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ ﴿شہر رمضان الذی أُنزَلَ فِیهِ الْقُرآنُ هدیٰ لِلنَّاسِ وَبِيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾۔

وہ قانون الہی جس نے تمام عالم کی ظلمت و تاریکی کو فنا کر کے ہدایت و رشد کی روشنی سے اس کو منور کر دیا وہ کتاب رباني جس کے فیض سے بھیکھے ہوؤں کو راہ ملی اور گمراہوں کو ہدایت حاصل ہوئی، اور وہ قرآن عزیز جو حق و باطل کے لئے فیصلہ کن اور احکام الہی کا آخری پیغام ہے رمضان میں نازل ہوا اور اس کی برکت سے تمام عالم پر فضل خداوندی اور رحمت باری عام ہو گئی پس جس شخص نے اس فیض سے حصہ پایا کامیاب ہوا اور جو محروم رہا محروم رہا۔

روزہ کی فرضیت اس لئے قرار پائی کہ انسان اس روحانی فیض سے مستفیض ہو کر قرآن عزیز کی دامنی برکتوں سے مالا مال ہو سکے، لہذا فضل و نعمت کے ادائے شکر میں ختم مہینہ کے بعد اسلام نے ایک دن خاص دعوت الہی کا مقرر کیا اور اس میں سب کو خداوند تعالیٰ کا مہمان خصوصی بنایا اور اسی کا

نام عید ہے۔

سعید ہیں وہ روحیں جنہوں نے رمضان کے برکات و انوار کو حاصل کیا، عید کی حقیقی وابدی مسرت سے حصہ پایا، اور منور ہیں وہ قلوب جنہوں نے ان کے فیض کو اپنی تہ میں جگہ دی، اور دائی گئی سرور و شادمانی سے بھرہ مند ہوئے یہی شادمانی و سرور ہے جو اس خیر کشرا اور رشد و بدایت کے سرچشمہ کے نزول میں با Bates 『ول تکبِ روا اللہ علی ما هدا کم』 ہماری زبانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله وَالله أكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ وَلَهُ الْحَمْدُ كہلاتا ہے۔

### اتمام قرآن عزیز

خدا کا آخری پیغام اور روحانیت کی یہ بے نظیر مشعل بدایت جس کی بدولت ہم کو دارین کی سعادت نصیب ہوئی تھیں (۲۳) سال تک برابر حصہ حصہ ہو کر نازل ہوتا رہا اور اپنے انوار و تجلیات سے ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق فیض یا ب کرتا رہا، آخر وہ مبارک روز بھی آیا جس میں اس چشمہ خیر کشیر کے اتمام و اکمال کی بشارت ہم کو دی گئی، اور ۹ روزی الحجہ یوم عرفہ کو 『الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت عليکم نعمتی』 کا فرحت انگیز پیغام عرفات کے میدان مقدس میں نایا گیا اور قیامت تک کے اس قانون کو مکمل کر کے ہمارے پر درکیا گیا۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علماء یہود میں سے کسی نے اس آیت کو سن کر کہا کہ اگر ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس روز کو

عید شمار کرتے اور خوب خوشیاں مناتے، یہن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس روز ہماری دو ہری عید تھی، اس لئے کہ یہ آیت جمع کے روز عرفات میں نازل ہوئی ہے اور جمع و عرفہ ہماری عید یہیں ہیں۔

بہر حال عید کی حقیقت ایک مسلمان کی نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ اس روز خدا کے خالص فضل و انعام کے تشکر اتنا میں مختور و مسرور ہوتا ہے اور دربار خداوندی میں مسرت و شادمانی کے ساتھ سرنیاز جھکاتا ہے۔

عید الفطر عید الاضحیٰ جو جمعہ عرفہ یہ سب مسلمانوں کی عید یہیں ہیں اور ان سب کا خلاصہ وہی ایک حقیقت ہے جو بیان ہو چکی۔ یہی فرق ہے اسلام اور دیگر ملل و ادیان میں کہ اس کی غمی و خوشی، رنج و سرور، حزن و مسرت سب خدائے قدوس ہی کے لئے ہے اسکی تمام عید یہیں ہزلیات اور خرافات سے پاک اور بری ہیں اور ان کا ہر ہر جزو صرف خدائے قدوس ہی کی یاد سے مملو ہے۔

والحمد لله اولاً و آخرًا۔



☆.....حضرت شاہ صاحب کا کلام بالعموم حافظ شیرازی کے طرز پر ہوتا تھا حافظ نے لکھا ہے

شاہد دل ربائے من می کند از برائے من  
نقش و نگار و رنگ و بو تازہ بتازہ نو بنو

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں

در ہمس سیر و غربتے کشف نہ شد حقیقی

گرچہ شدم برگ بخانہ بخانہ کو بکو

گر بودم فراغتے از پس مرگ ساعتے

شرح وہم ہمس بتو قصہ بقصہ ہو بہ ہو

دانہ خلاف تھم نے ہر چہ بود ز جبر و قدر

آنچہ کہ کشته در حطہ به حطہ جوز جو

عالم بزرخ سے متعلق حضرت شاہ صاحب کی ایک نظم ہے اس کے یہ

تین شعر بطور نمونہ ہم نے درج کئے۔

☆.....حضرت کا ایک مربعہ نقیبہ ہے جو عقیدۃ الاسلام کے آخر میں

لگا ہوا ہے اس کے شروع کے یہ شعر ہیں۔

### مربعہ نقیبہ فارسی

دوش چوں از بے نوائی ہم نوائے دل شدم

عہد ماضی یاد کردہ سوئے مستقبل شدم

از سفر و امانہ آخر طالب منزل شدم

کز تھا پوسو بسو شام غریباں در رسید

یہ قصیدہ بہت لمبا ہے ہم نے محض چار مصريع درج کئے اس میں  
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔

☆.....حضرت عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب نے جب ڈا بھیل ضلع  
سورت میں حضرت شاہ صاحب کی وصال کی خبر سنی تو تعریقی جلسے میں فرمایا  
ہوئی مدت کہ دنیا سے میرا دل اٹھ گیا لیکن  
ہنوز اک شعلہ یاد رفتگاں دل سے اٹھتا ہے  
تہجوم درد غم اس درد آہ دل سے ہے ثابت  
ورود کارروائی ہو تب دعواں منزل سے اٹھتا ہے  
اللہی فرقہ مرحوم میں کیوں کر بسر ہوگی  
نہ دل اٹھتا ہے الفت سے نہ صدمہ دل سے اٹھتا ہے  
ہمارے شعلہ غم کا یقین تم کو نہیں آتا  
تمہیں کیوں کر دکھائیں دل میں بختا دل سے اٹھتا ہے

شبیر احمد عثمانی عفاف اللہ عنہ

صفر ۱۳۵۲ھ

☆.....ایک دفعہ ۱۳۳۸ھ میں ترمذی شریف کے درس میں احتقر  
نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو آتی ہے یعنی  
اربعاً فلاتستل عن حسنہن و طولہن، ثم يصلی أربعاء  
فلا تستل عن حسنہن و طولہن، ثم یوتربلاط. میں نے سوال  
کیا کہ اس حدیث سے تو آٹھ تراویح ثابت ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ میرا سوال  
بے محل تھا کیوں کہ اس حدیث میں ایک توفی رمضان وغیرہ ہے، حالانکہ

غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی۔ دوسرے اس میں وتر تین ہیں، اور آٹھ تراویح پڑھنے والے وتر تین نہیں پڑھتے۔ تیسراے اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ یعنی حضور نبی نہ کرتے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے؟ جب رمضان میں وتر باجماعت پڑھ جاتے ہیں اور اس زمانے میں مستورات مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال تو بے محل ہوا کیوں کہ جب آپ جماعت میں شامل ہوتی تھیں تو پھر حضور سے نیند کرنے کے متعلق کیا سوال؟ معلوم ہوا کہ یہ حدیث تجدید کی نماز کی متعلق ہے۔

تو حضرت شاہ صاحب نے فوراً فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت آیا سنت نبی ہے یا نہیں جیسا کہ حدیث یہ ہے *فَإِنَّمَا مِنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيِّرُوا إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسَنْتِي وَسَنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمْسَكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِدِ، وَإِيَا كُمْ وَمَحْدَثَاتِ الْأَمْوَارِ، فَإِنَّ كُلَّ مَحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ مَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دُودُ وَابْنُ مَاجَهٍ، مَشْكُوَةٌ*۔

اور فرمایا سنو کہ مسئلہ کی تحقیق فی نفسہا ہوتی ہے نہ کسی کے عمل کو دیکھ کر، جب یہ بات ہے اور اتنا اختلاف ہے کہ کوئی دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں تو نبی کے فرمانے کے مطابق خلفاء راشدین مہدیین کے عمل کو دیکھا جائے گا، اور ان کا اتباع لازمی طور پر کیا جائے گا، تاکہ اختلاف رفع

ہو جائے۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں: فائدہ: کہ خلفاء راشدین مہدیین حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم ہیں۔ مہدیین کے متعلق فرماتے ہیں کہ جن کو باری تعالیٰ طرف سے ہدایت یافتہ کیا گیا ہو حق کی طرف اور فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے: وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقْرَةِ فِي ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي الْثَّنَى عَشْرَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ إِنَّهُ قدْ خَفَّ، رَوَاهُ مَالِكُ۔ تو فرمایا کہ بس تراویح کی یہ حدیث صحیح دلیل قوی ہے، اور صحابہ کے زمانہ میں اس پر عمل درآمد ہوتا تھا، اور بھی مؤطا امام مالک میں بہت سی روایات موجود ہیں جو صریح طور پر میں پر دلالت کرتی ہیں۔ اور امام عیینی نے فرمایا کہ حضرت علی زمانہ میں بھی حضرت ابی ہی لوگوں کو بس تراویح پڑھاتے تھے، اور حضرت عثمان کے زمانہ پاک میں بھی اسی پر عمل ہوتا تھا، اور حدیث ابوداؤد وغیرہ میں ہے راوی کہتا ہے: *حَتَّىٰ خَفَنَا الْفَلَاحُ، اَفَرَأَتُمْ هَذِهِ كَانَتْ شُوقًا لَّهُ تَوَسَّطًا* ہے تو اس حدیث پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا کہ حتیٰ خفنا الفلاح کہ ہم کو سحری کا خطرہ ہو گیا، جماعت کو چھوڑ جانا اور یہ کہنا کہ ہم آٹھ پڑھ کر چلے ہیں اور جا کر سو جانا یا اور کوئی با توں میں لگ جانا یہ تو حدیث کے خلاف ہوا تو اتنا مبالغہ ہے کہ سحری کا وقت نکلنے کا خطرہ ہو جائے۔

جب روایات متعارض آرہی ہیں تو کیوں نہ خلفاء راشدین کے تعامل پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور حدیث ما أنا علیہ وأصحابی صاف

بتلارہی ہے کہ اصحاب کے تعامل کو نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ یہ صریح دلیل ہے  
صحابہ کے بعض کی۔ (والعیاذ بالله)

صحابہ کرام کے اذکیاء امت ہونے کے متعلق حضرت عبد اللہ بن  
مسعود اور حضرت عمر بن عبد العزیز وغیرہم کا صاف ارشاد ہے جو مشکوٰۃ اور ابو  
داود شریف میں مذکور ہے کہ ان کے گھرے علوم اور صاف قلوب تھے، پھر ان  
کے تعامل کو جان بوجھ کر چھوڑنا؟! حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت  
ہمیں صحابہ کرام ہی کے تعامل سے معلوم ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا: من أحبهم فبحبى أحبهم، فمن أبغضهم فبغضى أبغضهم.  
یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، یہ کتنا بڑا وعدہ ہے جو حضور نے اپنے صحابہ کے  
اتباع کے متعلق فرمایا ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے اس وعدے سے ڈرنا چاہیے  
خدا ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہا جمعین کے اتباع کی توفیق بخشنیں۔

☆☆☆

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت شاہ صاحب کا بیان سننے کے لئے پنجاب، بلوچستان،  
کراچی اور دیگر دور دراز علاقوں کے علماء و فضلاء رؤسائے اور آفیسران  
ریاست آئے ہوئے تھے، انہیں مؤید الاسلام بہاول پور نے جو تمہیدی الفاظ  
حضرت کے بیان ”البیان الازہر“ پر لکھے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

بسم الله الرحمن الرحيم  
حامدًا ومصليًا

شیخ الاسلام والمسلمین اسوة السلف وقد وہ اخلاف حضرت مولانا سید  
محمد انور شاہ صاحب کاشمیری قدس اللہ اسرار ہم کی بلند پایہ ہستی کی تعارف  
اور تو صیف کی محتاج نہیں، آپ کو مرزاںی فتنے کے رد و استیصال کی طرف  
خاص توجہ تھی، حضرت شیخ الجامع مولانا غلام محمد صاحب کا خط شاہ صاحب کی  
خدمت میں دیوبند پنجاب تو حضرت ڈا بھیل شریف لے جانے کا ارادہ فرمائے  
تھے اور سامان سفر باندھا چاکا تھا، مگر مقدمہ کی اہمیت کو ملحوظ فرمایا کہ ڈا بھیل کی  
تیاری کو ملتوی فرمایا اور ۱۹۳۲ء کو بہاول پور کی سر زمین کو اپنی  
تشریف آوری سے مشرف فرمایا، حضرت کی رفاقت میں پنجاب کے بعض علماء  
مولانا عبد الحکان خطیب آشریلیا مسجد لاہور و ناظم جمیعتہ العلماء پنجاب،  
مولانا محمد صاحب لائل پوری فاضل دیوبند و مولانا زکریا صاحب لدھیانی و  
وغیرہ بھی تشریف لائے۔ ریاست بہاول پور اور ماحقہ علاقہ کے علماء اور  
زارین اس قدر رجع ہوئے کہ حضرت کی قیام گاہ پر بعض اوقات جگہ نہ ملتی اور  
زارین مصافحہ سے مشرف نہ ہو سکتے تھے۔

۲۵ اگست ۱۹۳۲ء کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا، عدالت کا کمرہ  
امراء و رؤسائے ریاست و علماء کی وجہ سے پر تھا۔ عدالت کے پیروں نیمیان  
میں دور تک زائرین کا اجتماع تھا، باوجود یہ کہ حضرت شاہ صاحب عرصہ سے  
پیار تھے اور جسم مبارک بہت ناتوان ہو چکا تھا، مگر متواتر پانچ روز تک تقریباً

پانچ پانچ گھنٹے یومیہ عدالت میں تشریف لا کر علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے، مولانا مولوی امیر علی صاحب مصنف عین الہدایا وغیرہ مدرس اعلیٰ ندوۃ العلماء کھنوا اور مولانا شبلی جو اس وقت مدرس ندوۃ العلماء کے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہار پوری کا اور حضرت مولانا عبد الرحیم شاہ رائے پوری صاحب اور حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی صاحب خلیفہ حضرت میاں عبد الرحیم صاحب جو اس وقت حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم کی خدمت میں رہتے تھے اور ہمارے حضرت عبدالقدار کا بھی فتویٰ ہے۔

قادیانی مختار نے کہا کہ تحذیر الناس میں مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد خاتم النبیین نبی کا آنا تجویز کیا ہے۔

**فرمایا جج صاحب لکھیے:**

حضرت مولانا محمد قاسم نے اپنے الہامی مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق دلائل و برائین ساطعہ بیان فرمائے ہیں اور اثر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی علمی توجیہات فرمائی ہیں۔ ان لوگوں پر حیرت ہے جو تحذیر الناس کا بغور اور بالاستیعاب دیکھتے ہیں، اس رسالہ میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین زمانی ہونا اور اس کا اجتماعی عقیدہ ہونا اور اس پر ایمان ہونا ثابت فرمایا ہے، رسالہ کے صحقوس کی عبارت میں آپ کو کھوانا چاہتا ہوں حضرت مولانا فرماتے ہیں:

”سو اگر اطلاق اور عموم ہے تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے

المسلمین عن الاختلاف بالمرزاں سے پڑھ کر سنائے تھے۔

(نوٹ) اب بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ایک رسالہ اور بھی ہے جس میں مولانا مولوی امیر علی صاحب مصنف عین الہدایا وغیرہ مدرس اعلیٰ ندوۃ العلماء کھنوا اور مولانا شبلی جو اس وقت مدرس ندوۃ العلماء کے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہار پوری کا اور حضرت مولانا عبد الرحیم شاہ رائے پوری صاحب اور حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی صاحب خلیفہ حضرت میاں عبد الرحیم صاحب جو اس وقت حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم کی خدمت میں رہتے تھے اور ہمارے حضرت عبدالقدار کا بھی فتویٰ ہے۔

قادیانی مختار نے کہا کہ تحذیر الناس میں مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد خاتم النبیین نبی کا آنا تجویز کیا ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نے اپنے الہامی مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق دلائل و برائین ساطعہ بیان فرمائے ہیں اور اثر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی علمی توجیہات فرمائی ہیں۔ ان لوگوں پر حیرت ہے جو تحذیر الناس کا بغور اور بالاستیعاب دیکھتے ہیں، اس رسالہ میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین زمانی ہونا اور اس کا اجتماعی عقیدہ ہونا اور اس پر ایمان ہونا ثابت فرمایا ہے، رسالہ کے صحقوس کی عبارت میں آپ کو کھوانا چاہتا ہوں حضرت مولانا فرماتے ہیں:

”سو اگر اطلاق اور عموم ہے تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے

وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی حدیث میں ہے: کنت نبیا و آدم منجدل بین الماء والطین. اور دوسرا ہے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور کے واسطے سے متصف بالنبوۃ ہوئے، حدیث میں ارشاد ہے: لوکان موسیٰ حیا لِمَا وسْعَهُ إِلَّا اتِّباعُی. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ پارہ ۳ کے آخری رکوع میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصِّرُنَّهُ﴾ الآیة۔

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس امت کے رسول ہیں نبی الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو ایک طرف رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد دیکھا گیا، آیت میں ثم جاء کم فرمادی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور سب سے آخر میں ہو گا۔

آیت بیان فرمائی ہے  
این ہے از مقضائے ختم است

ثم عربی زبان میں تراخی کے لئے آتا ہے اس واسطے علی فترة من الرسل فرمایا: حدیث میں ہے انا دعواۃ آبیٰ ابراہیم میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تمام انبیاء علیہم السلام حضور صلی

ورنه تسلیم لزوم خاتمتیت زمانی بدلالۃ التزامی ضرور ثابت ہے، ادھر تصریحات نبوی مشیل انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ إلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَ بَعْدَهُ أَنْتَ ہے، کما قال، جو بظاہر بطریق مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے اس بات میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درج تواتر کو پہنچ گیا ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے گوا الفاظ مذکور سند تواتر منقول نہ ہوں۔ سو یہ عدم تواتر الفاظ با وجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہو گا جیسا تواتر اعداد رکعتات فرائض و وتر وغیرہ با وجود یکہ الفاظ احادیث مشترک تعداد رکعتات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہو گا۔

اسی رسالہ کے دوسرے صفحات میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمتیت زمانی کا اقرار ہے نیز مناظرہ عجیبہ جو صرف اسی موضوع پر ہے نیز آپ حیات قاسم العلوم انتصار الاسلام وغیرہ اکتب مصنفہ حضرت نانو توی دیکھا چاہیے، حضرت مولانا مرحوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین طرح کی خاتمتیت ثابت فرماتے ہیں۔

ایک بالذات یعنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمتیت ذاتی کا ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ موصوف بالذات ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام موصوف بالعرض اور آپ کے واسطے سے، جیسا کہ عالم اسباب میں موصوف بالنور بالذات آفتاب ہے اس کے ذریعے سے تمام کو اک قمر وغیرہ اور دیگر اشیاء ارضیہ متصف بالنور ہیں یہی حال وصف نبوت کا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متصف بالذات اور اسی

میں ورسولاً الی بنی اسرائیل فرمایا گیا ہے، صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بناؤ کر بھیج گے۔

(۲) ﴿مَصْدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التُّورَاةِ﴾

(۳) ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ أَسْمَهُ أَحْمَدًا﴾ میں ایک عظیم الشان رسول برحق کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد مبعوث ہوں گے ان کا نام احمد ہے۔ قرآن عزیز اعلان کرتا ہوں کہ وہ نبی برحق جن کے متعلق عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیمان ہوا اور بشارات دی گئی تھیں آپ کا۔ ﴿جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الرَّمْسَلِينَ﴾ حدیث شریف ہے انی اولیٰ الناس بعیسیٰ بن مریم۔ مجھے زیادہ قرب ہے عیسیٰ علی السلام سے نبیت تمام لوگوں کے اور بلاشبہ وہ نزول فرمائیں گے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی اولو العزم کا خاتم النبیین علی الاطلاق کے دین کے نصرت کے لئے تشریف لانا اور شریعت محمدیہ پر عمل فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہے فضیلت محمدیہ کو دنیا پر واشگاف کر دینا منظور ہے، آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تشریف لانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نبی دوسرے نبی کے علاقے میں چلا جائے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے لیکن بہ حیثیت حکماء دلائل تشریف آوری ہوگی، بطور ج

اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارات دیتے آئے، چنانچہ توراة شریف، انجلیل شریف، و دیگر صحاف میں با وجود تحریف لفظ و معنوی ہو جانے کے اب بھی متعدد آیات موجود ہیں جو حضور کی خاتمتیت اور افضلیت کا پتہ دیتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لا کر ابتداء شریعت محمدیہ کرنا اسی فضیلت اور خاتمتیت کا عملی مظاہر ہوگا۔ لیلة المرارج میں انبیاء علیہم السلام کا صفت بندی کر کے امام کا منتظر ہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا بھی اسی امر کی صراحت کرتا ہے، واسئل من ار مسلمان من قبلک من رسلنا۔ بھی اسی کی طرف مشیر ہے کہ لیلة المرارج میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور ابن جبیب عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ یہ آیت لیلہ المرارج میں نازل ہوئی (القان)۔ اور انا خطبیهیم إِذَا أَنْصَطْنَا إِلَيْهِمْ شَفَاعَتْ بِهِنِّي اسی فضیلت محمدیہ کا اعلان کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ثبوت کا اختتام ہوا، اور پہلے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نہ کسی کا زندہ رہنا ضروری تھا تاکہ بطور نمائندہ سب کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا اس لئے کہ آپ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں اور سلسلہ اسحاق اور اسماعیل کو جوڑ دینا منظور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین امور کا اعلان فرمایا۔

(۱) ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ اے بنی اسرائیل میں فقط تمہاری طرف مبعوث ہو کر آیا ہوں دوسری جگہ آل عمران

منش فرمانے کے تشریف آوری ہوگی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں عیسائی اقوام کی مسلمانوں سے مل بھیڑ رہے گی، لہذا اہل کتاب کی اصلاح کے لئے تشریف لاکیں گے ٹالٹ وہی ہوتا ہے جو ہر دو فریق کے نزدیک مسلم ہو، ہماری کتابیں ”عقیدۃ الاسلام“، ”تحیۃ الاسلام“، ”التصریح بما تواتر فی نزول الحج“، اس باب میں دیکھنا چاہیے۔

دوم خاتمیت زمانی یعنی آپ کا زمانہ نبوت اس عالم مشاہدہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت تفویض نہ ہوگی۔  
ابی بن کعب سے مرفو عاروایت ہے: بدأ بى الْخَلْقِ وَكَنْتَ  
آخَرَهُمْ فِي الْبَعْثِ. وَأَخْرَجَ جَمَاعَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
مَرْفُوعًا: كَنْتَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخَرَهُمْ فِي الْبَعْثِ،  
كَذَا فِي رُوحِ الْمَعْانِي (ص: ۱۱ ج: ۷)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
آنحضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام  
کا عقیدہ اسلام کا اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے، مرزا غلام احمد نے اجماع کو وجہ  
مانا ہے اور اس کے مکرر پر لعنت کا اعلان کیا ہے۔ انجام آئتم (ص: ۱۲۳)۔ مرزا  
صاحب نے کفار کے تو اتر کو بھی جنت مانا ہے چہ جائیکہ تمام امت محمدیہ کے  
تو اتر سے ثابت شدہ عقیدہ کو (تیریاق القلوب)۔

حضرت نانوتوی نے تیسری خاتمیت مکانیہ ثابت فرمائی ہے یعنی وہ  
زمین جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے وہ تمام زمینوں میں  
بالآخری ہے، اور اس کے اوپر کوئی زمین نہیں اس کو بدلا تلث ثابت فرمایا

ہے۔

قادیانی مختار مقدمہ نے سوال کیا کہ امام مالک سے منقول ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔ احقر سے فرمایا کہ ابی کی شرح مسلم شریف نکالو، چنانچہ ص: ۲۲۶ ج: امطبوعہ مصر ذیل کی عبارت پڑھ کر سنائی: وفى العتبية: قال مالك: بينما الناس قيام يستمعون لإقامة الصلاة فتشاهم غمامـة، فإذا عيسى قد نزل، الخ. عتبیہ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا درا نحایہ لوگ کھڑے نماز کی اقامـت سن رہے ہوں گے اچا نک ان کو ایک بادل ڈھانپ لے گا یا کیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امام مالک کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ساری امت محمدیہ کا اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔ ہم نے تبیع کیا ہے کوئی تیس اکتس س صحابہ احادیث نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے راوی ہیں، تابعین کا تواصیء بھی مشکل ہے، امام ترمذی نے پندرہ صحابہ گنوائے ہیں، ہم نے مزید پندرہ کا اضافہ کیا، چنانچہ مند احمد و کنز العمال و دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کرنے والوں سے مخفی نہیں، ہمارا رسالہ ”التصریح بما تواتر فی نزول الحج“، مطالعہ کیا جائے۔

قادیانی نے سوال کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں اور علماء دیوبند بریلوی پر۔

ارشاد فرمایا کہ نجح صاحب! احقر بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہے کہ حضرات دیوبندیان کی تغیر نہیں کرتے، اہل

سنواں کا مطلب یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیں تو کون روک سکتا ہے، خواہ ومن فی الأرض جمیعاً ہوں خواہ ان کی والدہ بھی ساتھ ہوں کوئی نہیں روک سکتا، اس سے معلوم ہوا کہ وامہ مفعول معد واقع ہوا ہے اپنے ماقبل سے، مفعول معد کا اپنے ماقبل کے ساتھ فعل میں شریک ہونا کوئی شرط نہیں جیسے استوی الماء والخشبة استوائی کا کام فقط پانی نے کیا لکڑی نے نہیں کیا، لکڑی تو ایک جگہ گاڑی ہوئی ہوتی ہے، پانی چڑھتا ہے جب پانی لکڑی کے سرے پر آ جاتا ہے تو عرب والے بولتے ہیں، استوی الماء والخشبة والخشبة، مفعول معد واقع ہوا ہے اب دوسرا مثال جیسے سرت والنیل یہاں والنیل بھی مفعول معد واقع ہوا ہے۔ کیوں کہ اگر واو جمع کے لئے ہوتی تو سرت و جری النیل ہوتا کیونکہ پانی کا کام جریان ہے نہ کہ اس پانی کا کام سیر کرنا، اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ میں نے سیر کی مع النیل کے یعنی میں نے نیل کے کنارے کنارے سیر کی۔

تیری مثال کونو انتمو و بنی ابیک مکان الكلمین من الطحال، یعنی تم اپنے چیاز اد بھائیوں کے ساتھ یوں ہو جاؤں جیسے گردے تلی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم یک جان ہو کر رہو، یہاں وسنی ابیکم مفعول معد واقع ہوا ہے، یہ مطلب نہیں کہ تم ہو جاؤ اور تمہارے چیاز اد بھائی ہو جائیں۔

چوڑی مثال مات زید و طلوع الشمس مطلب یہ ہے کہ زید

سن و الجماعت اور مرزا تی مذهب والوں میں قانون کا اختلاف ہے، علماء دیوبند اور علماء بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے قانون کا نہیں، چنانچہ فقہاء حنفیہ نے تصریحات فرمائی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ کفر کسی شبہ کی بناء پر کہتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی، دیکھو رواجہ روا بحر الرائق۔

☆ ..... بہاولپور سے واپسی پر ریل گاڑی میں احتراق نے عرض کیا کہ سلطان پور لوڈی ضلع جاندھر میں حیات عیسیٰ علیہ السلام پر میرا مناظرہ مرزا یوں سے ہوا میں نے مجملہ دلائل کے ایک یہ آیت بھی پیش کی تھی: ﴿فَلَمْ يَمْلِكْ مَنِ الْأَنْهَى إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمُسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأَمْهَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اس پر وہ مرزا تی کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو اس نے کیا کہدیا، اس میں تو امہ، کالفاظ بھی ہے۔ احتراق نے عرض کیا کہ یہ آیت پاک بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، کیوں کہ فرمایا ان ارادہ کا یہ مدلک المسيح بن مریم موت تو در کنارا بھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی نہیں فرمایا اور عرض کیا کہ ومن فی الأرض جمیعاً بھی تو ہے، کیا قیامت آگئی؟ ومن فی الأرض جمیعاً مر گئے؟ جب سارے مریں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرمائیں گے، رہا مہ کالفاظ سواں میں کیا حرج ہے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ابھی تک زندہ ہیں کوئی کفر ہے؟ اس پر بہت مکرائے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا، دیکھو میں بیان کرتا ہوں،

مر گیا سورج کے نکلنے کے وقت، یہ مطلب نہیں کہ زید مر گیا اور طلوع شمس بھی مر گیا، غرض اس طرح بہت طویل تقریر فرمائی۔ بہت سی آیات اور بہت سے اشعار پیش فرمائے۔

نوٹ: میں اپنے بچوں کو ایک دفعہ ”متمہ آجر دمیہ“ پڑھارتا تھا، مفقول معد کے بیان میں اس میں یہ سب امثلہ موجود ہیں اور اشمعونی میں بھی ہیں اور حافظ جلال الدین سیوطی کا ایک رسالہ نجوم کا ہے اس میں بھی ہے، ”متمہ آجر دمیہ“ میں یہ کمال ہے کہ ہر ایک مسئلہ کی مثال میں قرآن اور حدیث کو پیش فرماتے جاتے ہیں، ”آجر دمی“ کہتے ہیں جبکہ زبان میں صوفی کو۔

(۱) حضرت جنتۃ الاسلام مولانا مولوی انور شاہ صاحب فتحر کے معنی کیا کرتے تھے جس میں آدمی کو اپنادین سنبھالنا مشکل ہو جائے۔  
(۲) إن فی ذلک لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید.

اس میں بڑی یادداشت ہے اور فتحر ہے جس کا دل ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر الحواس ہو، شہید کے معنی حاضر الحواس یعنی مغلل نہ ہو۔  
ایک دفعہ مولانا محمد اور لیں صاحب سیکر وڈوی کو یہ فرماتے تھے دیکھنا مغلل نہ بننا۔

(۳) إِلَيْه يَصُدُّ الْكَلْمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ يُرْفَعُ.  
اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے اس کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو باری تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں، کیوں کہ پاک کلمات جو اس کا

کلام ہے اس کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل نیک تو ہمارا فعل ہے اس کو جب قبول فرماتے ہیں تو اپنی طرف کو اٹھاتے ہیں۔

(۴) إِذَا غَلَّا وَاشْتَدَ. جو فہمہ اشراب کے معنوں میں لکھتے ہیں

اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے: جب کہ جوش مارا اور تیز ہوا۔

(۵) ایک دفعہ ترمذی شریف کے سبق میں فرمایا بدیکی اس کو کہتے ہیں جو حواس خسہ ظاہرہ سے محسوس ہو سکے، جو چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں یا جو باقیں کہ ہم سنتے ہیں یا جو چیزیں ہم پہنچتے ہیں یا جو چیزیں ہم سوچتے ہیں یا جو چیزوں کو ہم لمس کرتے ہیں وہ بدیکی ہے۔

ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھی تھے ان کو مولوی محمد اسحاق کہتے تھے، وہ آج کل شاید اب باد کی جامع مسجد کے خطیب ہیں انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ بدیکی کس کو کہتے ہیں سلم العلوم کی عبارت زبانی پڑھ کر سنائی، فرمایا کہ میں تو بدیکی کا مصدق اپنے چھتا ہوں، اور تم سلم کی عبارت سناتے ہو۔

(۶) حلول معنی ہیں کھپ جانا، خواہ حلول سریانی ہو خواہ طریانی۔

(۷) فرمایا کہ فلاسفہ یونان نے جسم کے معنی کئے ہیں، قابل ابعاد تلاشہ، اور جسم کہتے ہیں جو حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو، قابل ابعاد تلاشہ ہونا یہ تعریف صورت جسمیہ پر تو صادق آتی ہے اور حیولہ پر صادق نہیں آتی۔ اور صدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ جو تعریف کہ سب اجزاء پر صادق نہ آئے وہ تعریف جائز نہیں، لہذا ان کے اعتبار سے جسم کی تعریف صحیح نہ

ہوئی۔ میں نے ایک تحریر لکھی ہے جس میں ارسطو کا فلسفہ میں غلطیاں کھانا لکھا ہے، اور وہ تحریر بہت لمبی ہے میں نے دکھایا ہے کہ ارسطو تعریف جسم کی کرنیں سکا، اور فلاسفہ نے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں، میری تحریر امام غزالی سے زیادہ متفق ہے۔

(۸) جب علامہ ابن رشد انگلی کی کتاب طبع ہو کر آئیں اور میں نے مطالعہ کیا اور ان کا امام غزالی پر ردِ بحاتو میں ابن رشد سے بدظن ہو گیا، لیکن جب ابن رشد مالکی کی بدایۃ الجہد اور نہایت المختصہ مطالعہ کی تو مجھے استغفار کرنا پڑا۔

(۹) فرمایا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اثبات باری تعالیٰ پر نیوٹن نے بڑی عمدہ کتاب لکھی ہیں، فرمایا کہ نیوٹن کی میں نے پندرہ تصانیف دیکھی ہیں میں نے جو رسالہ لکھا ہے اور اس میں جو دلائل قائم کئے ہیں ”ضرب الخاتم علی حدوث العالم“، اور ”مرقاۃ الظارم“، اس کو نیوٹن نہیں پہنچ سکا، پھر اقبال نے ضرب الخاتم مجھ سے لے لی اور اس نے بہت سے خطوط لکھ کر ضرب الخاتم کو مجھ سے سمجھا۔ میرے نزدیک جو کچھ ”ضرب الخاتم“، کو اقبال سمجھے ہیں اس کو کوئی مولوی بھی نہیں سمجھ سکا۔

(۱۰) ایک دفعہ میرے دریافت کرنے پر بہاول پور میں فرمایا کہ ڈاکٹر اقبال کو میں نے علامہ عراقی کا ایک فارسی رسالہ قلمبی دیا تھا، ”غاية البيان في تحقيق الزمان والمكان“، کہ زمان کیا ہے اور مکان کیا ہے اس کی عراقی نے بڑی عمدہ تحقیق کی ہے، نیوٹن نے جو کچھ لیا ہے وہ علامہ عراقی سے


لیا ہے اس کی اپنی تحقیق نہیں، یہ سن کر حیران ہو گیا۔ پھر اس نے یورپ کے اخباروں میں بیانات دیئے، یہ قصہ ۱۹۲۸ء میں جب ڈاکٹر اقبال نے خطبہ صدارت سنایا تھا، بھی سنایا تھا۔

(۱۱) دسمبر ۱۹۲۸ء میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اللہ شرقیہ کا ایک جلسہ ہوا تھا جس کی صدارت ڈاکٹر اقبال نے کی تھی، اور احتقر بھی اس جلسہ میں شریک تھا، ڈاکٹر اقبال نے یہ قصہ اس میں بھی سنایا تھا اس جلسہ میں کلکتہ تک کے پروفیسر جمع ہوئے تھے اور حیدر آباد سے مولانا حبیب الرحمن صاحب شیر و اولی بھی ایک جلسہ کی صدارت کے لئے تشریف لائے تھے اس میں تمام پروفیسر حضرات شاہ صاحب کی تحقیقات ڈاکٹر اقبال کی زبان سن کر حیران رہ گئے۔

(۱۲) مولانا غلام محمد صاحب مرحوم برادر خوردمولانا خیر محمد صاحب مہتمم مدرسہ عربیہ خیر المدارس ملتان فرماتے تھے کہ جب میں مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں پڑھتا تھا تو، ہمارا سالانہ امتحان لینے کے لئے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب تشریف لائے اور میرا مخلوٰۃ شریف میں امتحان لیا، اور یہ حدیث سنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برلن سے غسل فرماتے تھے، اور میں پانی لینے میں پیش قدمی کرتی تھی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ پیش دستی کرتی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ ہمیں تو استادوں نے پیش قدمی پڑھایا اور اصل ترجمہ پیش دستی ہے۔

(۱۳) ہمارے استاد حضرت مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں سہارن پور مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے جب حضرت چلنے لگے تو میں نے حضرت کا سامان اٹھالیا، اور اشیش پر پہنچا دیا۔ اس وقت گاڑی ٹگینہ تک جاتی تھی، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر انام محمد انور شاہ ہے میں اس وقت مولانا مشیت اللہ بجنوری کے ہاں جا رہا ہوں اگر کوئی کام ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ مولانا مشیت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بجنور ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے ہم اکثر حضرت کو شکار کے لئے گھوڑے پر سوار کر کے لے جاتے تھے جو گھوڑا کہ منہ زور ہوتا تھا اس پر حضرت کو بٹھاتے تھے، حضرت شاہ صاحب بڑے ہی شہسوار تھے اور نشانہ خوب لگاتے تھے، ایک دفعہ ہم نے مکان کا فوٹو کھنچا یا تو حضرت شاہ صاحب نے فوٹو گرافر سے فرمایا کہ تم لوگ یہ مصالحے استعمال کرتے ہو وہ فوٹو گرافر جیران رہ گیا۔

(۱۴) ایک دفعہ فرمایا کہ میرے پاس سامان نہیں ورنہ میں ہوائی چہاز کی آواز کو بندر کر دیتا۔ غرض کر آپ کی نظر سے کوئی بھی چیز او جمل نہیں رہی تھی۔ حضرت رائے پوری مولانا عبد القادر صاحب فرماتے تھے کہ شاہ صاحب تو آیات من آیات اللہ تھے۔



### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جس روز بہاول پور پہنچے اس کے دوسرے روز حضرت خاتم النبی شین مولانا سید انور شاہ صاحب کی خدمت میں علماء جمع ہوئے جن میں خاص طور پر قابل ذکر حضرت مولانا مرتضیٰ حسین صاحب مرحوم اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب سہار پوری اور حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب سہارن پوری اور احتقر بھی شامل تھا، اگلے دن چونکہ مولانا محمد شفیع صاحب کی شہادت تھی اس لئے مشورہ ہوا کہ شہادت میں بیان کس طرح دیا جائے، مولانا اسعد اللہ صاحب اور احتقر محمد لاںک پوری عقا اللہ عنہ کو حضرت شاہ صاحب نے تجویز فرمایا کہ بطور مختار مقدمہ کام کریں، مدعاہ کی طرف سے ہم دونوں مختار مقرر ہوئے، اور ہم نے اس کام کو بزرگوں کے زیر سایہ بحمد اللہ نبھایا۔ میں نے اس مجلس میں عرض کیا کہ مرزا غلام احمد قادریانی نے ”انجام آئھم“ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی اجتماعی عقیدہ کا انکار کیا تو اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے رسول کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہے، پھر مرزا غلام احمد قادریانی نے ختم بوت جو ایک اجتماعی عقیدہ ہے اس کا انکار کیا اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اجتماعی ہے اس نے خود ہی عیسیٰ بننے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ علماء نے تشرع کی ہے کہ یہ عقیدہ اجتماعی ہے اور اس کا انکر کافر ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم کرنا اور ان پر اعتقاد کرنا بھی اجتماعی عقیدہ ہے، چنانچہ علماء نے اس کی بھی تشرع کی ہے کہ تو ہیں انبیاء علیہم السلام العیاذ باللہ تو ہیں کرنا تو کافر ہے،

چنانچہ "الصارم المسلول" میں حافظ ابن تیمیہ نے قرآن اور حدیث اور بے شمار علماء کی کتابوں سے اس مسئلہ کو خوب لکھا ہے، میں نے جب یہ بات کی تو حضرت شاہ صاحب اس کو غور سے سنتے رہے پھر اگلے دن صحیح کو میرے پاس مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لائے کہ وہ عبارت کہاں ہے میں نے نکال کر پہلے پہلے تو اپنی بیاض میں سے دکھایا، پھر اصل کتاب میں سے وہ عبارت نکالی، جب کچھری کو چلے گئے تو میرے پاس کچھری میں مولانا مرتضی حسن صاحب تشریف لائے کہ وہ عبارت جو تو نے حضرت شاہ صاحب کے سامنے پڑھی تھی وہ مجھے دکھا، پھر میں نے اپنی بیاض میں سے ان کو وہ عبارت لکھوا دی، اور اصل کتاب سے بھی دکھادی۔ پھر تو حضرت شاہ صاحب ہر مشورے میں احرقر کو بلا تے تھے اور بڑا اہتمام فرماتے تھے، مولانا محمد شفیع صاحب کے بعد مولانا مرتضی حسن صاحب مرحوم کا بیان ہوا حضرت شاہ صاحب نے بیان دیا، احرقر اس خدمت پر مامور تھا کہ کتابوں سے عبارات اور حوالہ جات نکال کر حضرت شاہ صاحب کے سامنے رکھتا تھا یہ میں نے حضرت کی بڑی کرامت دیکھی جس کتاب کے متعلق فرماتے تھے کہ فلاں کتاب سے یہ عبارات نکال تو میں فوراً نکال کر دکھادیتا تھا اور حضرت اس عبارت کو پڑھ کر نجح صاحب سے لکھوا دیتے تھے۔ درمیان میں قادیانی مختار مقدمہ نے کہا کہ آپ حوالہ دیں، آپ نے فرمایا کہ میں جب حوالہ دینے پر آؤں گا تو کتابوں کے ڈھیر لگادوں گا، پھر فرمایا کہ نجح صاحب انہوں نے کبھی مولوی دیکھے نہیں۔

ضروری ہے کہ اس کا سامان سارے کا سارا مہیا کیا جائے، پس کلمہ اللہ کا اس کا متنکفل ہے کیوں کہ یہ علم ہے اس ذات پاک کا جو مجمع جمیع صفات کمال ہے، پھر اس کام کے پورا ہونے تک وہ سامان باقی بھی رہے اس کا حُسن کا کلمہ متنکفل ہوا یعنی بقاء عالم اس کلمہ کے ساتھ مربوط ہے۔ تیرے پایا جانا فائدہ اس کام کا، اور یہ صفت رحمی کا کام ہے کہ اپنی رحمت سے محنت بندوں کی برداشیں کرتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جامع الادیان ہے اس لئے تیمیہ میں یہ نام جمع فرمائے گئے، عربوں کے ہاں تو کلمہ اللہ کا مشہور ہی تھا (بنی اسماعیل میں) بنی اسرائیل میں لفظ رحمٰن مشہور تھا۔ «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى» قرآن عزیز نے دونوں اسماء کو جوڑ دیا کہ جو اسم بھی پکارو سب اسماء حسنى ہیں، پہلے عرب یوں کہتے تھے وما الرحمن آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تھا، پھر قبلہ تا قیامت کعبہ شریف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ہیں جب کہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو کعبہ شریف ہی کا رخ کریں گے اور حج بھی کریں گے یعنی شریعت محمد یہ پر عمل درآمد کریں گے، یہ اس طرف اشارہ ہو گا کہ سب ادیان ایک ہو گئے اور محمد رسول اللہ ہی خاتم الانبیاء ہیں یہ عملی طور پر ثابت فرمادیں گے۔ بزرگان دین نے ان اسماء کا ورد کرنا فرمایا ہے تاکہ ان کی برکت سے دینی و دنیاوی نعمتیں ملتی رہیں۔

☆☆☆

## سورة فاتحہ

الحمد لله رب العلمين

(ف) بسم الله شریف اگر چہ فاتحہ کا جزو نہیں لیکن قرآن کا جزو ضرور ہے اور اس کا پڑھنا شروع رکعت میں اکثر کے نزدیک واجب ہے، زیارتی شرح کنز اور زادہ نے مجھی سے نقل کیا ہے کہ بھی صحیح روایت ہے۔  
ابو حنیفہ سے (وہ بانیہ میں ہے) نے اپنے منظومہ میں فرمایا ہے:

ولو لم يسمِل ساهیا کل رکعة  
فيسجد إذ ايجابها قال أكثر

کبیری میں بھی لکھا ہے کہ بھی احوط ہے۔

سورہ فاتحہ مکیہ ہے یہاں محمد پر الف لام استغراق کا ہے، یعنی سب افراد محمد کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، جتاب باری تعالیٰ عز اسمہ نے اپنی محمد ذات پاک کے ساتھ مخصوص فرمائکر بعد میں اس کی تین صفات علی الترتیب ذکر فرمائیں (۱) تربیت، (۲) رحمت، (۳) جزا، اس لئے کہ کوئی کسی کی تعریف جب کرتا ہے یا تو اس لئے کہ اس کے احسانات سابقہ اس کے مدنظر ہوتے ہیں یا زمانہ حال میں اس پر احسان کرتا ہے یا آئندہ کو امید ہوتی ہے کہ مجھ پر احسان کرے گا۔

باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے صفت و شاکریں وہ اس واسطے بھی ہے کہ میں نے ان پر بے شمار نعمتیں پہلے عطا کی ہیں کہ صفت ربوہیت کی رکھتا ہوں ان کو پیدا کرنا اور تربیت ظاہری اور باطنی کرنا اور جو نظر اس پر کریں

کہ اس کی نعمتیں بے شمار فی الحال موجود ہیں کہ رحمٰن و رحیم ہوں۔ اور اگر دو اندیشی کا طریق اختیار کریں تو بھی میں ہی مُسْتَحْقِ جم ہوں کہ جزا بھی میری طرف سے ملے گی، غرض ہر ہر جوڑ کی عبادت الگ الگ ہے، مثلاً دل کی عبادت یہ ہے کہ جو عقائد انبیاء علیہم السلام لائے ہیں ان پر یقین کرنا اور حق مان لینا اور اس پر دوام کر لینا، روح کی عبادت یہ ہے کہ اس کے مشاہدہ میں غرق رہنا اور اس کے مراقبہ میں آرام پانا، اور سر کی عبادت یہ کہ اس کی معرفت میں ڈو بار ہنا حتیٰ کہ ولات کن من الغافلین نصیب ہو جائے، غرض عبادت کی حقیقت یہ کہ اس کی مرضیات میں غایت تذلل کے ساتھ اپنے تمام اعضاء اور ظاہری باطنی قوتوں کو لگائے رکھے اور ایک دم بھر کے لئے غافل نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ جب بندہ الحمد لله رب العالمین کہتا ہے تو ادھر سے ارشاد ہوتا ہے حمدنی عبدی اور الرحمن الرحیم کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے اثنی علی عبدی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے مجدعی عبدی بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایسا ک نعبد و ایسا ک نستعين جب کہتا ہے تو فرماتے ہیں هذابینی و بین عبدی و لعبدی مسائل یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ سوال کرے گا۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے هذا لعبدی و لعبدی مسائل یہ

میرے بندے کا حق ہے اور میرے بندے کو وہ بھی ملے گا جو اس نے سوال کیا۔ حدیث کے شروع میں قسمت الصلاة بینی و بین عبادی یہاں پر صلاة بمعنی سورۃ فاتحہ، حدیث بخاری میں یوں بھی وارد ہے و إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، جب امام کہے غیر المغضوب عليهم ولا الضالين تو تم آمين کہو یعنی الحمد شریف کے ختم پر آمین کہنا چاہئے معلوم ہوا کہ الحمد شریف پڑھنا حق امام کا ہے مقتدی کا حق صرف آمین کہنا ہے۔

جیسے واذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولک الحمد سواس کو آہتہ ہی کہتے ہیں آمین بھی آہتہ ہی کہنا چاہئے، آمین کے معنی اے اللہ تو قبول فرمائے۔ (اجتب)

أنعمت عليهم، چار قسم کے گروہ ہیں انبیاء، صد ایقین، شہداء صالحین، یعنی آخرت میں ان کے ساتھ حشر فرم۔ عوام کو چاہئے کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں اور ان کے سینوں سے انوار لیتے رہیں ان کا طریق اختیار کر لیں، صالحین بسبب کمال متابعت کے اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو اعتقادات فاسدہ اور اخلاقی ردیلہ سے دور رکھتے ہیں اور یادِ حق میں ایسا لگ جاتے ہیں کہ دوسری طرف توجہ کرنے کی گنجائش ہی ان میں نہیں رہتی تا آنکہ باری تعالیٰ ان کو پھر دوسری جانب سے محفوظ فرمایتا ہے، ﴿الذین امنوا و كانوا يتقون﴾۔ اور شہدا و حضرات ہیں کہ ان کے قلوب مشاہداتِ حق میں اور تجلیات میں مستغرق ہوتے ہیں اور

جو کچھ انبیاء علیہم السلام نے پہنچایا ہے دل ان کے اسی شان سے قبول کر لیتے ہیں، گویا دیکھتے ہیں اسی واسطے را حق میں جان دے دینا ان کے لئے آسان کام ہوتا ہے۔ اور صدقیق وہ ہیں کہ قوت نظریہ ان کی انبیاء علیہم السلام کی طرح کامل ہوتی ہے، اور ابتداء عمر سے جھوٹ بولنے اور دورنگی سے دور رہتے ہیں امور دین میں بالکل خدا کے واسطے لگر رہتے ہیں خواہش نفس کو ہرگز ہر گز دخل نہیں ہوتا، صدقیق کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ارادہ میں تردید بالکل نہیں ہوتا، انبیاء علیہم السلام وہ نفوس قدیسیہ ہیں جن کی تربیت براہ راست باری تعالیٰ عن اسمہ فرماتے ہیں کہ نور پاک کی تاشیران میں ایسی کامل ہوتی ہے کہ مطلقاً غلطی اور شبہ ان کے معلومات میں راہ نہیں پاتے ان کو اللہ تعالیٰ معصوم اور محفوظ رکھتا ہے، لہذا لوگوں پر واجب ہے کہ بتقیش وجہ کے انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے احکام مان لیں، انبیاء پر اعتراض کرنا یہود نے شروع کیا العیاذ بالله۔

صراط الذين أنعمت عليهم. گو ظاہر میں آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہم السلام کے بعد میں تشریف لائے لیکن باطن میں آپ کی ہدایت سابقین انبیاء علیہم السلام میں سرایت کرتی رہی، أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده یعنی ان کی ہدایت بھی آپ ہی کی ہدایت ہے جو ان کے باطن میں سرایت کر گئی، تو جب آپ ان کی ہدی پر چلیں گے تو یہ درحقیقت ان کا ہدایت پانا آپ کی ہدایت سے ہوا، کیوں کہ آپ کو اولیت باطن حاصل ہے اور ظاہر آخریت ہے، ورنہ بھم اقتده ہوتا، اور حدیث

کنت نبیا و آدم بین الماء والطین وغیرها نصوص اسی طرف مشیر ہیں کہ جو مقدم نبی ہوئے ہیں وہ اپنی بحث میں آپ ہی کے نائب ہوئے ہیں، برداشی والی حدیث بھی اسی کی موید ہے۔ فعلمت علم الأولین والآخرین سے مراد انبیاء ہی ہیں جو اول ظہور پذیر ہوئے (ایسے ہی آخرین سے مراد وہ انبیاء جو بہ نسبت اولین کے بعد میں آئے) اور حضور صلی اللہ علی وسلم سے قبل ہی تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علی وسلم کے جد شریف کے ظہور سے متقدم تھے، الیاقیت ج: ۱۸۔ ص: ۲۴-

هدی للمنتقین. معلوم ہوا کہ تقوی کا اطلاق معانی متفاوت پر ہوتا ہے، کبھی ایمان کے معنوں میں آتا ہے وآلزمهم کلمۃ التقوی کبھی توبہ کے معنی دیتا ہے مثلاً لو ان اهل القری امنوا واتقوا کبھی طاعت کے معنوں میں آیا ہے، مثلاً ان اندروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، کبھی ترك گناہ پر بولا گیا ہے مثلاً أتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله کبھی اخلاق کے معنی میں آہے فانها من تقوى القلوب، از فتح العزیز۔

الْمَ يَحْرُوف مقطعات کہلاتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی کلام رباني ہے ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، ذلک الكتاب یہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے لاریب فيه اس کے برحق اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیوں کہ خلا عام اور دائیٰ چیزیں کیا گیا کہ اگر تمہیں رب ہے تو اس طرح کا کلام بنالا و یا کم از کم سورتیں ہی بنالا و کم از کم

ایک ہی سورت بنالا و تم بھی اہل اسارن ہو عرب ہو مکہ معظمہ کے رہنے والے ہو عرب العرباء ہو، مگر بحمد اللہ آج تک کوئی نہ لاسکا یا تو اس کی مثل لا و یا پھر جب مقابلہ کی تاب نہیں تو اس پر ایمان لا و۔

هدی للمنتقین یہ قرآن ہادی ہے منتقین کے لئے، یعنی جو پر ہیز کرتے ہیں انہیں اس قرآن سے فائدہ پہنچتا ہے اس کے ہادی ہونے میں تو کچھ شک نہیں لیکن جو اس پر عمل کرے گا اس کے حرام کو حرام سمجھے گا اور حلال کو حلال یقین کرے گا ممنوعات سے پر ہیز کرے گا وہی شفایات ہو گا، ورنہ نخے کے تو شافی ہونے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔

الذین يؤمنون بالغیب یعنی جو لوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں اور باری تعالیٰ کو ذات اور صفات اور افعال میں یکتا یقین کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا فقط محمد رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لیا یہی ایمان بالغیب ہے تام ثواب اور عقاب یہ سب امور غیریہ ہی ہیں۔

ایمان کے معنی لغت میں گرویدن، یا ورکردن اور اصطلاح میں انبیاء علیہم السلام کے اعتماد پر جو کچھ باری تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں یقین کر لیتا اور مان لیتا ایمان کہلاتا ہے۔ کفر کے معنی مکر جانا یعنی مکر ہو جانا، یعنی جو امور انبیاء علیہم السلام باری تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان کے بع ہونے میں شبہ نکالنا یا نکندیب کرنا کفر کہلاتا ہے۔

و يَقِيمُون الصلاة۔ اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کے فرائض واجبات و شرائط سنن مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر دوام کرتے ہیں یعنی

پوری اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔  
ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے  
اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں یعنی ماں میں غراء کا بھی حق یقین کرتے  
ہیں۔

وَفِي أموالهِمْ حُقْكُلُ السَّائِلِ وَالمحروم، وَالذِّينَ يُؤْمِنُونَ  
بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكُمْ، يَمْتَنُّ لَوْگُوں کا ہی تفصیلی حال  
ہے مونین اہل کتاب ہی ضروری نہیں کہ اس سے مراد ہوں، چنانچہ فرماتے  
ہیں ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ  
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ  
مُسْلِمُونَ﴾ (پ ۳ رکوع آخری) اور پارہ اول رکوع آخری میں ﴿قُولُوا  
آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا  
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ بھی آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں  
یہ بھی آیا ہے ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  
كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ  
رَسُلِهِ﴾، ﴿أَوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ﴾ یعنی بھی لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل  
گئی اور آخر میں کامیاب ہوں گے۔

ایمان کی تحقیق کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا  
(فتح العزیز) کہ ایمان کا ایک تو وجود ذاتی ہے دوسرا وجود یعنی تیسا وجود لفظی،  
وجود یعنی تواصل ہے ایک نور کی جو بسبب حجاب رفع ہونے کے حاصل ہوتا  
ہے، جب بندہ مومن میں اس کے رب تعالیٰ شانہ میں حجاب رفع ہو جاتا ہے  
یہی نور جس کو کمشکوہ فیہا مصباح اور اللہ ولی الذین آمنوا  
یخرجهم من الظلمات إلى النور میں فرمایا ہے جب حجاب رفع ہوتا  
ہے اور نور ایمان قوت پکڑتا ہے اور اونچ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ نور پھیل کر تمام  
اعضاء کو گھیر لیتا ہے، پھر پہلے تو انتشار صدر حاصل ہوتا ہے اور حلقائی اشیاء  
پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر حلقائی ہر شی کے متعلق ہوتے ہیں ہر ایک شی کو اپنے  
مقام پر جلوہ گر پاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا صدق جن اشیاء کی اطلاع  
انبیاء علیہم السلام نے دی ہے تفصیلی طور پر اس پر مکشف ہوتے ہیں، اور اوامر  
اور نواہی کے موافق حکم الہی پر عامل ہوتا ہے اس حال میں خصالِ حمیدہ  
اخلاق فاضل پیدا ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ انوار معرفت کے ساتھ مل کر  
ایک عجیب روشنی پیدا کرتے ہیں ﴿يَهُدِي اللَّهُ لَنُورٍ مِّنْ يَشَاءُ﴾.  
اور وجود ذاتی ایمان کا دو مرتبے رکھتا ہے، اول کلمہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
کے معنی کا انکشاف جس کو گرویدن اور باور کردن بھی کہتے ہیں اس کا نام  
تقدیق اجمائی ہے، دوم ہر شی کا تفصیلیہ طور پر مکشف ہونا اور جو ارتباط ان  
میں ہے اس کو بھی لحاظ رکھنا۔  
اور ایمان ایک وجود لفظی شریعت کی اصطلاح میں کلمہ شہادتین کا

اقرار ہے اور کلمات اس کلمہ طیبہ کے زبان سے جاری کرنا۔

ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور کفر پر ہی مر گئے اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص آخری عمر میں ایمان لایا اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ مومن ہے اس طرح کسی کو کافرنہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ کفر پر ہو جائے۔ کفر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے دینِ محمدی ہونے سے ہی انکار کر دے، اور معنی انکار کے نہ مانتا ہے خواہ اس کی حقیقت پہنچانا تا ہو یا نہ پہنچانا ہو۔

ختم اللہ علیٰ قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر مہر کردی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے کافنوں پر بھی مہر ہے جیسا کہ وختم علیٰ سمعہ و قلبہ و جعل علیٰ بصرہ غشاوۃ کے استدلال دوسروں کا بھی نہیں سنتے اور ان کی بینائیوں پر پرده پڑا ہوا ہے کہ بالکل دیکھنے نہیں دیتا، دل اور کان پر مہر کا ذکر کیا اور بینائیوں پر پرده لٹکانا ذکر فرمایا، اس کا سبب یہ کہ یہ چیز مدرکات کو باہر سے اندر کی طرف لاتی ہیں، آنکھ پر پرده کا ذکر اس لئے کیا کہ پرده آنکھ کا شعاع کو باہر نکلنے سے روکتا ہے، اور وہی مشاعر رؤیت کا ہے، اور عقلاء کا قاعدہ باندھا ہوا ہے کہ باہر کی چیزوں کے اندر آنے سے روکنے کے لئے مہر کرتے ہیں اور اندر کی چیزوں کو روکنے کے لئے پرده ڈالتے ہیں۔

وَمِن النَّاسِ يَرْدُوْنَ عَلَوْنَ كَا كَرْتَهِ ہیں علم توحید اور علم معاد کا بھی دو علم اصل دین ہیں، پس کہتے ہیں کہ ہم نہ تو مشرک ہیں نہ محبوب حق سے ہیں، حالانکہ ایمان ان کی ذات سے مسلوب ہے کسی وقت نصیب نہ

ہوگا، ان کو منافق کہتے ہیں، نفاق کی کئی اقسام ہیں جیسے کہ احادیث میں مروی ہیں۔

قالوا هذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِ، یعنی جزا درحقیقت مجری علیہ کے ظہور ہی کو دوسرا شکل میں کہتے ہیں یعنی وہ اعمال ہی ہوں گے جو ثمرات کی اشکال میں نہ مودار ہوں گے۔ «ذوقوا مَا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 『فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهِ』۔

دانہ خلاف تھجّم نے ہر چہ بود ز جبر وقدر  
آنچہ کہ کشتہ در و حظہ پر حظہ جوز جو

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں معنی تجزیہ ہی نے دنیا میں تو باب کلمات طیبات کا پہن لیا آخرت میں یہی اعمال صالحات اور کلمات طیبات ثمرات اور اشجار کا باب پہن لیں گے جیسے حدیث میں ہے کہ ایک نہایت ہی جمیل آدمی قبر والے کو مانوس کرنے کے لئے پاس رہے گا وہ یہی عمل ہی اس شکل میں ہوگا معانی مجسد ہو جائیں گے۔

یا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا، مخفی نہ رہے کہ باری تعالیٰ نے ان آیات میں پانچ نعمتوں جو دلائل توحید کے ہیں بیان فرمائیں:

اول: انسان کی پیدائش، دوم: پیدائش ان کے باپ و ادھوں کی، ان دونوں نعمتوں کو ایک جگہ فرمایا۔ سوم: پیدائش زمین کی۔ چہارم: وہ نعمت جو دونوں سے حاصل ہوئی کہ آسمان سے پانی برسا اور زمین سے غلے، پھل جو خلوق کی غذا ہے۔ ان تینوں نعمتوں کو یکجا لائے وجہ یہ ہے کہ پہلی دو نعمتوں

نفس سے متعلق ہیں اور تینوں نعمتیں جسمانی ہیں، پہلی نعمتوں کو مقدم اس لئے رکھا کہ انسان کو سب سے زیادہ قرب اپنے نفس سے ہوتا ہے پھر اپنے اصول اقرباء ماں باپ وغیرہماں سے، پھر زمین جو جگہ انسان کے رہنے کی ہے، پھر جب نظر اٹھاتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں پھر وہ چیز ذکر فرمائی جو مجموعہ ان دونوں صحن اور چھت سے پیدا ہوتی ہے یعنی بارش، پس جیسا کہ ان انعامات کا دینے والا فقط باری تعالیٰ ہی ہے کوئی اس کا شریک سہیم نہیں لہذا شکر میں اسی ہی کو مخصوص کرو کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کہہ رہا چہ جائیکہ اس کا شریک الہیت میں اور اس کی صفات کمال میں ہو۔

قولہ تعالیٰ: ﴿الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به﴾، شریعت کے عرف میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں یعنی گرویدن باور کردن، جو چیزیں کہ بالیقین معلوم ہیں کہ دین محمدی سے ہیں اس لئے کہ ایمان کو قرآن میں جا بجاوں کے کام سے تعبیر فرمایا گیا ہے چنانچہ ﴿قلبه مطمین بالإيمان﴾ ﴿کتب فی قلوبهم الإيمان﴾ ﴿ولما یدخل الإيمان فی قلوبکم﴾ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دل کا کام یہی تصدیق ہی ہے اور اس، نیز ایمان کا عمل صالح کے ساتھ مقرر و فرمایا، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اور معاصی کے ساتھ بھی ذکر فرمایا چنانچہ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والذين آمنوا ولم یهاجروا. پس معلوم ہوا کہ اعمال نیک کو ایمان میں دخل نہیں نہ اعمال بد سے ایمان درہم برہم ہوتا ہے اور اقرار محض کی بھی بلا تصدیق نہ مرت کی ہے:

وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .  
پس معلوم ہوا کہ اقرار محض تو ایمان کی حکایت ہے، اگرچہ عنہ کے مطابق ہو تو  
معتبر ہے ورنہ کچھ نہیں، بھی عنہ تو تصدیق ہی ہے۔

تحقیق مقام اس جگہ یوں ہے کہ جس طرح ہر چیز کا تین طرح کا وجود  
ہے ایمان کا بھی تین طرح کا وجود ہے ایک لفظی، دوم ذہنی، سوم عینی، وجود عینی تو  
اصل ہے، باقی وجود اس کے تابع ہیں، ایمان کا وجود عینی تو وہ نور ہے جو دل میں  
حاصل ہوتا ہے اور اس کے سبب سے تمام پردے بینہ و بین الحق رفع ہو جاتے  
ہیں۔ مثل نورہ کمشکوہہ فیها مصباح میں تمثیل مکمل فرمائی گئی۔

چنانچہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اس کا  
سبب بیان فرمایا کہ یہ نور انوار محسوسہ کی طرح قوت و ضعف، اشہاد و انتقاد  
قبول کرتا ہے، چنانچہ آیت و إذا تلیت عليهم آیاتہ زادتهم إيماناً، اس  
کی زیادتی کا طریقہ یہ ہے کہ جوں جوں چاپ مرتفع ہوتا جاتا ہے وہ نور زیادہ  
ہوتا جاتا ہے اور ایمان قوت پکڑتا ہے تا آنکہ اونچ کمال تک پہنچ جاتا ہے اور  
خوب پھیل جاتا ہے اور جمیع قوی اور اعضاء کو گھیر لیتا ہے۔ پس اول توشیح  
صدر ہوتا ہے اور اشیاء کے خلاف پر مطلع ہوتا ہے اور ان بیانات علیہم السلام نے جو کچھ  
عقائد بیان فرمائے ہیں وہ وجدانی ہو جاتے ہیں۔ اور بقدر اشراحت صدر کے  
ہر امر کے بجالانے میں مستعد ہو جاتا ہے اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے۔ اور  
روجولفظی ایمان کا حکم شہادتیں ہے۔ أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنْ  
محمد رسول الله۔

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاوَاتِ، خَوَاهُ دُوِّيُّ أَرْضٍ كَوْپَلِيَّ كَهُو خَوَاهُ تَسْوِي  
آسَانَ كَوْپَلِيَّ كَهُوبَ درست ہے۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِسْمَاعِيلَ مِنْ فَرْمَائِيَّاً كَمَسْكَلَةٍ تَوْحِيدَ  
كَبَعْدِ إِيمَانِ نَبُوتٍ پَرِلَانَا فَرْضٌ هُوَ، يَبْعَدِي فَرْمَائِيَّاً كَمَطَاعَتِ اللَّهِ جَبَ  
مُعْتَرٍ بِهِ كَمَا كَفْرَمَنَّ لِلَّهِ كَفَرَمَنَّ كَمَطَاعَتِ كَرَمَنَّ، جَيْسَهُ أَطِيعُوا  
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِرَاسَ مِنْ حَسَنٍ وَقَبْحٍ كَعُقْلِيَّا يَا شَرْعِيَّا هُونَابِعِيَّ  
فَرْمَائِيَّاً كَيَا، اُورِعَدِلَ اُورِجُورَبِعِيَّ مَنْكُشَفَ كَيَا كَيَا اُورِاسَاءَ احْكَامَ وَعَدَهُ اُورِعَدِبِعِيَّ  
بِيَانِ فَرْمَائَيَّ گَنَّيَّ، اُورِلَقْدِرِيَّ خَيْرُو شَرْمَنَ اللَّهُ تَعَالَى اُورِيَّ كَمَسْبَعَ اُمورَكَ عَلَمَ كَيِّ  
إِنْتَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَطْرَفَ هُوَ، اُورِيَّ كَشَرَفَ عَبُودِيَّتِ مِنْ ہِيَ ہے اُورِتَوبَهُ مِنْ  
ہے اُورِيَّ كَلاِسِلَ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَلُونَ اُورِيَّ كَآخْرِيَّ حَيْلَهُ مَرَاجِمَ  
خَرْوَانَهُ مِنْ اَپِيلَ دَارَرَكَنَ ہے۔ اُورِيَّ كَسَبَتِ رَحْمَتِيَّ غَضَبِيَّ اُورِ  
اسَ مِنْ یِهِ كَتَفْصِيلِ اَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَسْبَعَ پَرِ ہے، اُورِمَسْكَلَهُ جَبَرُو قَدَرَبِعِيَّ اِسَ  
مِنْ آگِيَانِيَّ أَعْلَمُ مَالًا تَعْلَمُونَ، جَوْكِچَهُ كَآدِمِيَّ كَجَوارِجَ وَاعْضَاءَ پَرِ  
ظَهِيرَيِّ ہُوا ہے اُولَئِكَيَّا كَأَوْجُودِ مَرْتَبَهُ رُوحَ مِنْ ہُوتَهُ ہے پَھَرَ قَبَ مِنْ پَھَرَ  
قَوِيَّ نَفَاسَيَّهُ مِنْ پَھَرَ جَوارِجَ اُورِاعْضَاءَ پَرِ ظَهِيرَيِّ ہُوا ہے، بَلِيَّ مِنْ  
كَسَبَ سِيَّئَةَ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّهُ فَأَوْلَىكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ. اِسَ كَذَلِيلَ مِنْ وِجْهِ يَهُودَ كَقَلَ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارِ إِلَّا  
أَيَامًا مَعْدُودَةً اُورِانَكَارِمَتَواتَاتِ دِينَ بِعِيَّ كَفَرَهُ۔ بِنِي اِسْرَائِيلَ كَاعْتِقادَ  
فَاسِدَ اُورِانَ کَغَلَطَرَوَشَ اُورِتَجِيفَ کَأَيْمَنِيَّ تَحَاکَهَ کَچَونَکَهُ ہَرِشَرِيعَتِ مِنْ مَعَاصِي

کے دو مرتبے رکھے ہیں ایک یہ کہ معاصی کو معاصی ہی اعتقاد کرے اور ملت حقہ کا انتباع واجب جانتا ہو اور عمل میں خلافت کرتا ہو۔ مثلاً یقین جانتا اور مانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے ایسا ہی زنا چوری، لواطت بھی حرام ہیں کیا رہ ہیں لیکن حجاب کے باعث اس سے ان چیزوں کا صدور ہو جاتا ہے اس مرتبہ کا نام فتن و جور اور عصیان ہے عِبَادَةُ بِاللَّهِ۔ اس کو وعدِ عذاب آخرت تو شریعت مقدسہ نے دیا ہے لیکن وہ ایک مدت مقررہ عند اللہ کے بعد ختم ہو جائے گا عذاب دائمی نہیں ہو گا۔

دوم یہ کہ اعتقاد بھی موافق شریعت حقہ کے نہ ہو، مثلاً جو چیز کہ نفس الامر میں ثابت ہے خواہ از قسم الہیات ہو یا قیامت کے متعلق ہو خواہ شعائر اللہ کے متعلق ہو مثلاً اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو یا رسولوں یا احکام متواترہ دین کا انکار کرتا ہو اس کو جو داور کفر اور زندقہ والخاد کہتے ہیں، اس کے متعلق آخرت میں دائمی عذاب کا وعدہ نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ الفاسق لا يَخْلُدُ فِي النَّارِ وَالْكَافِرُ خَالِدٌ فِي النَّارِ۔

چونکہ ملت حقہ اس زمانہ میں صرف یہود ہی تھے جو کہ بنی اسرائیل تھے وہ اپنی غاہوت سے یہ سمجھ گئے کہ بنی اسرائیل کو عذاب دائمی نہیں ہو گا، اور غیر بنی اسرائیل کو عذاب دائمی ہو گا۔ اس فرقے نے اپنی کندڑتی سے فرق عنوان میں اور معنوں میں نہ کیا اور کہدیاں تھیں تمسنا النار إلا أيام معدودة، حق تعالیٰ شانہ نے اول تو اس کو اس طرح روکیا کہ کیا تم نے خدا سے کوئی عہد اس پر کیا ہوا ہے؟ أَتَخَذَتْ عِنْدَ اللَّهِ عِهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى

الله مالا تعلمون۔ کیونکہ اصل کلام میں تو تخصیص بنی اسرائیل اور یہودی کے نہ تھی بلکہ نصوص تو مطلقاً اہل حق کا ذکر کرتی ہیں، پس نص صریح غیر ماؤں جس کو عہد کرتے ہیں اس بات میں مفتوح تھی، اور تاویلات اعتقادیات اصول دین میں اس قابل نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، نیز یہ کہ تحقیقی بیان سے ان کے شبے کو حل فرمادیا کہ بلی من کسب سیئة و احاطت به خطیته کے فسا علم و عمل اور خرابی عقیدہ و اعمال کی اس حد تک پہنچ جائے کہ ذرہ کی مقدار بھی ایمان باقی نہ رہے موجب خلوٰۃ فی النار کا ہے۔ جس فرقہ میں بھی پایا جائے گو ظاہری میں کلمہ گو ہی ہو اور دعویٰ بھی دین داری کا رکھتا ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ معصیت کو مباح جانا بھی کفر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے عذاب کا خوف بھی اٹھ جائے اور معصیت کی قباحت کا اعتقاد ختم ہو جائے، زبان ہی سے انکار کرنا شرط نہیں بلکہ یہ اعتقاد ہو جائے کہ ہمارے ذارے کے لئے یہ عذاب کی حکمی ہے۔ والعياذ بالله ثم العياذ بالله، مراجعت کرو فتح العزیز کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔

ولقد آتنا موسیٰ الكتاب، یعنی ہم نے سب سے بڑی نعمت کتاب دی اور بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لئے۔ سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر پیغمبر کی اطاعت کرنا اور ان کی تو قیر کرنا لازم جانو۔ حضرت موسیٰ علیہ مینا و علیہ السلام کے بعد گاتار رسول بھیجیے، حضرت یوشع، حضرت الیاس، حضرت الیع، حضرت یونس، حضرت عزیز، حضرت حزقیل، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ

کو عطا کیا تھا جو کچھ عطا کیا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے قصیدے میں فرمایا ہے، کذاف النہایۃ:

نبی خص بالتقديم قدما  
وآدم بعد فی طین وماء  
علا و دنا و جاز الی مقام  
کريم خص فیه بالاصطفاء  
بداقمر بدر فی نجوم  
من الاصحاب أهل الاقتداء  
ولم یر ربہ جھرا سواه  
بسرا فیه جل عن امتراء

(تحیۃ الإسلام مع عقيدة الإسلام ص: ۳۹)

وكان عياناً يقطة لا يشوبه  
منام ولا قد كان من عالم الرؤيا

اور عروج بیداری کی حالت میں تھا ماؤث نہیں تھی نیند کی اور نہ تھا خواب کے عالم سے۔

اور شیخ اکبر نے بیداری کی حالت میں روایا کے حاصل ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور شرح مواہب الدنیہ زرقانی مصری ج: ۶ ص: ۱۱۹ میں بھی ابن المیر نے نقل کیا ہے ص: ۲۲۵ ج: ۸: شرح المواهب اللدنیۃ

للزرقانی، العیان بکسر العین المشاهدة.

قد التمس الصدیق ثم فلم يجد

وصحح عن شداد البیهقی کذا

پیش آپ کے مقام پر تلاش کیا حضرت صدیق نے پس آپ کو نہ  
پایا، اور اس کو صحیح فرمایا حضرت شداد بن اوس سے امام تیہنی نے اسی طرح۔

اور یہ روایت طبرانی اور بزار میں بھی ہے اور جلد: ۳ ص: ۱۳ پر امام  
ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ امام تیہنی نے  
اس کی اسناد کو صحیح فرمایا ہے اور زادہ تیہنی میں بھی ہے اور انہوں نے بھی اس  
حدیث کو صحیح فرمایا ہے، اور دلائل میں بھی ہے جیسا کہ امام زرقانی نے فرمایا  
ہے کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے، اور فتح الباری ج: ۷ ص: ۱۲  
میں بزار اور طبرانی کا حوالہ دیا ہے، اور دیکھو شفاقتی عیاض۔

رأى ربِّه لِمَا دَنَّا بِفُوَادٍ

ومنه سری للعین ما زاغ لا يطغى

جب آپ قریب گئے تو اپنے رب کو دیکھا اپنے قلب مبارک سے  
اور قلب سے رویت سرایت کر گئی آنکھ تک جو کہ ما زاغ تھی اور ماطغی تھی نہ  
آنکھ نے تجاوز عن الحد کیا اور نہ بھکی۔ ما کذب الفؤاد مارأی

رأى نوره إِنِّي يَرَاهُ مُؤْمِلٌ

وأوحى إِلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى

اور آپ نے باری تعالیٰ کے نور کو دیکھا اور امید کرنے والا کہاں دیکھے

سکتا ہے اس کو۔ اور باری تعالیٰ نے اس وقت آپ پر وحی کی جو بھی وحی کی۔

بحثنا فَآلَ الْبَحْثُ إِثْبَاتُ رَوْيَةٍ

لَحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يَرْضِي

ہم نے بحث کی اور بحث کا انجام یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کی رویت  
ثابت کی جائے۔ آپ کی جناب کے لئے آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے جیسا کہ  
راضی ہو۔

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مُبَارَكًا

كَمَا بِالْتَّحِيَاتِ الْعَلَى رَبِّهِ حَسِيبًا

اور سلام بھیجے اللہ تعالیٰ بہت بہت سلام جس کے ساتھ برکتیں بھی  
ہوں۔ جیسا کہ التحیات اللہ والصلوات والطیبات فرمाकر آپ نے اپنے رب کو  
سلام کیا۔

یہ مرقات شرح مٹکوہ ص: ۳۳۱ ج: ۲ میں ابن مالک نے سارا قصہ  
نقل کیا ہے۔

قال ابن ملک: روی أنه صلی الله عليه وسلم لما  
عرج به اثنى على الله تعالى بهذه الكلمات، فقال الله تعالى:  
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال عليه  
السلام: السلام علينا وعلى عباده الصالحين، فقال جبريل:  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبه  
يظهر وجه الخطاب وأنه على حکایة معراجه عليه السلام في

آخر الصلاة التي هي معراج المؤمنين، (ص: ۱۱۱) عمدة القارى جلد ۲ مصرى) قال الشيخ حافظ الدين النسفي: التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات العبادات المالية. (عمدة القارى ج: ۳ ص: ۱۱۲)

كما اختاره الحبر ابن عم نبينا

واحمد من بين الأئمة قد قوى

روى مت كا هنا اختيار كيا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی حبر الامم ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس نے اور اماموں میں سے امام احمد بن حنبل نے اسی کو قوى کہا ہے۔ (نیز شیم الریاض جلد: اص: ۲۹ مطبوعہ لکھنؤیں بھی ہے)۔

ف: امام احمد بن حنبل نے ایک مرفوع حدیث بھی بیان فرمائی ہے مند احمد اور زرقانی شرح مواهب الدینی ص: ۱۱۹ جلد: ۲۔

ف: فی الأوسط یا سند قوى عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين. ومن وجه آخر قال: نظر محمد الى ربها، جعل الكلام لموسى والخلة لا براهم والنظر لحمد، فإذا تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة. جميع ما ذكر صلی اللہ علیہ وسلم، وهكذا في زرقانی ج: ۲، وابن کثیر ج: ۳، زرقانی جلد: ۲ ص: ۳، وفي البخاری (ص: ۵۵۰ ج اول) عن عکرمة عن ابن عباس رضي

الله تعالى عنهمما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال: هي رؤيا عين.

فقال إذا ما المروزى استبانه  
رأه رأى المولى فسبحان من أمرى  
پس آپ نے فرمایا (یعنی امام احمد بن حنبل) نے جیسا کہ امام  
مروزی نے آپ سے بیان کرایا دریافت کیا  
اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ نے اپنے مولا کو دیکھا  
ہے، پس پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔

فتح الباری جلد ۸ ص: ۲۳۱، مصری بخاری ج ۲ ص: ۱۱۰۲ میں کئی وفید آیا  
ہے: فاذا رأيت ربى وقعت له ساجدا. في كتاب السنة عن  
اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزى نزيل  
نيسابور، أحد الأئمة الحفاظ الثقات، روى عن الجماعة  
سوی ابو داود قال الخطیب: كان فقيها عالما، وهو الذى  
دون المسائل عن احمد مات سنة إحدى وخمسين مائين،  
زرقانی، شرح المواهب اللدنیة (جلد ۲ ص، ۱۱۹، مصری)

رواہ أبوذر بن انقد رأيته  
وأنى أراه ليس للنفي بل ثنيا  
اور حضرت ابوذر غفاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے ذات  
باری تعالیٰ کو دیکھا ہے۔

اور انی اراہ یعنی کے لئے نہیں ہے بلکہ کرنفیس کے لئے ہے امام جلیل  
نے بھی یہی فرمایا ہے۔

۲۳۱  
اور یہ یعنی رویت کا مسئلہ قرآن شریف میں سورۃ النجم میں ہے۔  
جب کہ رعایت کرنے والا غور کرے اور اصل مقصود کو پورا ادا کرے۔  
وکان بعض ذکر جبریل فانسری  
الی کله والطول فی البحث قد عنی  
اور بعض طریقوں میں حضرت جبریل کا ذکر ہے، یہ کل کی طرف  
سرایت کر گیا اور بحث کے طول نے تھا دیا۔  
وکان الی الأقصی سری ثم بعدہ  
عروجا بجسم ان من حضرة أخرى  
مسجد اقصی تک تو اسراء تھی پھر اس کے بعد جسم کے ساتھ عروج تھا  
ہاں دوسرے دربار تک۔

عروجا الی أن ظللته ضبابة  
ويغشی من الأنوار إیاہ ما یغشی  
عروج یہاں تک تھا کہ آپ کو ایک بدلتی نے ڈھانپ لیا اور  
انوارات نے آپ کو ڈھانپ لیا جس طرح کہ ڈھانپ لیا۔  
ویسمع للأقلام ثم صریفها  
ویشهد عینا ماله الرب قد سوی  
اور آپ وہاں صریف الأقلام سنتے تھے، صریف الأقلام یعنی قلموں  
کے چلنے کی آواز۔ اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ  
نے آپ کے لئے تیار کیا تھا۔

نعم رویة الرب الجلیل حقیقة  
یقال لها الرؤیا بالسنۃ الدنیا  
ہاں رب جلیل کی رویت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسی کو رویا کہا جاتا  
ہے دنیا کی زبانوں میں۔  
فتح الباری عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں ”رؤیا عین“، کتاب  
التعیر فتح الباری ج ۲ و ج ۷ ص: ۳، زرقانی ج ۶، امام ابن کثیر ج ۱۳ از ص:  
۱۳۷۔

فی عمدۃ القاری (ج ۷ ا ص: ۳۰) : قید به لِإِشْعَار  
بأن الرؤیا بمعنى الرؤیة في اليقظة.

وإلا فمرأی جبریل عوادۃ  
ولیس ببدیعا شکله کان او او فی  
ورنه پس حضرت جبریل کا دیکھنا تو کئی بار تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی  
خواہ کسی شکل میں دیکھا ہو، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل آپ پر چوبیں  
ہزار مرتبہ نازل ہوئے۔

وذاك فی التنزيل من نظم نجمه  
إذا مارعى الراعي ومغزاہ قد وفى

لے گیا، یہ تو قرآن و حدیث نے تصریح کیا ہے لیکن قرآن جیسا کہ قول ہے باری تعالیٰ کا: ﴿سَبَّاحَانِ الدُّجَى أَسْرَى بَعْدَهُ لِيَلًا مِنَ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجَدِ الْأَقْصَى﴾ دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ عبد نام ہے جسد اور روح دونوں کا، تو ضروری ہوا کہ اسراء بھی دونوں ہی سے ہو یعنی جسد اور روح سے، کیونکہ اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بروج عبد یعنی اپنے بندہ کی روح کو لے گیا، دیکھو ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهَ يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾، میں مجھوں جسد اور روح مراد ہے، کیونکہ یہاں پر عبد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور روکنے والا نماز سے آپ کو ایو جمل تھا، وہ آپ کو نماز سے اپنی روح کے ساتھ نہیں روکتا تھا۔ اور سورہ ”جن“ میں ہے ﴿وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهِ﴾ یہاں پر عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دعوہ سے مراد بھی آپ ہی ہیں، یہاں پر روح اور جسد ہی مراد ہے، ایسے ہی اسری بعده میں روح اور جسد جو مراد ہے۔ رہی حدیث و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسری بی ہے، کیونکہ فعلوں میں اصل یہ ہے کہ وہ یقظہ پر محمول کئے جائیں، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو عقلی شرعی۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ معراج کے سارے قصہ میں روح اور جسد دونوں ہی مراد ہیں اور ظاہرنے سے عدول نہ کیا جائے گا اور حقیقی معنوں سے اور طرف نہیں پھرا جائے گا اور اسری کے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کے عالم میں ہونے میں کوئی استحالة نہیں۔ اور یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا ہے: مازاغ البصر و ما طغی یعنی عجائب ملکوت سے نظر نہیں پھری اور نہ اس

و من عض فیه من هنات تفسلف  
علی جرف هار یقارف ان یردی  
اور جو آدمی فلسفہ کی غلیظ یاتوں کو دانتوں سے کاٹے وہ ایسی گھائی پر  
ہے جو گراہی چاہتی ہے قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔  
کمن کان من أولاد ماجوج فادعی  
نبوته بالغی والبغی والعدوی  
جیسا کہ وہ آدمی جو یا جوج ماجوج کی اولاد سے ہے پس اس نے  
دعوی کر دیا اپنی نبوت کا اپنی گمراہی سے بغاوت اور تعدی سے۔

و من يتبع في الدين اهواء نفسه  
على كفره فليعبد الالات والعزى  
اور جو آدمی دین میں اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے وہ اپنے کفر  
میں لات و عزی کو پوچھتا پھرے۔

فائدہ: علامہ تقیت ارزنی نے فرمایا کہ معراج کے استحالة کا دعوی کرنا باطل ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قرآن و حدیث نے تصریح فرمائی ہے لہذا اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اور علامہ زرقانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات میں اس بات پر قادر ہے کہ ایسی حرکت سریع حضور کے بدن میں پیدا کر دے، امام رازی فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق نے فرمایا کہ بیداری کی حالت میں حضور کی روح اور جسم مبارک کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک

سے تجاوز کیا، کیوں کہ الہ بیدار کی حالت میں ہی دیکھنے کو کہتے ہیں اس کی شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللقدر ای من آیات ربہ الکبری۔ اگر یہ نیند میں ہوتا تو اس میں کون سی آیات تھیں جو خارق العادت ہوں؟ اور ان کے تکذیب کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یہ بھی متواتر حدیثیں ہیں کہ آپ کے لئے براق پیش کیا گیا، معلوم ہوا کہ آپ کی معراج روح اور جسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور ابن کثیر نے اپنی کتاب کی تیسری جلد کے شروع میں اس کو خواب لکھا ہے پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ حافظ عمرو بن تجیہ نے اپنی کتاب ”التویر فی مولد السراج الامیر“ میں لکھا ہے کہ حدیث اسراء حضرت انس سے بھی مردی ہے اور حضرت عمر بن خطاب سے، ابن مسعود، ابوذر، مالک بن صعصع، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدیری، ابی حمزة، ابی لیلی، عبد اللہ بن عمّر، جابر، حذیفہ، ابی ایوب، ابی امامہ، سمرة بن جندب، ابی الحمراء، صحیب روی، ام ہانی، عائشہ صدیقہ، اسماء (دونوں حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادیاں ہیں) وغیرہم سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے تمام مسلمانوں نے اور اعراض کیا ہے زندیقوں اور ملحدوں نے۔

امریکہ سے ایک رسالہ ماہواری لاکف نکلتا ہے نیو یارک سے، اس میں جولائی ۱۹۶۳ء کے لاکف میں اس مضمون کو خوب لکھا ہے اور آئے دن اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے، روس امریکہ میں یورپ کے مختلف ممالک میں تجربے ہو رہے ہیں۔ سائنس اس بات کو تسلیم کرچکی ہے ایسا سراج علی سفر ممکن الوقوع ہے، چنانچہ لاکف ۶۳ء میں درج ہے کہ ”گارڈن کوپر“ نے

صرف ۹۰ منٹ میں ساری دنیا کے گرد بائیکس چکر کاٹے اور ساڑھے سترہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ہوائی جہاز چلا تھا، یہ مضمون ۶۳ء کے چٹان میں شائع ہوا تھا۔ اور بھی بہت سے اخبارات میں مضامین آئے دن آتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضائی سفر کس قدر سراج السیر تھا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے  
کہ عالم بشریت کی زندگی ہے گردوں  
اور یہ بھی فرماتے ہیں:

رہ یک گام ہے ہمت کے لئے عرش بریں  
کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات  
حضرت مولانا نظامی فرماتے ہیں،  
تن او کہ صافی تراز جان ماست  
اگر شد بیک لحظہ آمد روا است

۱۱ نومبر ۱۹۶۶ء کے ترجمان اسلام لاہور میں ہے روس نے بھی ایک خلائی تجربہ گاہ فضاء میں چھوڑی ہے جو کہ خلا میں ۲۲ سے ۲۸ میں تک کی بلندی پر زمین کے گرد چکر کاٹ رہی ہے یہ تجربہ گاہ گذشتہ اکتوبر میں چھوڑی گئی تھی۔

اور حضرت مولانا محمد انور کشمیری نے اپنے قصیدے ضرب الخاتم علی حدوث العالم میں لکھا ہے کہ

وقد قيل إن المعجزات تقدم

بما يرتقي فيه الخلقة في المدى

چنانچہ آئے دن کے تجربے ہم مشاہد کر رہے ہیں حضرت شاہ صاحب کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انبياء کے مججزات اس بات کی دلیل ہیں کہ آئندہ کو مخلوقات ان کا تجربہ کرے گی، چنانچہ ریڈ یوکی ایجاد اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو حج کے متعلق آواز دی تھی وہ بالکل حق ہے گواں کے متعلق سائنس ابھی ابتداء ہی میں ہے یعنی حضرت ابراہیم نے تو کعبہ شریف کے بنانے کے بعد ایسی آواز دی تھی جو تا قیامت جن کی قسم میں حج لکھا تھا ان سب نے لبیک کبی، یعنی حضرت ابراہیم کا آواز دینا بغیر کسی آل کے تھا، اور سائنس اب آلات کی ایجاد سے اس طرف ترقی کر رہی ہے تا کہ یہ منوایا جائے کہ جو کچھ انبياء علیہم السلام نے کیا ہے وہ سب کچھ ممکن الوقوع ہے یا مثلاً ہوائی جہاز کی ایجاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اڑنے کی تصدیق فعلی ہے مگر وہ بغیر آلات کے تھا، اور یہ آلات سے ہے۔ اور جیسے حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہوئے پندرہ سو میل پر آواز بغیر کسی آل کے پہنچادی تھی، فرمایا تھا ساریہ الجبل الجبل اسی طرح حضرت عیسیٰ کا عروج اور نزول ہے۔ الحاصل کہ حشر اجساد اور موت کے بعد سارے عالم کا انٹھنا وغیرہ سب برق ہیں خواہ ہماری کنجھ سے بالاتر ہوں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر چانا اور قرب قیامت میں آپ کا نزول ہونا سب برق ہیں اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، والله یهدی من

یشاء إلى صراط مستقيم.

يَا اللَّهُ هُمْ أَپْيَنَ فَضْلٍ سَعْدُوكَ اتِّبَاعُ نصِيبٍ فَرِمَ اُورَهُمْ كَوْضُورِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ شَفَاعَتْ نصِيبٍ فَرِمَ، هُمْ بَزُرْگَانِ دِينِ كَأَتِّبَاعُ نصِيبٍ  
هُوَ آمِينٌ يَارَبُ الْعَالَمِينَ۔

☆☆☆

علام ابن منیر نے فرمایا ہے کہ جملی ایک رتبہ ہے بڑا عالیشان وہ ایک  
حالت ہوتی ہے۔ (بین النوم واليقظة)

ف: جب انسان کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے اور اس کی بڑی بڑی  
میں یہ سما جاتا ہے اور اس کو باری تعالیٰ اپنے فضل سے روح کا ذکر نصیب  
کرتے ہیں اور اس کو سلطان الاذکار نصیب ہو جاتا ہے اس پر اس حالت کا  
کھلنا آسان ہو جاتا ہے حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں۔

خبر خاموشی و شمشیر جو ع

نیزہ تہائی و ترک جموج

اور اس مسئلہ کو اہل تحقیق کے سوا کوئی کم سمجھتا ہے علامہ زرقانی چونکہ  
اہل حقائق میں سے یہ اس نے انہوں نے اس مسئلہ کو خوب لکھا ہے، اور  
اپنی کتاب میں جابجا تحقیق کی ہے، زرقانی (شرح مواہب الدنیا  
جلد ۸، ۲)۔

در ہمہ سیر و غربتے کشف نشد حقیقت

گرچہ شدم برنگ بونخانہ بخانہ کو بکو

تشریح: تمام سفر میں کوئی حقیقت مسکشف نہ ہوئی اگرچہ میں خوشبو کی طرح ہر جگہ پھرا، یعنی اس عالم مشاہدہ میں اس عالم کی حقیقت بالکل مسکشف نہیں ہوتی جب تک آدمی عالم برزخ میں نہ چلا جائے، تو یعنیہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔

گر بودم فراغتے از پس مرگ ساعتے

شرح وهم ہمہ بتو قصہ بقصہ ہو بہو

اگر مجھ کو مرنے کے بعد ایک گھری بھی فرصت مل گئی تو تیرے سامنے سب کچھ بیان کر دوں گا۔

دانہ خلاف تجم نے ہرچہ بود ز جبر وقدر

آنچہ کہ کشتہ ای در وحظ بخط جوز جو

خواہ کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھے یا قادر مطلق سمجھے بہر حال غله وہی ہوتا ہے جیسا تج ڈالتے ہیں جو کچھ تو نے بویا ہے اسی کو کاث لے اگر گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں کاث لو اگر جو بوئے ہیں جو کاث لو۔

ظاہر و باطن اندر اس تھجوتواہ و خل داں

نے بعد ادیک زدو جب بجھب دوبدو

یہ دنیا اور آخرت اس طرح ہیں جیسے کھجور کا درخت اور گھٹلی ہوتی ہے یہ دونوں جہاں اس طرح نہیں ہیں کہ ہم ایک دوان کو کہیں جیسا کہ گھٹلی پھوٹ کر اندر سے کھجور کا درخت نکل آتا ہے، تو گھٹلی تو دنیا کی مثال ہے، اور

کھجور کا درخت عالم آخرت کی مثال ہے خوب سمجھ لینا چاہئے۔

رشتہ این جہاں پتن جامد آن جہاں پتن

رشتہ برشدتہ نخ نخ تار بتار پو پو

جیسے گھٹلی چھپ جاتی ہے اور کھجور کا درخت ظاہر ہو جاتا ہے بعینہ اسی طرح یہ بدن تو بظاہر چھپ جاتا ہے اور روح ظاہر ہو جاتی ہے، بعینہ تانا بانا اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ روح چوں کہ اس جہاں کی چیز ہے اس کے آثار قبر ہی سے ظاہر جاتے ہیں اور بدن چونکہ اس جہاں کی چیز ہے یہ بظاہر ثبوت پھوٹ جاتا ہے۔

ہست جزا ہمو عمل سم کہ خورد شود مرض

بنخ و شجر ہمو ہمو ختم و شر چنو چنو

جز اجنہ عمل سے ہوتی ہے قرآن شریف میں آتا ہے «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره» **(ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربک أحدا)** سورہ کہف۔

جو کوئی ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھ لے گا جو کوئی ذرہ کے برابر برابری کرے گا وہ اس برابری کو دیکھ لے گا۔ سارے قرآن کو دیکھ لو یہی آتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہی ملے گا۔ وَأَن لِیس لِلإِنْسَان إِلَّا مَا سعِیَ جو آدمی زہر کھاتا ہے وہی زہر مرض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو جڑ ہے وہی شجر ہے جو پھل ہے وہی فتح ہے مشہور ہے کہ فتح جب ٹھنی کے ہاتھ چڑھتا ہے اس کا

نام پھل ہوتا ہے۔

قبر کہ بودا اورے سوئے جہان دیگرے  
غیب شود شہود ازو دیدہ بدیدہ رو برو

قبر میں جا کر اپنے سب اعمال مکشف ہو جائیں گے جب روح  
ظاہر ہو جائے گی کیونکہ روح لطیف ہے اس واسطے اس لطیف کو لطیف چیزیں  
سب نظر آجائیں گی یعنی عالم قبر دوسرے جہاں کے لئے ایک روشن دان کا  
کام دے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے لئے جنت کی  
خوبیوں میں آتی ہیں اور ہوا کیس آتی ہیں اور برے آدمی کے لئے جہنم کی گرمی  
محسوس ہوتی ہے، اور قبر کو فرمایا گیا کہ یا تو ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں  
سے یا ایک گڑھا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے، یعنی عالم غیب قبر میں مکشف  
ہو جائے گا گویا قبر ایک دروازہ ہے عالم غیب کے لئے۔

مکشف آس جہاں شود گرچہ دریں جہاں بود  
زندگی دگر چنو ذرہ بذرہ موبہ مو

وہ جہاں بالکل واضح ہو جائے گا اگرچہ بظاہر قبر تو اسی جہاں میں  
ہوتی ہے اس جہاں کی زندگی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔

مردن این طرف بوزیستن دگر طرف  
روزن باز دید تو طبقہ بطیقہ تو بتو

اس طرف کا مرنا اس طرف کا جینا ہے عالم آخرت کے تمام طبقات  
اس پر کھل جاتے ہیں اور اس روشن دان سے نظر آجاتے ہیں جیسا کہ احادیث

میں صاف مذکور ہے مشہور ہے کہ یہ راستہ آنکھ بند کرنے سے طے ہوتا ہے جو  
برزخی آدمی ہوتے ہیں ان پر عالم برزخ مکشف ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، و ان جہنم لمحيطہ  
بالکافرین بے شک جہنم احاطہ باندھے ہوئے ہے کفار کا کافر کو جہنم حقیقتاً  
گھیرے ہوئے ہے قیامت کے روز یہ زمین کا گولہ اٹھادیا جائے گا نیچے سے  
جہنم نمودار ہو جائے گی، اسی واسطے مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ تو اوپر کو پرواہ کر  
اور ہاکا پھلکا ہو جا، حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا  
اور پڑھتا جا، رتل وارتق۔

تازہ شکست صورتے جلوہ نزد حقیقتے

جب تک کہ ظاہری صورت نہیں ٹوٹی اس وقت تک حقیقت جلوہ نہ  
نہیں ہوتی مولا ناروی فرماتے ہیں:

ہر بنائے کہنہ کہ آباداں کنند  
اول آن بنیاد را ویراں کنند

جو پرانی عمارت کہ اس کو نئے سرے سے بناتے ہیں پہلے اس  
عمارت کو بر باد کر دیتے ہیں اسی طرح اس دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پھر اس  
میں سے آخرت نمودار کر دی جائے گ، جیسے کہ گھٹھلی کو زمین میں دبا کر توڑ  
پھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے کھجور کا درخت نمودار کر دیا جاتا ہے، حقیقی جہاں  
یعنی آخرت تب نمودار ہو گی جب یہ جہاں فانی توڑ پھوڑ دیا جائے گا، لہذا  
قیامت کا آنا بحق ہے، وہ چونکہ رب العالمین ہیں وہ انسان کی تربیت اسی

طرح کرتے ہیں عالم بزرخ میں رکھ کر پھر عالم آخرت میں اس کو نمودار کریں گے۔ اسی واسطے انیاء کو مجموع فرمایا کہ لوگوں کو اس کا یقین دلائیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یہ تقریر حضرت شاہ صاحب نے بہاول پور میں ۱۹۳۲ء میں فرمائی تھی، پھر میں نے یہ تقریر حضرت عبد القادر مولانا رائے پوری کی خدمت میں سنائی تو حضرت بہت خوش ہوئے اور تصدیق فرمائی، یہ ۱۹۳۶ء کا واقعہ ہے جب کہ میں حضرت کی خدمت میں ڈھنڈی ضلع سرگودھا میں موجود تھا۔ اب تو نہ حضرت شاہ صاحب رہے جوان سے استفادہ کیا جاتا اب کوئی نہیں رہا جو ایسی مشکل باتوں کو حل کرے، ایسا بلند اور باریک مسئلہ حضرت شاہ صاحب نے باتوں ہی باتوں میں ایسا حل کر کے رکھ دیا گویا عالم بزرخ ہمارے سامنے ہے، مرنے سے پہلے حضرت کے زیر مطالعہ اکثر مذنوی شریف ہوتی تھی، عموماً عالم ارواح اور عالم بزرخ کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ تو اکثر فرماتے تھے کہ اب ہمارا آخری مرحلہ ہے کسی کو کیا معلوم تھا کہ اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔

بہاول پور سے چلتے وقت مولانا غلام محمد شیخ الجامع گھوٹوی رحمۃ اللہ علی سے فرمایا اور مولانا محمد صادق صاحب سے جو کہ دوم مدرس تھے جامع عباسیہ کے، جب مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے تو میری قبر پر آکر آواز دے دینا، ہم نے یہ بات سنی تو معمولی بات سمجھی، جب وصال ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی اپنے وصال کی طرف اشارہ تھا۔

حضرت کے وصال کے کئی ماہ بعد مقدمہ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق

میں ہوا تو مولانا محمد صادق صاحب نے حضرت کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے دیوبند کا سفر کیا اور آپ کی قبر مبارک پر روتے ہوئے آواز دی۔ مولانا محمد صادق صاحب کو حضرت شاہ سے بڑی عقیدت تھی اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری سے بیعت تھے، حضرت شاہ صاحب کے دربار میں بالکل خاموش رہتے تھے ویسے بڑے فاضل تھے علوم متعدد تھے۔

☆☆☆

حضرت شاہ صاحب کا بہاول پور تشریف لے جانا مولانا محمد صادق کی زبانی سنئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدًا ومصلياً

شیخ الاسلام والملین اسوة السلف وقدوة الخلف حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری قدس اللہ اسرار ہم کی بلند ہستی کی تعارف اور تو صیف کی محتاج نہیں، آپ کو مزائی فتنے کے رد اور استیصال کی طرف خاص توجہ تھی، حضرت شیخ الجامعہ صاحب کا خط شاہ صاحب کی خدمت میں دیوبند پہنچا تو حضرت ڈا بھیل تشریف لے جانے کا ارادہ فرمائے تھے، اور سانان سفر باندھا جا چکا تھا مگر مقدمہ کی اہمیت کو بخوبی فرمایا کہ ڈا بھیل کی تیاری کو ملتوی فرمایا اور ۱۹۳۲ء کو بہاول پور کی سر زمین کو اپنی تشریف آوری سے مشرف فرمایا، حضرت کی رفاقت میں پنجاب کے بعض علماء مولانا عبد

الخان خطیب آسٹریلیا مسجد لاہور و ناظم جمعیت علماء پنجاب مولانا محمد صاحب لائل پوری فاضل دیوبند مولانا محمد زکریا صاحب لدھیانوی وغیرہم بھی تشریف لائے، ریاست بہاول پور اور ماحقہ علاقہ کے علماء وزارین اس قدر جمع ہوئے کہ حضرت کی قیامگاہ پر بعض اوقات بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی تھی اور زائرین مصافی سے مشرف نہ ہو سکتے تھے، ۲۵ اگست ۱۹۳۲ء کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا، عدالت کا کمرہ امراء و رؤسائے ریاست و علماء کی وجہ سے پر تھا، عدالت کے یرومنی میدان میں دور تک زائرین کا اجتماع تھا، باوجود یہ کہ شاہ صاحب عرصہ سے پیار تھے اور جسم مبارک بہت ناتوان ہو چکا تھا مگر متواتر پانچ روز تک تقریباً پانچ پانچ گھنٹے یومیہ عدالت میں تشریف لا کر علم و عرفان کا دریا بھاتے رہے، مرزائیت کا کفر واردہ، دجل و فریب کے تمام پہلو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن فرمائے، حضرت شاہ صاحب کے بیان ساطع البرہان میں مسئلہ ختم نبوت اور مرزائی کے ادعائیت و وحی مدعی نبوت کے کفر واردہ کے متعلق جس قدر مواد جمع ہے اور ان مسائل و حقائق کی توضیح و تفصیل کے لئے جو صحیم کتاب میں یکجا نہیں ملے گا۔ حضرت شاہ صاحب کے بیان پر تبصرہ کرنا خاکسار کی فکر کی رسائی سے باہر ہے، ناظرین بہرہ اندوز ہو کر حضرت شاہ صاحب کے حق میں دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کو اعلیٰ علیین میں مدارج بلند فرمادیں۔ آمين

☆..... علماء اہل حدیث میں سے جو چوتھی کے علماء ہیں وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے فضل و کمال کے مدح تھے، مولانا ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی نے جب قادریاں میں آپ کا بیان سناتو فرمایا کہ اگر مجسم علم کسی کو دیکھنا ہو تو مولانا انور شاہ کو دیکھ لے۔

دوم مولانا عبد التواب ملتانی تلمذ رشید حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی نے علماء اہل حدیث کے مجمع میں حضرت شاہ صاحب کے علمی کمالات اور بزرگی کا بر ملا اعتراف کیا، مولوی محمد اسماعیل صاحب گوجرانوالہ نے اس مجمع میں کہا تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب تو حافظ حدیث ہیں، مولانا شناء اللہ صاحب مرحوم متعدد بار ملاقات فرمائے کہ حضرت سے علمی استفادات فرماتے رہے، حضرت شاہ صاحب امر تشریف لاتے تھے علماء اہل حدیث احباب کی نسبت زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضرت کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے اور اس کا اہتمام خصوصی رکھتے تھے۔

مولانا شناء اللہ صاحب مرحوم نے اپنے اخبار اہل حدیث میں حضرت شاہ صاحب مرحوم کے وصال پر ایک طویل مقالہ پر قلم کیا ہے اور اس میں اپنے درد دل کا اظہار کیا ہے اور حضرت کے مناقب اور علمی فضائل بیان کئے ہیں، اور محبت بھرے الفاظ میں متعدد ملاقاتوں کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ نے نظری علم دین رخصت ہو گیا۔

اور مصری علماء میں سے علامہ حضرت مولانا محمد زاہد کوثری نے ”تا نیب الخطیب“ اور متعدد رسائل اور مقالات الکوثری میں جگہ جگہ حضرت

شاہ صاحب کے علمی تجھر کا برملا اعتراف کیا ہے، کوثری کی یہ سب تصانیف بندہ کے پاس موجود ہیں مقالات کوثری مدینہ منورہ سے بڑی کوشش کے بعد دستیاب ہوئی، اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کوثری حضرت شاہ صاحب سے بہت متاثر ہیں، "عقیدۃ الاسلام" مع "تحیۃ الاسلام" کے جدید ایڈیشن سے مولانا مولوی محمد یوسف صاحب بنوری کا مقدمہ پڑھنا چاہیے "نیل الفرقان" کی "تائیب الخطیب" میں بڑی ہی تعریف کی ہے۔

☆☆☆

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

حضرت مولانا محمد طاسین صاحب آپ کا ہدیہ متبرک خطبات اکفار الاملحدین دو عدد نسخے پہنچا، الحمد لله حمدنا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارک کا علیہ، ہدیہ کیا تھا ایک نعمت غیر مترقبہ تھی جس پر آپ بہت شکریہ کے اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نے اکفار الاملحدین کا اردو ترجمہ کر کے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان عظیم فرمایا ہے، حضرت مولانا و مخدومنا شیخ الحمد شیخ محمد انور شاہ کشمیری کی شاید روح کتنی خوش ہوئی ہوگی اور مولانا محمد ادریس کے کتنے مدارج عالیہ بلند ہوئے ہوں گے، ان کے لئے یہ ترجمہ سرمایہ آخرت ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان عظیم ہے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ مجلس علمی کیا ہے ایک

خوان نعمت ہے جس کو آپ نے مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی نفع کے لئے بچھا رکھا ہے اور ہر وقت اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تائیب بخشش خدائے بخششہ

مولانا حاجی محمد صاحب سملکی ثم افریقی بڑے یہ خوش قسمت تھے کہ خدا نے ان کو اس طرح متوجہ کیا، حضرت شاہ صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے علوم کو کوئی اپنے لفظوں میں دنیا تک پہنچا دے "اکفار الاملحدین" تو دنیا بھر میں پہلی کتاب ہے جس میں اصول تکفیر دون فرمائے گئے ہیں، گویا یہ کتاب حضرت کی ایک الہامی کتاب ہے، "عقیدۃ الاسلام" کو بھی آپ نے دوبارہ شائع کیا، اور "تحیۃ الاسلام" کو ساتھ ہی ملا دیا اس سے علماء کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ضرب الخاتم میں جو حوالے دئے گئے ہیں اس کی عبارتیں مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے جمع کی تھیں وہ بھی اگر چہ پ جائیں تو یہ بڑی خدمت ہوگی۔ ضرب الخاتم بڑی ضروری کتاب ہے جس کو علماء بھی کم سمجھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جتنا ذاکر محمد اقبال ضرب الخاتم کو سمجھے ہیں اتنا کوئی مولوی بھی نہیں سمجھا۔ اگر اس کے ساتھ حوالہ جات کی عبارتیں بھی شامل کر دی جائیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ خطبات کے شروع میں جو نماز سے متعلق آپ نے مضمون دیا ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے، آپ اگر سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کے حوالہ کی

بجائے اگر امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات شریفہ سے اقتباسات لیتے تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ حقیقت صلاۃ تک رستہ حاصل کرنے والے یہی محقق علماء ربانی ہیں جو حقیقت صلاۃ تک پہنچتے ہیں اور ان پر حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

میں جب ۱۹۳۹ء میں حج بیت اللہ کو گیا یہ جنوری ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہے (حضرت شاہ صاحب کا وصال مئی ۱۹۳۳ء میں ہو گیا یعنی ۳ صفر ۱۳۵۲ھ)۔ یہ واقعہ ذی قعده ۷ھ تک ہے اس وقت مولا نا عبد اللہ صاحب مرحوم سندھی مکہ مکرمہ میں تھے، جس دن میں بعد نماز مغرب ان کی زیارت کے لئے گیا وہ مصلی مالکی کے پاس بیٹھے تھے میرے ساتھ میاں جان صاحب مطوف تھے، جب ملاقات ہوئی تو مولا نا عبد اللہ نے دریافت فرمایا کہ تو نے کسی سے پڑھا اور تو کسی سے بیعت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حدیث تو حضرت مولا نا محمد انور شاہ کشمیری سے پڑھی اور بیعت حضرت مولا نا محمود الحسن یعنی شیخ الہند سے کی، اس پر حضرت مولا نا عبد اللہ صاحب بہت خوش ہوئے پھر فرمایا کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حرمین شریفین میں تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کا حج کرایا میں نے جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ہاتھ لگایا تو یوں محسوس ہوا کہ یہ دیواریں پتھر کی تو نہیں بلکہ نور کی دیواریں ہیں گویا تجلیات کعبہ ان پر منکشف کر دی گئیں، ان کے نورانی ہاتھ نور کی دیواروں کو محسوس کرنے لگے، پھر فرمایا جب میں روپہ مطہرہ پر مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور روپہ اقدس کی دیواروں کو ہاتھ لگایا تو

معلوم ہوا کہ دیواریں بھی نور کی بنی ہوئی ہیں۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی نے ”انجاح الحج“ میں لکھا ہے کہ اُن تعبد اللہ کا نک تراہ یہ تو مشاہدہ ہے۔ اور فیان لم تکن تراہ فبانہ یہ اک یہ حضور ہے اگر آدمی نماز طریقہ پر پڑھے اور ذکر اذکار بھی کرتا جو حتیٰ کہ اس کو باری تعالیٰ روح کا ذکر نصیب کرتے ہیں تا آنکہ اس کا بال بال ذا کر ہو جائے تو اس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے، اگر روح کے ذکر کے بعد ذکر سر بھی نصیب ہو تو اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہو اور اس میں استعداد بھی ہو تو مشاہدہ بھی نصیب ہو سکتا ہے، مگر اس میں محنت درکار ہے، ارجتی یا بلاں اور الصلاۃ معراج المؤمنین اور المصلى یہاں دی ریہ اور قرہ عینی فی الصلاۃ وغیرہ احادیث کا مطلب اس پر کھل جاتا ہے، گویا علم تقلیدی سے نکل کر علم تحقیقی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر راچپوری قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ مولا نا محمد انور شاہ کشمیری ایک دفعہ گنگوہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ حضرت میرے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے نماز پڑھنی آجائے سبحان اللہ کہ حضرت کو نماز ہی کا فکر رہا کہ نماز صحیح طریقہ پر پڑھنا آجائے حضرت گنگوہ سے دعا کروائی، یہ بات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے کئی دفعہ فرمائی تھی۔

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب کانپور پڑھاتا تھا تو میرا معمول تھا کہ شعبان میں جب میں تھانہ بھوئ آتا تو گنج مراد آباد حضرت مولانا فضل رحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے آتا، ایک دفعہ

میں جب حاضر ہوا تو بیٹھتے ہی حضرت مولانا فضل حسن صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ جو حدیث میں آتا ہے اللهم اعطنی تشوقا الی لقائک شوق کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہی فرمائیں مجھے تو شوق کے معنی نہیں آتے، تو حضرت نے فرمایا شوق کے معنی ہیں تڑپ، یعنی اے خدا اپنے دیدار کی تڑپ عنایت فرمائی یہم لگا رہے کہ ہائے میں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

یہاں جو درخور توفیق غم پائے نہیں جاتے  
انہیں رازِ درون پر دہ سمجھائے نہیں جاتے

یعنی سارے غنوں کو چھوڑ کر فقط ایک اس کے دیدار کا غم لگا رہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، جو آخرت کا غم لگائے رکھے خدا اس کے سارے غنوں کے لئے کفایت کرتے ہیں، یہ بات کثرہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے کہ ذکر کی بھوک و پیاس گئی رہے اور ذکر اس کی خوارک بن جائے جیسے ملائکہ اللہ کی تشیع باری تعالیٰ اور تقدیس غذا ہے بندہ بھی اگر اخلاص سے چلے اور محنت کرے تو باری تعالیٰ یہ بات نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب را پیوری رحمۃ اللہ علیہ فقط چائے کی ایک فنجان پر روزہ رکھتے تھے اور سارا دن قرآن شریف پڑھتے رہتے حتیٰ کہ روزانہ کا قرآن شریف ختم کرنا معمول تھا، حضرت رائے پوری یعنی شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جرأت کر کے دریافت کیا کہ حضرت اتنی تو گری کے روزے ہیں اور آپ فقط ایک فنجان پر کفایت کرتے ہیں فرمایا کہ الحمد للہ جنت

کا ذائقہ آ رہا ہے۔

میں نے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی بھی زیارت کی ہے ہمارے حضرت رائے پوری یعنی شاہ عبد القادر چونکہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو بھی حضرت شاہ صاحب سے بھی بڑی محبت تھی اکثر دیوبند تشریف لے جاتے تھے اور حضرت شاہ صاحب بھی رائے پور زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سفر دیوبند کا اسلئے کیا ہے کہ مولانا محمد انور شاہ کو دارالعلوم دیوبند کا رکن بنانا ہے حضرت شیخ الہند سے بھی بڑی ہی محبت تھی۔

حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دستر خواں بہت وسیع تھا حضرت خود کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، ایک دفعہ شوربے کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر لفہ منہ میں نہیں ڈالا تا آنکہ دستر خوان اٹھایا گیا، پھر رات بھر کے جانے کا معمول تھا۔

دیوبند بزرگوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت شاہ صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک بندہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کا القاء بہت ہی بڑھا ہوا تھا، ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب وہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کو دیکھ کر خدا تعالیٰ یاد آتا ہے، بھی اولیاء اللہ کی نشانی ہے، جیسا کہ روایات میں حضرت عبد اللہ بن زیر رضی

اللہ عنہ کے متعلق نماز پڑھنا ثابت ہے، کم ازکم میں نے تو اپنی ساری عمر میں حضرت شاہ صاحب جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت کے چہرہ پاک سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت بہت ہے۔ الذین آمنوا و کانو یتقوون اولیاء اللہ کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا۔

### فقط السلام

پھر کو دعوات، اور پیار<sup>(۱)</sup>



بعض اوقات سبق کے ضمن میں طلباء کا دل بہلانے کے لئے کوئی بات ظراحت کی کہدیتے تھے، ایک دفعہ بخاری شریف کے درس میں قصہ سنایا کہ دیوبند میں ایک شاعر صاحب تھے وہ فرماتے تھے کہ ہم بھی تصوف پر شعر کہتے ہیں مثلاً:

اللہی و انہرینا والاسٹرا

جام تیرے شوق میں کلگیر لایا ساتھ

کسی نے کہا کہ شعرو آپ نے خوب سنایا مگر اس میں تصوف کی کون ہی بات ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ اجی اس میں الف لام تو تصوف کا ہے، اس پر حضرت شاہ صاحب بہت مسکراتے تھے، پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ پہلے مرصع میں قضاۓ بھی ہونا چاہیئے یعنی

(۱) یہ خط حضرت مولانا طاں میں صاحبؒ کے نام ہے جو ۱۹۰۱ء سے شروع ہوا ہے۔

### اللہی و انہرینا والاسٹرا

تاک وزن درست رہے، پھر وہ شاعر صاحب فرمانے لگے کہ میں کیا شاعر ہوں مجھ سے تو بیچارہ ذوق ہی اچھا تھا اس پر بہت مسکراتے تھے۔

☆..... آپ کی نظمیں بہت ہیں بہت سے قصائد عربی و فارسی ہیں،

بعض نظمیں ایسی ہیں جن کا ایک مرصع فارسی اور ایک عربی ہے، عموماً اشتیاقیہ نظمیں بہت ہیں جو اکثر مدینہ شریف کے راستے میں کبی ہیں، کئی نظموں کا اور قصائد کا مجموعہ ہمارے پاس بھی ہے جو اگر موقع ملا تو شائع کیا جائے گا، ان شاء اللہ، آگے جو اللہ کو منظور ہو گا۔

☆..... فرماتے تھے کہ میں نے شعروں پر کبھی وقت ضائع نہیں کیا

جب کھانے پر بیٹھتا تھا تو پھل اور کاغذ اپنے پاس رکھتا تھا ایک لقمه کھایا اور ایک شعر کہہ لیا لکھ لیا پس ادھر کھانا ختم ہوا ادھر اشعار ختم ہوئے، مقامات حریری کی طرز پر آپ کی ایک کتاب تھی جس میں کئی ایک مقالے بے نقط تھے۔

☆..... ایک دفعہ احقر حضرت کی زیارت کے لئے حضرت کے کمرہ

میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مسئلہ حضرت شاہ صاحب سے دریافت فرماتے تھے حضرت نے فرمایا کہ میں خود ہی حاضر ہو جاتا، حضرت آپ نے کیوں

تکلیف فرمائی، فرمایا کہ نہیں مجھے ہی آنا چاہیئے تھا، اس طرح حضرت مفتی صاحب کئی بار تشریف لا کر مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت مفتی صاحب ہمارے بھی ابن ماجہ شریف اور طحاوی شریف اور موطا امام محمد وغیرہ میں استاذ ہیں، ان کو اجازت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے ہے، اور ان کو اجازت حضرت شاہ عبدالعزیز سے ہے حضرت مفتی صاحب نے ہم کو اپنی اس سند کی بھی اجازت دی تھی۔

لے سکتے کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی پوشش بدل دی اگر اس کو کوئی آدمی غلط فہمی سے مارڈا لے تو اس مارنے والے سے قصاص نہیں لے سکتے۔

بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دامیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث ہے تو اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی تو میں اس وقت دربار میں حاضر تھا میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنائے۔

حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھے یہ حدیث سن کر رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا خوشی کہ مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی، پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آئے، یہ ہمیں حدیث ترمذی شریف کے درس میں حضرت شاہ صاحب نے سنائی تھی، اس جن کا نام شاہ ہوش تھا، یہ واقعہ ۱۳۸۴ھ کا ہے۔

☆☆☆

ظفر (یعنی بہادر شاہ دلی کے بادشاہ) کے اس شعر کو بہت پسند کرتے تھے۔

ظفر آدمی اس کو نہ جائیئے گا، گوہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

☆.....حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک بار حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جو کہ برادر تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے اپنے جھرے میں بیٹھنے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلا یا ہے، حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دئے، وہ سپاہی بجائے لال قلعہ جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف گیا وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو، جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا ایک بہت بڑا مجھ ہے اور جنات کا بادشاہ بیٹھا ہے اور اس کے دامیں جانب ایک بہت بوڑھا جن بیٹھا ہے اور بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا ہے، اور ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں انہوں نے شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں

☆..... جب مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے جمع الفوائد کے شائع کرنے کا ارادہ فرمایا تو میرٹھی میں بہت سے حضرات کا اجتماع کیا، حضرت تھانوی بھی تھانہ بھون سے تشریف لے گئے حضرت سہارن پوری بھی سب کے سب حاضر تھے، دیوبند سے بھی حضرت شاہ صاحب اور مفتی عزیز الرحمن صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب تھے، سب نے تجویز کیا کہ حضرت شاہ صاحب ابتدا کریں، تو حضرت شاہ صاحب نے یہ آیت مبارکہ لکھ کر دی کہ اسے ناپ کر کے دکھاؤ، انا فتحنا اللہ فتحا مبینا، ماشاء اللہ ما شاء ☆  
بہت اچھا آیا سب حضرات بہت خوش ہوئے۔

مولانا عاشق الہی صاحب نے دمشق جا کر حضرت مولانا بدر الدین محمدث کے فرمانے پر دمشق سے ستر میل ایک گاؤں میں جا کر یہ کتاب یعنی جمع الفوائد حاصل کی اور بڑی کوشش سے ہندوستان لائے پھر بڑے ہی اہتمام سے اس تاب کو شائع کیا، اس کتاب میں حدیث کی چودہ کتابوں کی حدیثیں جمع ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میں نے اپنا سارا کتب خانہ مدرسہ کی ملک کر دیا تھا مگر یہ کتاب اپنے پاس رکھی تھی۔ حضرت مولانا عاشق الہی صحیح معنوں میں عاشق الہی تھے۔

☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحيم

جب کوئی کام دینی یاد نیوی شروع کیا جائے تو اس کے لئے اول یہ

☆..... آپ کے درس میں بعض دفعہ ظراحت کی باتیں بھی ہو جاتی تھیں، چنانچہ ایک مولوی صاحب پیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق (۱۳۳۶ء ہجری میں) جب حضرت شاہ صاحب سے سوال کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے کہ بندہ نواز میرا ایک سوال ہے تو آپ فرماتے تھے کہ فرمائیے غریب پرور۔

☆..... ایک دفعہ دیوبند کی جامع مسجد میں قادیانیوں کے خلاف تقریر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ۱۹۰۸ء میں کشمیر میں ہم نے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ ہوا ہے اور ہم اس میں غالب رہے، یہ خواب کسی نے اخبارات میں شائع کر دیا، مرزا غلام احمد مناظرے کے لئے تیار ہو گیا ہم بھی کشمیر سے چل پڑے۔ لا ہور آ کر سننا کہ مرزا صاحب تو قادیاں سے لا ہور آ کر کل پہنچ سے چل دئے، خیر ہم تو غالب ہی رہے۔  
مولانا عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نختیں سے کہ اندر جام کروند  
زچشم مست ساقی دام کروند

حضرت شاہ صاحب آئے تو اس شعر پر یہ اضافہ کیا:  
ز دریائے عمماً موج ارادہ  
حباب انگخت حادث نام کروند

☆..... عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: إن  
بلا لا رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول  
له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟  
فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى  
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى عنده ويمرغ  
وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهمما  
 يجعل يضمهمما ويقبلهما، فقال له: نشتئي نسمع أذانك  
الذى كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى  
المسجد، ففعل، فعلا سطح المسجد فوق موقفه الذى كان  
يقف فيه، فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر ارتج المدينه، فلما  
أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أزداد رجتها، فلما أن قال:  
أشهد أن محمد رسول الله خرجت العواتق من خدورهن.  
وقالوا: أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما رأى يوماً  
أكبر باكيا ولا باكية بالمدينه بعد رسول الله صلى الله عليه  
وسلم من ذلك اليوم. رواه ابن عساكر وقال التقى  
السبكي: إسناده جيد.

فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث آثار السنن جلد ۲ کے اخیر میں بھی ہے  
اور ابن عساکر کا حوالہ دیا ہے اور تقدیم الدین سکلی نے فرمایا کہ اس کی سند جید  
ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں بھی لیا ہے

اور لسان المیزان میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن محور بن  
سلیمان بن بلال بن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں بھی لکھا  
ہے۔

ما حصل اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت بلال شام کے علاقے میں  
ایک رات سور ہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف  
لائے کہ اے بلال تم نے کیا جفا کاری کی کہ تم میری زیارت نہیں کرتے، پس  
حضرت بلال جا گئے گھبرا کر اپنی اونٹی پر مدینہ شریف کا رخ کیا، جب مدینہ  
شریف لائے روپہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا  
تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملے، حضرت بلال  
رضی اللہ عنہ نے دونوں سے معاونتہ فرمایا، اور دونوں کو بدن سے چھٹالیا اور  
پیار کیا، ان دونوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، تو نماز کے  
وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی جب اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا  
تو تمام مدینہ کا پئنے لگا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا تو اور زیادہ کا پئنے لگا  
اور جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا تو تمام مدینہ میں حیج و پکار  
پڑ گئی، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے۔

☆☆☆

اور گشیوں اور ذکر اذکار کی خوب پابندی، تہجد کا اہتمام اللہ کی توفیق سے کرتے ہوئے بخیریت جدہ شریف پہنچے، جدہ میں مولانا سعید خان صاحب حضرت فریدی صاحب اور بھائی سردار صاحب و دیگر حضرات موجود تھے، مشورہ سے طے پایا کہ چونکہ حاجی حضرات کا حکومت نے پہلے مدینہ منورہ جانا طے کیا ہے اس لئے ان حاجیوں ہی میں کام کرتے ہوئے پہلے مدینہ پاک میں روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی جائے، بذریعہ بس مدینہ الرسول کو روانگی ہوئی۔ نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کی گئی اس کے بعد شوق اور جذبے کے سات انتہائی شرمندگی اور ندامت کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ وسلم پیش کیا گیا۔ امسال حاضری چونکہ بہت زیادہ تھی اس لئے مسجد نبوی کے باہر تمام راستے محلے اور گلیوں تک نمازیوں سے بھر جاتے تھے، مدینہ پاک میں حضرت مولانا عبد الغفور صاحب اور دیگر بزرگوں اور علماء کرام کی خدمت میں بھی دعاؤں کے لئے حاضری ہوئی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں بھی دعا کے لئے حاضر ہوئے، ان ایام میں افریقہ، انگلینڈ، ترکی، مراکش، امریکہ، افغانستان، ہندوستان، ایران، سوڈان، شام، مصر، جبلہ، فرانس، زیکو سلا و یکیہ، انڈونیشیا، ملائشیا، فلپائن، الجزاير، سالمی لینڈ و دیگر کئی ملکوں سے فریضہ حج کی ادا یگی کے لئے زائرین آئے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں صحیح ناشتا کے بعد روزانہ ایک یادو ملکوں کے اجتماع ہوتے، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

## مکتوب جبلہ (افریقہ)

از عدیں ابا باب جبلہ (ایتھو پیا)

پنام مولانا محمد انوری صاحب

یارب صل وسلم دائم ابدا  
علی حبیک خیر الخلق کلهم

بزرگوارم جناب حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم  
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ  
پروردگار ذوالجلال سے توی امید ہے کہ جناب کی طبیعت باعافیت  
ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ بزرگوں کی شفقت کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے  
آمین۔ تمام وقت آپ کی صحت عاجله مسٹرہ کے لئے دعائیں کرتے ہیں، ہم  
آپ کی دعاء سے روانہ ہو کر کچھ دن رائے وند اور کچھ دن میوات میں گزار کر  
بخیریت کر اچی پہنچے، قانون اور ضابطے کی تمام مشکلات در پیش تھیں جس کو  
سورت یا سین کا روازنہ ختم اور صلاۃ الحاجۃ سے حل کرایا گیا جس کی تفصیل ان  
شاء اللہ خود حاضر خدمت ہو کر عرض کریں گے۔

بہر حال پاسپورٹ کرنی سعود عرب کا ویزہ پچاس سال عمر کا مسئلہ اور  
سفینہ حاج میں سیٹوں کا ملنا، پھر ایک آدمی کا مسئلہ نہیں بلکہ عشرہ انفار کا مسئلہ  
اللہ پاک کے نام کی برکت سے نہ ہونے والے کام بھی ہو گئے، سفینہ حاج پر  
سوار ہو کر حاجیوں میں خوب محنت کرتے ہوئے اذانوں اور جماعتوں تعلیمیوں

کی ختم نبوت والی محنت کی طرف متوجہ کیا جاتا۔

الحمد للہ! اجتماعات بہت کامیاب ہوئے، بہت سارے ملکوں کے لوگوں نے اس مبارک کام سے بہت ہی کافی تعارف بتایا، مختلف ملکوں کے یعنی جبشہ سوڈان الجزاير اور ناجیر یا اور ملک کے علماء اور عوام میں سے بڑے لوگوں کو زیادہ قریب پایا، بہت متاثر ہوئے اپنے اپنے ملک میں کام کرنے اور جماعتوں کی نصرت کے ارادے کئے۔ ایک جماعت انگلینڈ سے باکیس نفر کی اشیش ویگن کاروں کے ذریعہ روڈ پٹچی، اور دیگر تبلیغی کام کرنے والے بذریعہ ہوائی چہاز آئے، اس باکیس آدمیوں کی جماعت نے واپسی پر درمیان میں پڑنے والے ملکوں میں کام کرتے ہوئے جانے کا ارادہ فرمایا، الحمد للہ عجیب فناہی ہوئی تھی، حضرت مولانا عبد اللہ صاحب اندیسا سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جناب گرامی قدر کا ہدیہ صلاۃ وسلام بارگاہ نبوت میں بصد ادب پیش کر دیا گیا، اگر جناب ارشاد فرمائیں تو واپسی پر دوبارہ حاضری نصیب ہونے پر جناب کی طرف سے ہدیہ سلام پیش خدمت رسالت مآب کیا جائے، ہماری جماعت چھ نفری کی حضرت مولانا جلیل احمد کی معیت میں چل رہی ہے جو کہ پہلے ایک سال جبشہ جا چکے ہیں بھائی سردار احمد صاحب لاہل پوری سے ملاقات ہوئی بخیرت ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، قربیا واس یوم کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو واپسی ہوئی حج کے ایام قریب تھے، بیت اللہ پر حاضری ہوئی۔

انوار و برکات کی بارش ہو رہی تھی، حج کا سفر بہت اچھا گذرا دعا

فرما کیس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔

بذریعہ بحری جہاز مورخ ۲۶/۲/۱۹۷۲ء کو ہماری جماعت جده سے جبشہ روانہ ہوئی دو دن ایک رات کے بعد ہم جبشہ کی بند رگاہ "سوا" پر اترے، وہاں سے بذریعہ ریل کار بہت اوپنجے اوپنجے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے جبشہ کے بہت بڑے خوبصورت شہر سراپنچے۔ وہاں پر جامع عبد القادر میں کچھ یوم قیام کیا، وہاں سے پھر غریب محلوں کی مسجدوں میں غرباء میں کام شروع کیا، بڑی محبت سے دین اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی بابت خوب جم کر سنتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد اشراق تک اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک اجتماعی ذکر بالجھر کرتے ہیں، تقریباً ہر مسجد میں یہی معمول ہے، غربت اور سادگی بہت زیادہ ہے۔ کچھ دن یہاں گزار کر اب ہماری جماعت بذریعہ بس سفر کرتی ہوئی قریب یا آخرت کی آواز اور حضور ﷺ کی دینی زندگی کی طرف متوجہ کرتی ہوئی عدیس ابaba پنچی، یہ بھی بہت بڑا مرکزی شہر ہے، راستے میں حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی ایک ایک بستی میں آئی، مزار بنا ہوا ہے قربیا پندرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبور بھی یہاں بیان کی جاتی ہیں بہت سکون تھا، فاتحہ پڑھی گئی اور دعا کیں ماگنی گئیں۔

شاہ جبشہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علی وسلم کے زمانہ میں مسلمان ہو گئے تھے، سب سے پہلی بھرت صحابہ کرام کی اسی ملک میں ہوئی اور حضرت مائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پڑھا گیا اور خوب ہدیے اور خوشبو وغیرہ دے کر اور حق

مہر خود ادا کر کے مائی صاحبی کی رخصتی بھی بیہین سے ہوئی، اور حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کی بھی اسی ملک سے نسبت ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت کے ساتھ ذکر خوب پابندی سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی خوب ہوتی ہے راتوں کو اٹھنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ساتھیوں کا آپس میں خوب جوڑ ہے، موسیم سرد خشک ہے، رات کو خاف کے اندر سوتے ہیں، پانی کی قلت ہے علاقے خوب سربز ہے سوائے پہاڑوں کے میدانی علاقہ بہت ہی کم ہے، لکڑی بہت زیادہ ہے مٹی بہت کم ہے، کئی جگہ تو مٹی کم ہونے کی وجہ سے جانوروں کے گور سے مکان باہر سے لپے ہوئے ہیں، بزریوں میں ٹماڑ، آلو، سبز مرچ ہے، بس اندھے ایک ڈالر کے بیس پچیس ملتے ہیں، ایک ڈالر پونے دوریاں سعودی کا ہے، مویشی کثرت سے ہیں دنبہ یا بکرا چھ سات سیر و زن کا پانچ چھ روپے میں مل جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں کار و بارتو یمن کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یا ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاتھ میں۔

الحمد للہ یہاں کے علماء اور مشائخ کی خدمت میں بھی حاضری ہو رہی ہے مل کر بہت خوش ہوتے اور بہت شفقت فرماتے ہیں، ان تمام شہروں میں ”سرما“ بہت خوبصورت شہر ہے، سنایہ کہ یہاں ملکہ بلقیس کا پایہ تخت تھا، جس کی ہدہ نے خبر دی تھی، امید ہے کہ ان شاء اللہ ایک مہینہ کے قریب واپسی تک ہمارا وقت اور لگے گا اس کے بعد واپسی مکہ معظمہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہو گی، کچھ روز ہمین شریفین میں لگا کر براستہ ریاض کویت سے جہاز پر سوار ہو کر ان شاء اللہ کراچی پہنچیں گے، آپ سے مودبانہ گذارش ہے کہ آپ اپنی


کیا کہ علماء دیوبند کا لباس اور کھانا یہ بھی وہاں رائج کیا۔  
وہ لوگ دیوبند کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتے ہیں کتابیں ختنی

خصوصی دعاؤں میں ہم نا اہلوں کو یاد رکھیں، اللہ پاک ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کو قبول فرمائے ہماری اصلاح اور تمام عالم کے لئے ہدایت اور شد کے فیصلے فرمادیں۔ آمین۔


مکر عرض ہے کہ مراسلہ نگار کوشاید یہ یاد رکھیں رہایہ بات غلام یاسین صاحب نے جو پہلے جو شہر ہوا ہے یہیں کئی پارڈ کر کی کہ غالباً سراسرا شہر میں مولانا صالح کا مزار ہے ایک وہاں کے مولاوی صاحب نے مزار کی زیارت کرائی ہے، ذکر کیا کہ مولانا محمد صالح دس سال دارالعلوم دیوبند پڑھتے رہے ہیں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حدیث پڑھی اور کئی سال حضرت کی خدمت میں رہ کر دین میں سمجھ حاصل کی، غلام یاسین صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ مولانا محمد صالح کے وارثوں کے پاس وہ سندات بھی ہیں، جو حضرت شاہ صاحب نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے لکھ کر دی تھیں۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی لکھی ہوئی سند جو حضرت شاہ صاحب کو دی تھی وہ بھی ان کے پاس تھی۔ (یعنی مولانا محمد صالح کے شاہ صاحب کو دی تھی وہ بھی ان کے پاس تھی)۔

(یعنی مولانا محمد صالح کے پاس) اور حضرت مولانا محمد صالح صاحب نے جو پہلے شافعی المذهب تھے ختنی المذهب ہو گئے پھر وہاں واپس آ کر اپنے ملک میں اس مذہب کی تبلیغ کی، کوئی تمیں میں کا علاقہ بقول محمد یاسین صاحب ایسا ہے جہاں ختنی المذهب لوگ آباد ہیں، وہاں اس مذہب کے مدرسے بھی ہیں، مولانا محمد صالح صاحب نے یہ بھی کیا کہ علماء دیوبند کا لباس اور کھانا یہ بھی وہاں رائج کیا۔

المذہب کی پڑھائی جاتی ہیں اب بھی وہاں ایسے مدارس موجود ہیں مولانا محمد صالح صاحب کا توصال ہو گیا لیکن ان کے شاگردوں اور وارثین کی کوشش سے مدارس اب بھی جاری ہیں مولانا محمد صالح صاحب کے وصال کو بیس پچیس سال ہو چکے۔



حضرت شاہ صاحب کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں مثال ما أنا قلت کی، جو مختصر المعانی اور مطول میں آیا ہے، ما أنا حملتكم ہے، بخاری ص: ۹۹۲ ج: ۲۔



حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: أتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رهط من الأشعریین استحمله، الحديث، من تعوذ بالله من درک الشقاء وسوء القضاء، وقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. معلوم ہوا چھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس کا کیا مطلب ہوا۔ بخاری ص: ۹۷۹ جلد: ۲۔

☆.....قادیانی نے بہاول پور کے مقدمے میں اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کو کیوں نہ قتل کر دیا۔

حضرت شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ مجھ صاحب لکھنے کا ابن صیاد نابالغ تھا، نابالغ کو شریعت میں قتل نہیں کیا جاتا، یا یہ دن تھے یہود کے ساتھ معاہدے کے، چنانچہ آپ نے بخاری شریف کی عبارت پڑھ کر سنائی، مولانا احمد علی صاحب مرحوم حاشیہ ۱۲ میں ص: ۹۷۹ جلد ۲ پر لکھتے ہیں: لأنَّه  
کان غیر بالغ.



”بیرحاء“ فیہ وجوہ، بفتح المودحة والراء وسکون التحتانية  
بینهما وبالمهملة مقصورة، (کرمانی) بخاری ص: ۹۹۲ ج: ۲۔



مولانا محفوظ علی صاحب ناتھے تھے حضرت شاہ صاحب کے وصال پر میں ۱۹۳۳ء میں جب میں دیوبند حاضر ہوا تو مولانا محفوظ علی صاحب مرحوم<sup>(۱)</sup> ناتھے تھے کہ ایک دفعہ مجھے بلا یا کہ اپنی بہن سے تو کہدے کہ اپنی بچی کے پاؤں سے پاز بیہن نکال دے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، سنایا کہ وہ بچی (حضرت شاہ صاحب کی بچی چھ سال کی تھی) میں نے عرض کیا کہ یہ چھ سال کی تو بچی ہے اور پاز بیہن میں باجا کچھ نہیں ہے۔ ابوداؤ جلد ثانی

(۱) اصل کتاب میں اس واقعے میں نام اسی طرح نہ کہا گیا، مگر بظاہر اس میں ناموں کو ذکر کرنے میں کوئی خطا معلوم ہوتی ہے۔ مص'

ص: ۲۲۹ مطبوعہ مجتبائی دہلی میں ہے: قال علی بن سهل: ابن الزبیر اخبرہ أن مولاًة لهم ذهبت بابن الزبیر إلى عمر بن الخطاب في رجلها أجراس، فقطعها عمر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع كل جرس شيطانا.

حضرت شاہ صاحب کا اتفاء دیکھئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو وہ پازیبین نکالی تھیں جس میں باجا تھا، مگر حضرت شاہ صاحب بغیر باجے کی پازیبیوں سے بھی بچتے رہے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ روزے نہیں کائے جائیں گے یعنی روزوں کی قرقی نہ ہوگی یہ بات غلط ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث آئی ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے بھی قرق ہوں گے وہ حدیث یہ ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فيما من لا درهم له ولا متعة، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيمة بصلوة وصيام وزكاة، ويأتى قد شتم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ (مسلم شریف جلد ثانی ص: ۳۲۰ مطبوعہ دہلی)

اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی طرح روزے بھی کائے جائیں گے جس نے یہ مطلب لیا ہے کہ روزے نہیں کائے جائیں گے وہ غلط سمجھا۔

حضرت شاہ صاحب کی ایک اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی بڑی عمدہ تقریر (صیام کے متعلق) تھی جو کسی زمانے میں مہاجر میں چھپی تھی، فیض الباری میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے ہمارے پاس یہ تقریر محفوظ تھی، مگر افسوس کہ ۱۹۷۲ء کے خونی ہنگامے میں وہ رائے کوٹ ہی رہ گئی۔

فرمایا کہ ایک مرزا ای قادیانی مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہمارا بھی اس قرآن پر ایمان ہے جس میں یہ لکھا ہے: وَمِنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ نَهَى  
مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ۔

میں نے اس کے جواب میں فورا کہا کہ ہمارا بھی اسی قرآن پر ایمان ہے جس میں یہ ہے: وَمِنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْحَى إِلَى  
وَلَمْ يَوْحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ. یہ سن کروہ ایسا ساکت ہوا کہ کوئی جواب نہ دے سکا۔

ایک دفعہ بیان فرمایا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میریم کی حقیقت معلوم نہیں تھی لہذا یہ حقیقت مجھ پر کھلی، پس میں مجھ این دجال ہوں، میں نے کہا کہ دجال کی حقیقت بھی مرزا صاحب پر کھلی لہذا وہ دجال ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### قصيدة مراجعة

از حضرت خاتم الْمُحْمَدِ شَيْخِ مُولَانَةِ مُحَمَّدِ نُورِ شَاهِ صَاحِبِ كَشِيرِي  
قدس سرہ العزیز

تبارک من أسرى وعلا بعده  
إلى المسجد الأقصى إلى الأفق الأعلى  
بأبركَتْ هے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد  
الأقصى تک اور افق اعلیٰ تک سیر کرائی اور بلند مقام تک لے گیا۔  
(فتح الباری جلد: ۷ مصری ص: ۱۳۶) وفي حديث  
ابن عباس رضي الله عنهمما عن أَحْمَدَ: فلما أتى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النَّبِيُّونَ أجمعون  
يصلون معه.

إِلَى سَبْعِ أَطْبَاقٍ إِلَى سَدْرَةِ كَذَا  
إِلَى رَفْرَفِ أَبْهَى إِلَى نَزْلَةِ أَخْرَى  
سَاتِوْنَ آسَانُوْنَ تَكْ أَوْ سَدْرَةِ الْمُنْتَقِيِّ تَكْ، اِيْسَى سِيرَ كَرَائِي  
خوبصورت ررف تک اور نزلة اخری تک۔  
وَسُوْى لَهُ مِنْ حَفْلَةِ مَلَكَيَّةٍ  
لِيشْهَدَ مِنْ آيَاتِ نَعْمَةِ الْكَبْرَى

اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی تاکہ آپ مشاہدہ  
کریں باری تعالیٰ کی نعمت الکبریٰ کی آیات کا  
(زرقانی جلد: ۲ شرح مواهب اللدنیہ مصری ص: ۵)  
فی حدیث أَبْنَى سَعِيدَ عَنْ الْبَیْهَقِیِّ فِی ذِکْرِ الْأَنْبِیَاءِ إِلَیْ بَابِ  
مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاوَاتِ الدُّنْدِیَا يَقَالُ لَهُ: بَابُ الْحَفْظَةِ، وَعَلَيْهِ مَلَكٌ  
يَقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلٌ تَحْتَ يَدِهِ اثْنَا عَشْرَ أَلْفَ مَلَكٍ.  
وَفِی حَدِیثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْبَیْهَقِیِّ أَيْضًا يَسْكُنُ  
الْهَوَاءُ لَمْ يَصْعُدْ إِلَى السَّمَاوَاتِ قَطْ وَلَمْ يَهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ قَطْ إِلَّا  
يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِی حَدِیثِ أَبْنَى سَعِيدَ  
عَنْ الْبَیْهَقِیِّ فِی الدَّلَالِلِ وَبَيْنَ يَدِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ  
مَلَكٍ جَنْدَهُ مَائَةً أَلْفَ، (فتح الباری ج: ۷ ص: ۱۴۵) وَفِی  
رَوْاْيَةِ أَبْنَى سَعِيدَ فِی شَرْفِ الْمُصْطَفَیِّ أَنَّهُ أَتَیَ بِالْمَعْرَاجِ مِنْ  
جَنَّةِ الْفَرْدَوْسِ وَأَنَّهُ مَنْضَدٌ بِاللَّؤْلُؤِ وَعَنْ يَمِينِهِ مَلَائِكَةٌ وَعَنْ  
يَسَارِهِ مَلَائِكَةٌ.

براقدساوی خطوه مد طرفه  
أُتيح له وأختير في ذلك المسرى  
ایسا براقد کے اس کا قدم برا بر تھا جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی۔ آپ  
کیلئے مقدر کیا گیا اور اس سیرگاہ میں پسند کیا گیا۔

وأبدى له طى الزمان فعاقة  
رويدا عن الأحوال حتاه ما أجري  
اور زمانے کا چکر آپ کے لئے ظاہر ہوا پس اس کی رفتار کوروک دیا  
تحوڑی دیر کے لئے اپنے چکر سے حتیٰ کروہ زمانہ نہ چلا۔  
وکانت لجبریل الأمین سفارۃ  
إلى قاب قوسین استوى ثم ما أقصى  
اور حضرت جبریل سفیر تھے قاب قوسین تک تھبھر گئے پھر انہا تک  
نہیں گئے۔

بخاری شریف (جلد ثانی ص: ۱۱۲۰) : ثم علا به  
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودننا  
الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى،  
فأوحى الله إليه فيه... أي وحى الله خمسين، أى صلاة، على  
أمتک کل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتسبه  
موسی فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربک؟ قال: عهد  
إلى خمسين صلاة.

إذا خلف السابع الطباقي ورائه  
وصادفهن أولى لرتبته المولى  
جب ساتوں آسمانوں کو آپ نے اپنے پیچے چھوڑ دیا  
اور آپ نے پالیا جو کچھ آپ کے رتبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ

اور ہزار ہا پیغمبر تھے، سب کے سب موی علیہ السلام کے قبیع تھے انہیں کی  
شریعت کے قبیع تھے، و آئینا عیسیٰ بن مریم۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ  
السلام کو مجزرات ظاہرہ باہرہ دیئے کہ مادرزادانہ ہے کو اچھا کرتے تھے اور  
کوڑھی کو چنگا کرتے تھے مردے کو زندہ کرنا عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ بحکم  
خداوندی ہوتا تھا، جو کچھ صحیح شام کا کرتے تھے جو گروں میں چھپاتے تھے  
سب مجزرانہ طور پر آپ بتلا دیتے تھے، آپ کو بلا باپ پیدا فرمادیا۔ آسمان پر  
مجزرانہ طور پر تشریف لے گئے اس زمانہ کی سائنس اور طب مقابلہ نہ کر سکی نہ  
اب ہی سائنس یہاں تک ترقی کر سکی ہے، لیکن سائنس والے بھی اس کے  
امکان کے قائل ہو گئے۔

وقد قيل ان المعجزات تقدم  
بما يرتفى فيه الخليقة فى المدى

آپ کا نام ہی روح رکھاروں کی سبک سیر (سریع رفتار کا کس نے  
امدازہ لگایا ہے روح نام ہے یا تو جریل علیہ السلام کا کہ ہر وقت ساتھ رہتے  
تھے یا اسم اعظم کے اثر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ اس اسم  
مبارک ہی کہ تاثیر ہو کہ آسمان کو اڑ کر تشریف لے گئے فرمایا گیا اور روح منہ  
”شهادۃ القرآن“، ”عقیدۃ الاسلام“، اور ”تحیۃ الاسلام“، ”سیف چشتیائی“،  
بڑی عمدہ کتابیں اس میں تصنیف ہوئی ہیں، فجز اہم اللہ خیرا الجزا۔  
ایشور اصل ہے عیسیٰ کی، اس کے معنی ہیں مبارک، اور مریم بھی  
عبرانی لفظ ہے اس کے معنی ہے اس کے خادمہ یا عابدہ۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے میں روح القدس پھونک مارتا ہے ان نفساً لئے تموت حتیٰ تستکمل رزقہا۔ کہ کوئی جان دار نہیں مرتاجب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روح القدس تائید کرتے تھے۔

ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، مثلاً ذکر یا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت شعیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی بار حملہ قاتلانہ کیا زہر دیا چکی کا پاٹ اوپر سے پھینک دیا، اس زہر کا اثروفات میں ظاہر ہوا، چنانچہ ”الشہادتین“ میں تفصیل سے مذکور ہے۔ یعنی اسے متعصب ہیں کہ اچھی بات سنتے ہی نہیں، تصلب حق کے معنی یہ ہیں کہ دین حق کو قوت سے پکڑے اور کسی کے فریب میں نہ آجائے، اور ادھر توجہ بھی نہ کرے یہ بات تمام دینوں میں مطلوب ہے۔

☆..... فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی صاحب نے انگریزی پڑھی تھی، میرے استاد نے کہا تھا کہ تو نے چھ میں میں اتنی انگریزی پڑھ لی جتنی کوئی دوسرا کئی سال میں پڑھے۔ ایک گریجویٹ کے برابر تو حضرت نے انگریزی پڑھی تھی، آج کل کے بی اے۔ ایم اے سے زیادہ انگریزی کے واقف تھے مگر اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔

ایک دفعہ ڈا بھیل ضلع سورت سے برہان پور جو کہ وطن تھا حضرت علی

متقیٰ کا جو صاحب کنز العمال وغیرہ ہیں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت کاسن کر بہت سی مستورات آئیں تو حضرت نے خادم سے فرمایا کہ صحیح کا دروازہ بند کرو کسی عورت کو مت آنے دو اور خود حسینا اللہ پڑھتے رہے۔

☆..... احضر محمد لاکل پوری عرض کرتا ہے کہ ۱۹۵۱ء میں جب والد صاحب کا انتقال شد و اللہ یار سندھ میں ہوا تو میں وہاں گیا جس مکان میں میں نہ پہرا تھا اس مکان کے قریب مسجد تھی، وہاں حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری تشریف لائے، غالباً حضرت مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی بھی تھے با تین ہو رہی تھیں، مولانا محمد یوسف صاحب نے سنایا کہ مولانا ابوالوفاء افغانی فرماتے تھے کہ جب حضرت شاہ صاحب حیدر آباد کن تشریف لائے تو میں نے بھی گزارش کی کہ میری دعوت قبول فرمائیں، حضرت نے قبول فرمایا، دوسرے دن ایک مجمع کے ساتھ میرے مکان پر تشریف لائے ہم نے کھانا تو فقط بیس آدمیوں کا بنا یا تھا وہاں کھانے پر جمع ہو گئے اسی (۸۰) سے بھی زائد آدمی، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تو کل آپ کھانا لے آؤ اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے، واقعی یہ حضرت شاہ صاحب کی کرامت تھی کہ کھانا اسی سے زائد آدمی کھا گئے پھر بھی کھانا نک رہا۔ خود حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حیدر آباد کن میں میری سترہ تقریباً ہوئیں اور بہت سے مرزاں تائب ہوئے اور بہت سے لوگوں کے شہبات دور ہوئے۔

کہیں نہیں جتنی خواہ کتنا ہی علامہ کیوں نہ ہو۔ کچھ ایسی برکات انوارات مجلس کی ہوتی تھیں کہ وقت محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جس بات کا حوالہ دیتے کتاب کھول کر حسینا اللہ پڑھ کر فوراً انگلی اسی جگہ پر رکھتے تھے جہاں سے عبارات پڑھنا مقصود ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ایک دو ورق الٹ پلٹ کرنے پڑتے تھے ورنہ وہی صفحہ نکلتا تھا حوالہ پڑھ کر ناتے کبھی کتاب کا حوالہ محض نام لے کر نہیں دیا، بلکہ عبارت پڑھ کر ناتے، لکھنے والے صفحہ دیکھ کر لکھ لیتے تھے یہ جو حوالہ نکالنے میں تخلف ہوتا ہے تقطیع جدا جدا ہونے کے باعث سے یا مطابع کے اختلاف سے ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت شاہ صاحب کے ہاں کتاب دیکھ کر حوالہ پڑھ کر آگے چلتے تھے۔ بعض دفعہ جس کتاب میں سے حضرت پڑھتے تھے مصر یا لندن کا مطبوعہ ہوتی تھی۔ ہندوستان کی مطبوعات کے صفحات میں فرق ہوتا ہے علماء گھبرا جاتے ہیں کہ حوالہ نہیں ملتا، مخت کرنے سے کیا نہیں انسان کو ملتا۔

☆.....حضرت خواجہ محمد معصوم اپنے مکتبات شریفہ میں فرماتے ہیں **﴿مَنْ يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِهِ يَشْرِحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ، وَمَنْ يَرِدُ أَنْ يَضْلِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرْجاً كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾**۔ "صراط مستقیم" کے ترجمہ میں اس آیت مبارکہ کو پیش فرماتے تھے، پس ہم نے جو شرح صدر دینی مسائل میں حضرت شاہ صاحب کو دیکھا کسی کو نہیں پایا، ہر مسئلہ میں بڑے ہی بسط کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ چلتے

☆.....ایک دفعہ بہاول پور سے واپسی پر میرے عرض کرنے پر بہت طویل تقریروں کے اقسام پر فرمائی تھی جس کو ہم نے دارالعلوم میں شائع بھی کیا تھا۔

بعض روایات کے الفاظ سے ظاہر ہیں حضرات شہداء میں پڑجاتے ہیں کہ ثم استيقظت الفاظ آتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے: اُتی بالمنذر بن ابی اُسید ایلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ولد، فوضع علی فخذہ وابو اُسید جالس، فلهی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیٰ بین یدیہ فأخذ ابو اُسید ابنہ فاحتمل من فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: أین الصبی؟ تو اس روایت میں استتفاق کا یہ مطلب نہیں کہ غشی سے ہوش میں آگے بلکہ اسی پہلی حالت کی طرف عود فرمایا، فاستفاق ای فرغ من اشتغالہ۔

☆.....فصل الخطاب طبع ہونے کے بعد ۱۳۳۸ھ کی دورے کی ساری جماعت کو بلایا اور سب کو ایک نزد اپنے دست مبارک سے عنایت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ کاتب کے کچھ اغلاط رہ گئے ہیں جن کی صحیح نہیں ہو سکی۔

☆.....حضرت شاہ صاحب کے درس میں بیٹھنے کے بعد طبیعت

تھے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء والله ذو الفضل العظیم.

☆..... ایک دفعہ مالیر کوٹلہ میں تشریف لائے مولانا عبد الغنی صاحب جو مالیر کوٹلہ میں رہتے تھے وہ خود جا کر حضرت شاہ صاحب کو لائے، بندہ بھی رائے کوٹ سے مالیر کوٹلہ میں حضرت کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو مجھے تباہی میں ایک بات کہی کہ یہ بات مولانا محمد رمضان صاحب مرحوم سے لدھیانہ جا کر کہہ دینا میں نے اسی پر عمل کیا، بہت سی راز کی باتیں اختر کو کان میں فرمادیتے تھے۔

مالیر کوٹلہ کے اسی سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے بعد عشاء ایک گھنٹہ تک تقریر فرمائی بہت مجمع علماء کا تھا، اس میں مولانا شبیر احمد صاحب مولانا بدر عالم صاحب اور بہت سے علماء موجود تھے فرمایا کہ یہ جو آپ حضرات نے بھلی ہی بھلی کی روشنی کر کھی ہے اتنی کی ضرورت نہیں فقط اتنا چاندنا چاہیے کہ جس سے آدمی کتاب پڑھ سکے۔ باقی تو اسراف ہے، (غالباً یہی الفاظ تھے)۔

☆..... ایک دفعہ وہیں بہاول پورہ میں میرے دریافت کرنے پر کہ لاہور میں ۱۹۲۸ء میں دسمبر کے مہینے میں اللہ شریقہ کا جلسہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کے ماتحت اس کی صدارت ڈاکٹر اقبال مرحوم کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں پڑھا کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے

مجھے علامہ عراقی کا ایک فارسی رسالہ دیا جس میں یہ تحقیق کیا تھا کہ علامہ عراقی نے زمان اور مکان کی تحقیق فرمائی ہے، میں نے پوچھا یہ کون عراقی ہیں تو فرمایا یہی جو محدث مشہور ہیں ان کی کتاب کا نام ہے ”غاية البيان في تحقیق الزمان والمكان“ یہ علامہ عراقی بڑے محقق گذرے ہیں۔ پھر وہ رسالہ ایک مدت کے بعد میں نے ڈاکٹر سے واپس طلب کیا، تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے کھو گیا، پھر ہم نے مطالبہ نہیں کیا کہ ایک مسلمان کے بیان کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔

فائدہ:

نیوٹن نے بھی اس نام کا ایک رسالہ لکھا ہے جو یورپ میں مشہور تھا کہ نیوٹن ہی اس امر کی تحقیق کرنے والا ہے ڈاکٹر مرحوم نے جب مضامیں یورپ کے اخبارات میں دیے تو شور ہو گیا کہ نیوٹن نے تو علامہ عراقی سے لے کر یہ تحقیق لکھی ہے اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے بلکہ عراقی اس سے چھ سال پہلے تحقیق کر چکے ہیں۔

☆..... ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حافظ شیرازی کی غزلیں تو ایسی ہیں کہ اس میں شراب کباب کا ذکر ہے، تو پھر حافظ شیرازی کو عارف کیوں کہتے ہیں، فرمایا کہ حافظ شیرازی نے کشاف کا حاشیہ لکھا ہے میں نے سورہ کہف تک دیکھا ہے بہت اعلیٰ حاشیہ ہے وہ طبع نہیں ہوا۔ حافظ کی غزلیں بہت بلند پایہ ہیں ہر شخص ان کو سمجھنے کا اہل نہیں ہے، باری تعالیٰ آوارہ

لوگوں سے ایسے بلند کام نہیں لیتا، جب انہوں نے تفسیر کشاف کا حاشیہ لکھا ہے تو بے ادبی کے الفاظ نہیں کہنے چاہئے آپ تو پہ کرو استغفار کرو۔ جب مولانا حسین علی صاحب وال پھر ان ضلع میانوالی اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا باہمی تازع طویل اور پیچیدہ ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب کو دیوبند سے دعوت دی گئی، یہ جنوری ۱۹۲۷ء کا واقعہ ہے میانوالی کے اشیش پر انسانوں کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا، زائرین ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے، اتنے بڑے مجمع کا نظم قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا، جلسہ گاہ میں پہنچے ایک ہندو نے اپنے کوٹھے کی چھت پر سے حضرت کو دیکھ لیا، فوراً کو درز میں پر آیا مجمع کو چیزتا ہوا آیا، اور حضرت کے پاؤں میں گر پڑا کہ یہ بزرگ مسلمانوں کے پیغمبر کا نمونہ ہیں یہ کہا اور ایمان لے آیا، ایسے واقعات حضرت کی حیات مبارکہ میں کثیر ہیں۔

یہ واقعہ حضرت مفتی محمد شفیع سرگودھے والوں نے بھی جب کہ لاکپور آپ تشریف لائے تھے احتقر سے ملنے کے لئے تو انہوں نے بھی سایا تھا۔ یہ حضرت مفتی صاحب خلیفہ تھے حضرت مولانا احمد خان صاحب کندیاں والوں کے یہ اس واقعہ میں خود موجود تھے۔ جب مفتی صاحب مجھے سوار ہے تھے تو اس وقت بہت سے آدمی ان کے ساتھ تھے، متحملہ ان کے حاجی قائم الدین لاکپوری بھی تھے۔

☆ ..... جب حضرت مولانا محمد صاحب مونگیری (بہار) نے

قادیانیوں کے خلاف ایک بڑا اجتماع کیا اور تمام حضرات دیوبند تشریف لے گئے، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ اس اجتماع میں حضرت شاہ صاحب مولانا محمد انور صاحب بھی تشریف لے گئے تھے جب سب حضرات اسٹچ پر بیٹھے تھے تو ایک بڑی جمع کو چیرتا ہوا حضرت شاہ صاحب کے پا آ کر کھڑا ہو گیا شاہ صاحب کو دیکھ کر مجمع کو چیرتا ہوا حضرت شاہ صاحب کے مسلمانوں کے بہت اور کہا کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بہت بڑے دوستان ہیں، حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں تو ایک طالب علم ہوں، پھر اس بڑی جمع کو حضرت شاہ صاحب سے عشق ہو گیا وہ تمام جلسے میں ساتھ ہی رہا ہم بھی جیران تھے کہ اس کو کیوں اتنا تعلق ہے یہ واقعہ حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب نے بہاول پور کے مقدمے کے اجتماع پر بھی سنایا تھا۔

☆ ..... مدرسہ تعلیم الدین ڈا بھیل کے امداد کے سلسلے میں رنگوں تشریف لے گئے وہاں کے اہل خیر نے مدرسہ کی خوب امداد فرمائی، اور حضرت کے مواعظ حنہ سے مستفیض ہوئے۔ واپس ڈا بھیل تشریف لا کر تمام مدرسین کی دعوت کی، پر تکلف کھانا کھلایا اور ہر مدرس کو ایک ایک رومال رنگوںی اور دس دس روپے عنایت فرمائے، مولانا احمد برزرگ رحمۃ اللہ علیہ مہتمم مدرسہ تعلیم الدین ڈا بھیل ضلع سورت جب تختواہ لے کر حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ تختواہ نہیں لوں گا اہل رنگوں نے احتقر کی بہت خدمت کر دی تھی یہ تختواہ آپ واپس لے جائیں۔

☆.....حضرت مولانا احمد سعید صاحب مرحوم دہلی سے بعض دفعہ علمی اشکالات دریافت کرنے دیوبند حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب جواب دینے کے لئے تیار ہی پیشے تھے۔

صاحب فرمائے گے کہ علم تو حضرت شاہ صاحب کے سینے سے اچھل اچھل کر باہر آتا ہے افسوس کہ ہم تو دیوبند جانہ کے دور ہی سے چھینٹے پڑے حضرت کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، مولانا خیر الدین مرحوم حضرت کو سنار ہے تھے کہ جب آپ مدرسہ امینیہ میں تھے تو میری ابتداء تھی اور حضرت دہلی سے کشمیر چار ہے تھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

والنجم إذا هوى. ساویات سے شروع کیا، اس لئے کہ ما بعد کا کلام آسمانی کی خبر اور اسرار کے متعلق ہے، سماوات العلیٰ تک بلکہ سدرۃ المنتہی تک یہاں تک کہ فرمایا ان ہو إلا وحی یوحی، یہ خلاصہ ہے ان آیات کا اور یوحی بکسر الحاء کو مجہم رکھا کیوں کہ اس کا انحصار اللہ تعالیٰ ہی میں ہے، اور وحی رسالت ہی میں ہے اور ذکر کرنا ان اوصاف کا جو کسی موصوف میں ہی مختصر ہوتے ہیں اس موصوف کا نام لینے زیادہ ایخ ہوتا ہے، مثلاً قول ان کا مررت با کرم القوم. پھر فرمایا علمه شدید القوی ، پس منتقل ہوئے معلم کی طرف موجی کے ذکر کے بعد اور ان کو دو شمار کیا، موجی اور معلم، پھر اوصاف وہ ذکر کئے جو معلم ہی کے ہو سکتے ہیں، کیوں کہ کلام مکہ والوں کے ساتھ ہے اور مکہ والے جبریل علیہ السلام کو پہچانتے نہ تھے۔ پس اس کی صفات اور فعل ذکر فرمائے جیسے سورت تکویر میں ہے تو یہ تحدیل ہوئی وحی کی سند کی، کیونکہ جب کہا جائے کہ یأتیہ الملک تو جی میں کھلتا ہے کہ آنے

☆.....مولانا خیر محمد صاحب مولانا خیر الدین سرسوی مرحوم مولانا غوث محمد صاحب مولانا عبدالجبار صاحب مولانا محمد صدیق صاحب وغیرہم یہ سب حضرات احقر سے مالیر کوٹلہ میں کہنے لگے کہ حضرت شاہ صاحب کا صبح کو فجر کی نماز کے بعد درس کرادے تو عرض کر سلیک غطفانی کا واقعہ سنتیں جمع کی ادا کرنے کا، جس حدیث میں واقعہ مذکور ہے اس حدیث کے متعلق تحقیق کرانا ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ یہ حضرات علماء چاہتے ہیں کہ حضرت کا درس سینیں، فرمایا بہت اچھا لیکن میں حدیث باب کیف کان بدأ الوجی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دوں گا، اور خود ہی تلاوت کروں گا کہ ہمارے مشائخ کا یہی معمول رہا ہے، چنانچہ سینکڑوں علماء جمع ہو گئے مولانا مفتی خلیل صاحب بھی پیشے تھے مولانا عبدالغنی صاحب بخاری شریف لائے کہ میں بھی حضرت کا تلمیذ بننا چاہتا ہوں، حضرت نے ان کو بخاری شریف شروع کرادی، اور درس حدیث دیا، علماء جیران تھے علوم کے دریا بہرہ ہے تھے ایک سکتہ کا عالم تھا پھر سلیک غطفانی کا واقعہ بھی ذکر فرمادیا کہ علماء کی تسلی ہو گئی۔ مولانا عبدالجبار مرحوم فرماتے تھے کہ امام بخاری ایسا درس دیتے ہوں گے، مولانا خیر محمد

کی کیا صورت ہے؟ لہذا فرمایا کہ وہ قادر ہے اس پر اور وہ "سوئی" مبارک ہے "ذو مرہ" ہے اس جیسے سے خیر ہی کا ایناں ہے اور وہ نزدیک ہوتا ہے اور وہ لٹک آتا ہے، لہذا اس کے اوصاف ذکر فرمادیئے۔  
ابن قیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذو مرہ یعنی جمیل المنظر حسن الصورۃ ہے، جلال شان والا ہے، افتح صورت والا شیطان نہیں ہے بلکہ وہ اجمل الخلق ہے اور ذی امانت اور مکانت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وحی نبوت کی تعلیم اور اس کا تزکیہ ہے جیسے اس کی تفسیر سورۃ تکویر میں ہے بیان فرمایا کہ وہ علم قدرت والا بحال المنظر ہے یہ اوصاف رسول ملکی اور بشری دونوں کے ہیں۔

قولہ: فاوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى، اس میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تفسیر طبری میں ہے فاوْحَى اللَّهُ إِلَى مَا أُوحَى اس کے قریب قریب مسلم شریف میں ہے، اور یہ کوئی انتشار فی الصما رہنیں کیوں کہ یہ وصف اللہ تعالیٰ میں محض ہے، اور رسول تو موجی ہونیں سکتا، بلکہ رسول ہی موجی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا اور یرسل رسولاً فیوْحَى بِاذْنِهِ مَا يَشَاء یہاں بھی متعاطفات نہیں بلکہ ایک سلسلہ مرتب ہے بعض بعض سے ملا ہوا ہے جس کی انتہا الہ ہے، یہ خلاصہ ہے مضمون کا جیسا کہ ان ہو إِلَّا وَحْيٌ یوْحَى میں استیناف ہوا باعادۃ ما اسْتَوْفَ عَنْهُ چنانچہ اهْدَنَا الصِّرَاطَ المستقیم صراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں۔

پھر فرمایا مَا كَذَبَ الفَوَادُ مَارَى، اس کو ماقبل سے جدا کر دیا اور عطف نہیں ڈالا کیوں کہ یہ شامل ہے روایت باری تعالیٰ کو فواد سے اور روایت جبریل کو علی صورتہ یہ دونوں قبل الاسرا حاصل تھے۔ اور یہ شامل ہے

کرنا تھا وہ کر لیا، پھر جبریل علیہ السلام نے سراٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی اسی خلقت میں ظاہر ہوئے جیسا کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے پر ملائے ہوئے ہیں، (یاقوت اور زبرجد اور لولو کے) میں نے خیال کیا کہ جبریل کی دو آنکھوں کے درمیان کے فاصلے نے دونوں آفاق کو گھیر لیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے میں ان کو مختلف صورتوں میں دیکھتا تھا، اور اکثر دیجہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں دیکھا کرتا تھا، اور بعض اوقات ایسے جیسے کوئی کسی کو چھانی میں سے دیکھے۔

قولہ: فاوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى، اس میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تفسیر طبری میں ہے فاوْحَى اللَّهُ إِلَى مَا أُوحَى اس کے قریب قریب مسلم شریف میں ہے، اور یہ کوئی انتشار فی الصما رہنیں کیوں کہ یہ وصف اللہ تعالیٰ میں محض ہے، اور رسول تو موجی ہونیں سکتا، بلکہ رسول ہی موجی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا اور یرسل رسولاً فیوْحَى بِاذْنِهِ مَا يَشَاء یہاں بھی متعاطفات نہیں بلکہ ایک سلسلہ مرتب ہے بعض بعض سے ملا ہوا ہے جس کی انتہا الہ ہے، یہ خلاصہ ہے مضمون کا جیسا کہ ان ہو إِلَّا وَحْيٌ یوْحَى میں استیناف ہوا باعادۃ ما اسْتَوْفَ عَنْهُ چنانچہ اهْدَنَا الصِّرَاطَ المستقیم صراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں۔

پھر فرمایا مَا كَذَبَ الفَوَادُ مَارَى، اس کو ماقبل سے جدا کر دیا اور عطف نہیں ڈالا کیوں کہ یہ شامل ہے روایت باری تعالیٰ کو فواد سے اور روایت جبریل کو علی صورتہ یہ دونوں قبل الاسرا حاصل تھے۔ اور یہ شامل ہے

ان تمام اشیاء کو جو لیلة الاسراء میں دیکھیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں لقد رأى  
من آیاتہ ربہ الکبری اور بنی اسرائیل میں فرمایا التریہ من آیتنا وہاں  
یہ بھی فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أریناك إلا فتنة للناس سوقته  
مماراة ہی کا نام ہے جیسے سورہ نجم میں فرمایا افتخارونہ علی ما یمری،  
پس قوله ما كذب الفواد مارأى اى ما كذب الفواد عبدنا مارأى  
اوی هذا العبد یا تو فواد سے یا آنکھوں سے، اور کذب متعدد ہے وہ  
مفدوں کی طرف جیسے ان کا قول صدقۃ فلانا الحدیث و کذبته  
احتمال ایک مفعول پر مقتصر ہونے کا بھی ہے یعنی ما قال کذبا ای هذه  
المقوله، بل قال ما وقع بعد عیانا فی الاسراء بالنسبة الى  
رؤیۃ اللہ تعالیٰ۔

اور یہاں پر رؤیت فواد کا ہونا اور ما بعد میں رؤیت بصرہ کا ہونا یہ کوئی نظرم  
قرآنی میں انفکاک کا باعث نہیں بلکہ رؤیت امر واحد ہے اور فرق جو آتا ہے وہ  
فاعل کی جانب سے آتا ہے، آثار صحیح اور احادیث صحیح سے دونوں رؤیتیں ثابت  
ہیں، رؤیت اللہ تعالیٰ کی پہلی فواد سے اور ثانی بصر سے جیسے حدیث بعثت میں ہے  
کہ واقعہ ہونے سے قبل اس کا رؤیا میں دکھادیا جاتا آتا ہے۔

پھر فرمایا افتخارونہ علی ما یمری، اور نہ کہا فیما یمری اس  
نے دلالت کی کہ یہاں اور رؤیت بھی ہے اس کو سیلی نے ذکر فرمایا، اور علی  
ہایری فرمایا نہ فرمایا فیما یمری کیونکہ ان کو نفس رؤیتیہ باری تعالیٰ میں جھگڑا  
تحانہ کہ خصوصاً مرئی میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ آنکھ سے دوسرا  
مرتبہ فواد سے، رواہ طبرانی فی الاوسط، رجال رجال انج۔ منداری میں ہے  
کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر فرمایا پھر جبریل  
نے فرمایا قلب و کیع لہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان۔ وکج  
یعنی متین شدید یعنی مضبوط۔

پھر فرمایا ولقد رآه نزلة أخرى یہ بھی دونوں رؤیتیوں کو شامل  
ہے لیکن رؤیت جبریل یہ تو ظاہر ہی ہے لیکن باری تعالیٰ کی رؤیت سواس کے  
قرب کے باعث ہوئی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یطلع الله على اهل  
الجنة فيقول هل رضيتم؟ عند سدرة المنتهى اس کا تعلق رائی  
سے ہے نہ کمری سے جیسا طبری نے فرمایا۔ جیسے رأیت الہلال من  
المسجد.

قوله: اذ یغشی السدرة ما یغشی یعنی انوار و تجلیات۔ نسائی  
شریف میں ہے ثم أتیت سدرة المنتهى فغشتني صبابۃ فخررت  
له ساجدا، اور بھی ظلل من الغمام ہے۔ پھر فرمایا ما زاغ البصر  
وما طغی، اس میں تصریح فرمائی کہ یقظہ میں ہوا، پھر خلاصہ بیان فرمایا: لقد  
رأی من آیات ربہ الکبری۔ یہ بھی عام ہے جو کچھ وہاں دیکھا سب کو  
شامل ہے، حدیث ابی ذر میں ہے رأیت نورا اور نورانی اڑاہ اس کے  
معنی ایک ہی ہیں اُی ہو نور من این رایته۔ اور سروزی نے بھی امام احمد  
سے پوچھا تو حدیث مرفوع ہی جواب میں کہی۔ رأیت ربی پھر مند کی

حدیث میں ہے رأیت ربی عز وجل اس کی سند قوی ہے۔

☆.....ایک مولانا شریف اللہ صاحب کابل کے تھے حضرت رائے پوری شاہ عبدال قادر صاحب فرماتے تھے کہ وہ مقبولین میں سے تھے، انہوں نے بڑی بُی عمر پائی ہے وہ اکیلہ نماز پڑھتے تھے ننگے بدن رہتے تھے، فقطہ بند رکھتے تھے، دارالحدیث دیوبند کی بنیادیں جب بھری جا رہی تھیں وہ اس میں بھی شامل تھے، پھر شیخ الہند اپنے پاس لے آئے، دیوبند کے بڑے جلسے میں بھی موجود تھے، جو ۱۳۳۰ھ میں ہوا۔ وہ رائپور بھی آتے تھے اور اکثر دیوبند رہتے تھے، حضرت شاہ صاحب سے اس بات میں گفتگو کی کہ مسجد میں صافیں بچھانا یہ ثابت ہے یا نہیں، مولانا شریف اللہ صاحب اس کو بدعت فرماتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے حدیثیں پیش کیں تو خاموش ہو گئے، حضرت شاہ صاحب نے منع فرمادیا تھا کہ کوئی ان سے نہ الجھے۔ فرمایا یہ صاحب حال ہیں ان کو مت چھیرو۔

وہ فرماتے تھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے بڑھ کر کوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتا۔ اس لئے وہ حضرت کے بڑے گرویدہ تھے، ہمارے زمانے میں بھی دیوبند تشریف لائے تھے، جب حضرت شیخ الہند مالٹا سے واپس دیوبند تشریف لائے تھے۔

قرآن عزیز اس کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں:

بے آہ سحر گاہی تقویم خودی مشکل

یہ لالہ پیکانی خوشنتر ہے کنار جو

لالہ پیکانی کہا آنکھوں کو جیسا گل لالہ میں سیاہ داغ ہوتا ہے، ایسی ہی آنکھوں میں سیاہی ہوتی ہے پیکاں سے مراد پلکیں۔ خوشنتر ہے کنارے جو سے مراد رونا ہے یعنی آنکھ میں کمال یہ ہے کہ روتنی ہی رہے خودی سے مراد خود آگاہی ہے۔

فرماتے ہیں:

جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی

کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

یعنی جب خدا تعالیٰ سے محبت اور عشق ہو جاتا ہے تو پھر عرفان نصیب ہوتا ہے جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں

شام جس کی آشناۓ نالہ یارب نہیں

جلوہ پیرا جس کی شب میں اٹک کے کوکب نہیں

جس کا ساز دل شکست غم سے ہے نام آشنا

جو سدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا

کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے

زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے

قرآن شریف میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی

یحبکم اللہ اسی واسطے حضور صلی اللہ علی وسلم نماز میں روتے تھے، اکثر آنسو ہی بہاتے تھے۔

ایک دفعہ لاہور میں آسٹریلیا مسجد میں وعظ فجر کی نماز کے بعد فرمایا تو امیر خرو کے یہ اشعار پڑھے۔

جان ز تن بر دی و در جانی ہنوز  
در دہا دادی و درمانی ہنوز  
قیمت خود ہر دو عالم گفتہ  
زخ بالا کن کے ارزانی ہنوز

تو بہت ہی رقت ہوئی حتیٰ کہ ریش مبارک تر ہو گئی، فرمایا کہ یہ شعر امیر خرو کے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ شعر جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا اس وقت کہے۔ اس واسطے آپ میں بے نفسی بے حد تھی، کسی کو بھی مدة العمر اپنا شاگرد نہیں فرمایا بس رفق فرماتے تھے، نہ مدة العمر کسی کی غیبت کی نہ غیبت سنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر صحیح طور پر عامل تھے۔

☆.....حضرت شاہ صاحب کبھی پاؤں کھول کر نہیں سوئے بلکہ سکڑ کر سوتے تھے جیسا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی فرمایا کرتے تھے کہ بھلا کوئی محظوظ کے سامنے اس طرح پاؤں پسار کر بے ادبی کر سکتا ہے۔

حضرت عارف باللہ حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب کا بلی فرماتے ہیں کہ ایک تعلق با اسماء اللہ ہوتا ہے، ایک اسماء اللہ کا تحقیق، ایک اسماء اللہ کے ساتھ تخلق، یہ جو آخری ہے یہ بڑا و انچادر جد ہے۔

ف:۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ آنحضرت کے اخلاق مبارکہ بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن اسی سے وفور علم حضرت صدیقہ کا معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک جملہ میں سارا تصور سمودیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عملی قرآن پاک تھے، یعنی یہ جو قرآن شریف ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تو علمی قرآن ہے اور آنحضرت ﷺ عملی قرآن پاک تھے، اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا با خلاق اللہ۔

حضرت شاہ صاحب محض مدرس حدیث کے نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے ساتھ تعلق بھی تھا حدیث کا تحقیق بھی آپ میں تھا اور آپ کو حدیث کے ساتھ تخلق بھی نصیب تھا یہ بہت بڑی بات ہے، ذلک فضل اللہ یو تیه من یشاء۔

☆.....ایک دفعہ غالباً ۱۹۵۳ء کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا عطاء اللہ

شاہ صاحب ملتان سے لاکل پور تشریف لائے، ایک مکان پر ان کی دعوت چائے تھے اختر بھی مدعا تھا اختر بھی حاضر ہوا، ملاقات پر حضرت شاہ صاحب کی باتیں ہونے لگیں میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب

فرماتے ہیں

قہوہ ہمد را نرد انور  
دار چینی ز نعت پیغمبر

یہ شعر سنتے ہی مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب پھر کے گئے کہ اس سے  
معلوم ہوا کہ حمد خدا پوری ہی نہیں ہوتی جب تک نعت رسول نہ کہی جائے۔

تمت بالخير

والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله تعالى على خير خلقه  
محمد وآلـه وأصحابـه وأهـل بيـته أجمعـين.

محمد عطا اللہ انوری قادری لاکپوری

۹ / ذوالحجہ ۱۳۸۷ھ مطابق ۹ مارچ ۱۹۶۸ء